

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
كَمَدِينِ مَنْ مَاتَ مِنْتَ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ

ايزو منان تحفہ عجايب وهدية غرايب الی اللہ
مقبول باگا شاہ کوئین حضرہ مسکتی بہ

صَلَاةُ الرَّسُولِ

الجزء الخامس والعشرون

فِي شُرُودِهِ وَمَشْرُودِهِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت خواجہ خوجکان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِشَاهِدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بظیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو شاہد و گواہ ہے

وَبِشْهُودِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اور بظیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شہود اور موجودگی کے اور بظیفیل بسم اللہ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرحمن الرحیم کے جو مشہود و معلوم ہے۔ تمام شانیں اللہ پروردگار عالمین کے لیے ہیں جو غایت رحمت والا

الرَّحِيمِ مُلِكُ يَوْمِ الدِّينِ

مہربان ہے۔ روز جزاء کا مالک ہے۔ اے ان صفات کمال والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے

نَسْتَعِينُ

توفیق طلب کرتے ہیں۔ ہمیں چلا راہ راست پر۔ راہ ان لوگوں کی

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔

إِلَهِي أَحْيِ رُوحِي بِحَيَاةِ أَبَدِيَّةٍ وَمَتِّعْ سِرِّي بِسِرِّكَ فِي

اے اللہ میری رور کو زندہ فرما حیات ابدی کے ساتھ اور نفع اندر دنیا میرے باطن کو اپنے لڑ مخفی کے ساتھ

الْحَضْرَاتِ الشُّهُودِيَّةِ وَالْمَشْهُودِيَّةِ بِالْمَعَارِفِ الرَّبَّانِيَّةِ

بارگاہائے شہود و شہود و مشہود و مشہود میں معارف ربانیہ کے ساتھ

وَأَطْلِقْ لِسَانِي بِالْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ اللَّهُمَّ لَا تُبَدِّلْ رَجَائِي

اور میری زبان کو روانی بخش علوم دینیہ کے ساتھ۔ اے اللہ نہ تبدیل و منکسر فرما میری امید کو

بِحُرْمَةِ مَحْبُوبِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بظیفیل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و عزت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي

فرا سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے حدیث قدسی میں

الْقُدْسِيِّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ

فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ابن آدم بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا اس کو دشمن سمجھو

فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا وَافْتَقُوا الْيَوْمَ الَّذِي تَحْشَرُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

پس تمہرو اس دن سے جس میں تم جمع کئے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے حضور

فَوَجَّافُوجًا وَتَقْوَمُونَ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ صَفًّا صَفًّا وَتَقْرَعُونَ

فوج در فوج اور کھڑے ہو گے اس کے سامنے صف بستہ۔ اور پڑھو گے

الْكِتَابَ حَرْفًا حَرْفًا وَتُسْأَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ سِرًّا وَ

اپنے نامہ اعمال کو حرف بحرف اور تم سے باز پرس کی جائے گی اس کے متعلق جو کرتے ہو خفیہ اور

جَهْرًا ثُمَّ يُسَاقُ الْمُتَّقُونَ إِلَى الْجَنَّاتِ وَفِدَاءً وَفِدَاءً

علانیہ پھر روانہ کئے جائیں گے متقی لوگ جنتوں کی طرف گروہ در گروہ

وَالْمُجْرِمُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرُدًّا وَرُدًّا كَفَاكُمْ مِنَ اللَّهِ

اور مجرمین جہنم کی طرف یکے بعد دیگرے وارد ہونے والی جماعتوں کی صورت۔ کافی ہے تمہیں اللہ تعالیٰ سے

وَعُدًّا وَوَعِيدًا فَإِنِّي أَنَا الرَّبُّ فَأَعْرِفُونِي وَأَقْصِدُونِي

از روئے وعدہ نواب اور وعید عقاب کے (یہ فرمان) پس تحقیق میں ہی رب ہوں لہذا مجھے پہچانو اور میرا قصد کرو

وَأَنَا الْمُنْعَمُ فَاشْكُرُونِي وَأَنَا الْغَفَّارُ فَاسْتَغْفِرُونِي وَأَنَا

میں ہی منعم حقیقی ہوں لہذا میرا شکر ادا کرو اور میں ہی بخشنے والا ہوں لہذا مجھ سے مغفرت طلب کرو اور میں

الْمَقْصُودُ فَاقْصِدُونِي وَأَنَا الْعَالِمُ بِالسِّرِّ إِذْ فَاحْذَرُونِي

ہی مقصود ہوں لہذا میری طرف قصد کرو اور میں ہی قلبی اسرار کو جانتے والا ہوں لہذا مجھ سے محتاط رہو

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ

فرمایا اللہ تعالیٰ نے "گو اسی دی اللہ نے کہ ہمیں معبود برحق مگر وہی اور تمام ملائکہ

وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۗ إِنَّ

اور تمام اہل علم نے درآئیا لیکہ اللہ عدل کو قائم کرنے والا ہے، نہیں معبود برحق مگر وہی عزت والا، حکمت والا

الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَبَشَّرَ كُلَّ مُحْسِنٍ بِالْجَنَّةِ وَالْمَسْكِينِ

بیشک (مقبول) دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور نیشارت دے دیجئے ہر نیکو کار کو جنت کی اور گنہگار

هَالِكٌ ۗ وَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ فَطَاعَهُ نَجِيًّا وَمَنْ عَرَفَ الشَّيْطَانَ

تباہ حال ہیں۔ اور جس نے اللہ کو پہچانا پس اس کی اطاعت کی تو وہ نجات پا گیا اور جس نے شیطان کو پہچان لیا

فَعَصَاهُ سَلِيمٌ ۗ وَمَنْ عَرَفَ الْحَقَّ فَاتَّبَعَهُ آمِنٌ ۗ وَمَنْ عَرَفَ

پس اس کی نافرمانی کی تو وہ محفوظ رہا اور جس نے حق کو پہچانا پس اس کی اتباع کی تو امن پا گیا اور جس نے آخرت کو

الْآخِرَةَ فَطَلَبَهَا وَصَلَ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اللَّهُمَّ

پہچانا پس اسے طلب کیا تو وصل پا گیا، بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جسے ہدایت دینا چاہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي الْقُدْسِيِّ مَنْ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے حدیث قدسی میں فرمایا جو شخص

اهْتَمَّ لِلرِّزْقِ فَقَدْ شَكَّ كِتَابِي وَلَمْ يُصَدِّقْ أَنْبِيَائِي

تکرمند ہوا رزق کے لیے تو اس نے میری کتاب میں شک کیا اور میرے انبیاء کی تصدیق نہیں کی

وَمَنْ كَذَّبَ أَنْبِيَائِي فَقَدْ جَحَدَ سُرْبُوبِيَّتِي الْقَاهُ فِي النَّارِ

اور جس نے میرے انبیاء کو جھٹلایا تو اس نے میری ربوبیت کا انکار کیا، میں اسے پھینکوں گا آتش دوزخ

عَلَى وَجْهِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

میں اس کے منہ کے بل۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

قَالَ فِي الْقُدْسِيِّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ اجْعَلْ

حدیث قدسی میں فرمایا " فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اے ابن آدم بنا اپنے

قَلْبِكَ مُوَافِقًا لِّلْسَانِكَ وَلِسَانَكَ مُوَافِقًا لِّعَمَلِكَ

دل کو اپنی زبان کے موافق اور زبان کو عمل کے مطابق

وَعَمَلِكَ خَالِصًا مِنْ غَيْرِي فَإِنَّ الْغِيُورَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا

اور عمل کو خالص کر میرے غیر سے کیونکہ غیرت مند قبول نہیں کرتا مگر

خَالِصًا فَإِنَّ الْمُنَافِقَ وَافِقَ لِبِسَانِهِ وَلِسَانُهُ لِعَمَلِهِ

خالص کو کیونکہ منافق نے اپنی زبان سے موافقت کی اور اس کی زبان نے اس کے عمل کی

وَعَمَلُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ مَا تَكَلَّمْتَ

مگر اس کا عمل غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ابن آدم تو نہیں بولتا

بِكَلِمَةٍ وَلَا نَظَرْتَ بِنُظْرَةٍ وَلَا خَطَوْتَ بِخَطْوَةٍ إِلَّا مَعَكَ

کوئی لفظ اور نہیں دیکھا ایک نظر اور نہیں چلتا ایک قدم مگر تیرے ساتھ

مَلَكَانَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَشْهُودٍ

دو فرشتے ہوتے ہیں جو تیرے حق میں گواہ ہوتے ہیں یا تیرے خلاف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما گواہ بنا لے ہوئے

صَلْوَةٍ تَشْهَدُنَا بِهَا إِلَى شَهُودِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمَبِينِ بِشُهُودٍ

نبی پر ایسی صلوٰۃ کہ گواہ بنے تو ہمارا بظیفیل اس کے ملک حق مبین کی بارگاہ میں حاضری کے وقت شہادت و شاہد

شَهَادَةٍ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى شَاهِدٍ

اور شہود کی موجودگی کی صورت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما شاہد نبی

صَلْوَةٍ تَشْهَدُنَا بِهَا بِشَهَادَةِ أَسْرَارِ الْحَقِّ الْأَنْزَلِ وَ

پر کہ گواہ بنے تو ہمارا بظیفیل اس کے حق انزل کے اسرار کی شہادت اور

مُشَاهِدَةِ أَنْوَارِ السَّوَابِقِ الْأُولَى بِشَهَادَةِ إِنَّا أَرْسَلْنَا

سابق و اولین انوار کے مشاہدہ کے ساتھ ساتھ اس شہادت کے بے شک ہم نے بھیجا

إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى شَهِيدٍ

منہاری طرف رسول جو تم پر مطلع اور گواہ ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما گواہ اور مطلع نبی پر

صَلْوَةٍ تَشْهَدُنَا بِهَا شُهُودَنَا فِي مُشَاهَدَةِ عِرْفَانَ وَحُدَاةِ اللَّهِ

کہ گواہ بنا لے ہیں بظیفیل اس کے اپنے شہود کا اپنی وحدت کے عرفان کے مشاہدہ میں اور

وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ بِشَهَادَتِكَ وَشَهَادَةِ رَسُولِكَ

اور تو ہر شئی پر مطلع شاہد ہے ساتھ اپنی شہادت کے اور اپنے رسول کی شہادت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل سیدنا محمد پر جو کہ

بِحَقِّقَةِ وَأَسْطَةِ الْوُجُودِ وَالشُّهُودِ بَيْنَ الذَّاتِ وَسَائِرِ الْحَقَائِقِ وَ

اپنی حقیقت کے لحاظ سے واسطہ ہیں وجود اور شہود میں درمیان ذات باری تعالیٰ اور تمام مخلوقات کے اور

بِصُورَتِهِ الْمَظْهَرِيَّةِ غَايَةَ تَوَجُّهِ الْخَالِقِ وَعِنَايَتِهِ إِلَى الْخَلَائِقِ الْمَحْمُودِ

صورت ظاہرہ کے لحاظ سے غایت مقصود ہیں خالق کی مخلوقات پر توجہ اور عنایت کا جو حمد و ثنا کے لائق و مستحق ہیں

فِي الْمَلَكُوتِ وَالنَّاسُوتِ وَالْمَشْهُودِ فِي الْجَبَرُوتِ وَاللَّاهُوتِ الْبَيِّنِ الَّذِي

عالم روحانیت اور عالم جسمانیت میں اور گواہ بنائے ہوئے ہیں عالم جبر و تسلط میں اور جہان تجر و بے تعلق میں، ایسے ظاہر

هُوَ بَدْرٌ لِيَاكُلِي التَّعِينَاتِ شَهِيدٌ عَوَامِنَا رَسُولٌ صَاحِبُ النَّجْمِ مُجَلَّدٌ

کہ جو تعینات و تشخصات کی تاریک راتوں میں چود ہوگی کے چاند ہیں، ہم تمام کے حق میں گواہ، رسول ہیں۔ تاج والے اور

بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي الْقُدْسِيِّ الْمَالِ

صاحب جلال ہیں اللہ کے امر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما محمد کریم پر جنہوں نے حدیث قدسی میں فرمایا: اللہ کا فرمان ہے "مال

مَالِي وَأَنْتَ عَبْدِي وَمَالِكَ مِنْ مَّالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ

میرا ہے اور تو میرا عبد ہے اور نہیں تیرے لیے تیرے مقبوضہ مال سے مگر جو تو نے کھایا

فَأَقْبَلْتَ أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَبِعْتَ وَإِنَّهَا

پس فنا کیا اسے یا پہنا پس برسیدہ کیا یا صدقہ کیا پس بیچا (اللہ کے ہاتھ) اور تو

أَنْتَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ فَوَاحِدٌ لِيْ وَوَاحِدٌ لَكَ وَوَاحِدٌ بَيْنِي وَ

مرف تین اقسام پر ہے، ایک میرے لئے، دوسرا تیرے لیے اور تیسرا میرے اور تیرے

بَيْنَكَ فَأَمَّا الَّذِي لِيْ فَرُوحُكَ وَأَمَّا الَّذِي لَكَ فَعَمَلُكَ فَأَمَّا الَّذِي

درمیان مشترک ہے لیکن جو میرے لیے ہے تو وہ تیری روح ہے اور جو تیرے لیے ہے تو وہ تیرا عمل ہے لیکن جو

بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَهِنَّكَ الدُّعَاءُ وَمِنِّي الْإِجَابَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ

میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے تو وہ ہے تیری طرف سے دعا اور میری طرف قبولیت۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لے ابن

أَدَمَ الْمُلُوكُ يَدْخُلُونَ النَّارَ بِالْجُورِ وَالْعَرَبُ بِالْعَصْبَةِ وَالْعُلَمَاءُ

آدم بادشاہ آتش دوزخ میں داخل ہوں گے بسبب ظلم کے اور عرب بسبب عصبیت کے اور علماء

بِالْحَسَدِ وَالْفُقَرَاءُ بِالْكَذِبِ وَالتَّجَارُ بِالْخِيَانَةِ وَالْحِرَاتُ بِالْجَهَالَةِ

بسبب حسد کے اور فقراء بسبب کذب کے اور اہل تجارت بسبب خیانت کے اور کسان بسبب جہالت کے

وَالْعِبَادُ بِالرِّيَاءِ وَالْأَغْنِيَاءُ بِالْكِبْرِ فَإِنَّ مَنْ يُطَلَبُ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ

اور عبادت گزار بسبب ریاکاری کے اور اغنیاء بسبب تکبر کے تو کہاں ہیں جنت کے طلبکار۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ فِي الْقُدْسِيِّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا حدیث قدسی میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لے ابن

أَدَمَ مَلَائِكَتِي مُتَعَارِفُونَ لَكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِيَكْتُبُوا عَلَيْكَ مَا تَقُولُ

آدم میرے ملائکہ تم میں شب و روز یکے بعد دیگرے آئے والے ہیں تاکہ تم میں سے ہر ایک کے قول

وَتَفْعَلُ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ فَالسَّمَاءُ تَشْهَدُ مِمَّا رَأَتْ مِنْكَ وَالْأَرْضُ

اور فل کو لکھیں قلیل ہو یا کثیر تو آسمان گواہی دے گا اس کی جو اس نے تجھ سے دیکھا اور زمین

تَشْهَدُ عَلَيْكَ مِمَّا عَمِلْتَ عَلَى ظَهْرِهَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَشْهَدَانِ

تیرے خلاف گواہی دے گی اس کی جو تو نے اس کی پشت پر کیا اور آفتاب و ماہتاب گواہی دیں گے

عَلَيْكَ مِمَّا تَقُولُ وَأَنَا مُطَّلِعٌ عَلَى خَطَرَاتِ قَلْبِكَ وَلَا تَغْفُلُ

تجھ پر تیرے قول کی اور میں مطلع ہوں تیرے دل کے خیالات و اندیشوں پر بھی لہذا تو اپنے نفس سے

عَنْ نَفْسِكَ فَإِنَّ لَكَ فِي الْمَوْتِ شُغْلًا وَعَنْ قَرِيبٍ أَنْتَ رَاحِلٌ

غافل نہ ہو کیونکہ تیرے لیے موت کی مشغولیت ہے اور تو عنقریب کوچ کرنے والا ہے۔

وَكُلُّ مَا قَدَّمَ مِنْهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ حَاصِلٌ بِإِزِيدَةٍ وَنَقْصَانٍ وَ

اور جو کچھ تو نے نیرو شتر سے آگے بھیجا ہے وہ حاصل ہوگا تجھے بغیر کمی بیشی کے اور

تَسْتَوِي غَدًا مَا كُنْتَ فَأَعْلًا اللَّهُمَّ مِنْ اِشْتَدَّتْ فَاقَتَهُ وَ

تو پوری طرح وصول کرے گا کل کو جو تو نے کیا تھا۔ اے اللہ جس شخص کا فاقہ سخت ہو گیا اور

وَعَظْمَ جُرْمِهِ وَأَشْرَفَ عَلَى الْهَلَكَةِ نَفْسُهُ وَضَعْفَتْ قُوَّتُهُ وَ

جرم عظیم ہو گیا اور اس کا نفس ہلاکت کے قریب ہو گیا اور فوت و توانائی ضعف پذیر ہو گئی اور

قَلَّتْ حِيلَتُهُ وَمَنْ لَا يَتَّقُ بِشَيْءٍ مِّنْ حُسْنِ عَلَيْهِ وَعَمَلِهِ إِلَّا بِكَ

اس کی حیل سازی کم ہو گئی اور جو نہیں بھروسا کرتا اپنے علم و عمل کے حسن میں سے کسی پر مگر ساتھ تیرے

وَلَا يَجِدُ لِفَاقَتِهِ جَابِرًا وَلَا لِدُنْبِهِ غَافِرًا غَيْرَكَ وَلَا مُغِيثًا سِوَاكَ

اور نہیں پاتا اپنے فقر و فاقہ کے لیے پورا کرنے والا اور نہ اپنے گناہوں کا بخشنے والا مگر تجھی کو اور نہ فریاد رس تیرے سوا

هَرَبْتُ إِلَيْكَ مُعْتَرِفًا غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٍ عَنْ عِبَادَتِكَ بِأَسَاءًا

میں بھاگا ہوں تیری طرف اعتراف کرتے ہوئے بغیر نفرت کے اور تکبر کے تیری عبادت سے شدت و سختی میں مبتلا

فَقِيرًا مُسْتَجِيرًا وَأَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

فقر و فاقہ سے دوچار اور پناہ کا طلبگار ہونے کی حالت میں اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطریق کزنوہی اللہ ہے کہ میں معبود برحق

الْحَيَّانُ الْمَتَّانُ بَدَائِعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

مگر تو جو شفیق و محسن ہے۔ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، جلال و کرامت والا ہے

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِلَهِي أَنْتَ الرَّبُّ وَأَنَا الْعَبْدُ

غیب و شہادت کا جاننے والا، غایت رحمت والا مہربان۔ اے میرے اللہ تو رب ہے اور میں عبد ہوں

إِلَهِي وَأَنْتَ الْمَالِكُ وَأَنَا الْمَمْلُوكُ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنَا الذَّلِيلُ وَأَنْتَ

اے میرے اللہ تو مالک ہے اور میں مملوک ہوں۔ تو عزیز و غالب ہے اور میں حقیر و خاکسار اور تو

الْغَنِيُّ وَأَنَا الْفَقِيرُ وَأَنْتَ الْحَيُّ وَأَنَا الْمَيِّتُ وَأَنْتَ الْبَاقِيُّ وَأَنَا الْفَانِيُّ وَ

غنی ہے اور میں فقیر اور تو ہی زندہ ہے اور میں میت اور تو ہی باقی ہے اور میں فانی اور

أَنْتَ الْمُحْسِنُ وَأَنَا الْمُسِيءُ وَأَنْتَ الْغَفُورُ وَأَنَا الْمَذْنِبُ وَأَنْتَ الْكَرِيمُ وَ

تو ہی محسن ہے اور میں خطا کار اور تو ہی بخشنے والا ہے اور میں گناہگار اور تو ہی صاحب کرم ہے اور

أَنَا الْجَانِي وَأَنْتَ الرَّحِيمُ وَأَنَا الْخَاطِئُ وَأَنْتَ الْخَالِقُ وَأَنَا الْمَخْلُوقُ وَأَنْتَ

میں جرم پیشہ اور تو رحیم ہے اور میں صاحبِ مخطا اور تو ہی خالق ہے اور میں مخلوق اور

أَنْتَ الرَّازِقُ وَأَنَا الْمَرْزُوقُ وَأَنْتَ الْقَادِرُ وَأَنَا الْمُقَدَّرُ وَأَنْتَ

تو ہی رازق ہے اور میں رزق دیا ہوا اور تو ہی صاحبِ قدرت ہے اور میں زیرِ قدرت اور تو ہی

الْمُعْطِي وَأَنَا السَّائِلُ وَأَنْتَ الْأَمِنُ وَأَنَا الْخَائِفُ وَأَنْتَ الْقَوِيُّ وَأَنَا

عطا کرنے والا ہے اور میں سوالی۔ اور تو ہی امن دینے والا ہے اور میں خوفزدہ اور تو ہی قوی و توانا ہے اور میں

الضَّعِيفُ وَأَنْتَ الْبَاعِثُ وَأَنَا الْمَبْعُوثُ وَأَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا مَوْتَ

ضعیف و ناتواں اور تو ہی اٹھانے والا ہے (قبور سے) اور میں اٹھایا جانے والا، اور تو ہی وہ زندہ ہے کہ مر نہیں سکتا

وَأَنَا عَبْدُكَ سَوْفَ أَمُوتُ وَأَنْتَ الْخَلَّاقُ وَأَنَا الْمَخْلُوقُ وَأَنْتَ

اور میں تیرا بندہ ہوں جو مرجاؤں گا اور تو ہی سب کا پیدا کرنے والا ہے اور میں مخلوق ہوں۔ اور تو

أَحَقُّ مِمَّنْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ وَأَسْتَعِيثُ بِهِ وَسَأَلْتَهُ وَدَعَوْتَهُ وَرَجَوْتَهُ

زیادہ حق دار ہے ان تمام سے جن کے پاس میں نے اظہارِ رنج و الم کیا اور فریاد کی اور سوال کیا اور دعا کی اور

لَأَنَّكَ أَهْلٌ لِذَلِكَ يَا رَبِّ كَمْ مِّنْ مُّذْنِبٍ قَدْ غَفَرْتَ لَهُ وَكَمْ مِّنْ

امید وابستہ کی کیونکہ تو ہی ان امور کے لائق ہے، اے میرے رب تو نے بہتیرے گناہگاروں کو بخشا اور بہتیرے

مُسِيءٍ قَدْ تَجَاوَزْتَ عَنْهُ فَاغْفِرْ لِي وَتَجَاوَزْ عَنِّي اللَّهُمَّ يَا رَبِّ مُحَمَّدًا

سیاہکاروں سے درگزر فرما، لہذا مجھے بھی بخش اور مجھ سے درگزر فرما۔ اے اللہ اے رب محمد کے

وَأَلِ مُحَمَّدٍ أَعْطِ مُحَمَّدًا الدَّرَجَةَ وَالْوَسِيلَةَ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْإِقْبَاءِ

اور آل محمد کے محمد کریم کو عطا فرما درجہ اور وسیلہ کا مقام جنت میں بمع اپنی ملاقات کے

الَّذِي هُوَ كَاشِفُ الْغُمَّةِ وَدَافِعُ الظُّلْمَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَطِيفُهُ وَ

جو محبوب کہ الجھنیں دور کرنے والے اور ظلمت و تاریکی کو کافر کرنے والے ہیں اللہ کے امر اور مہربانی سے اور

أَسْأَلُكَ بِأَفْضَلِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا وَأَعْظَمِهَا وَأَبْجَحِهَا الَّتِي لَا يَتَّبِعِي

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے افضل ترین اور عظیم ترین اور کامیاب ترین سوال کے ساتھ کہ نہیں شایاں بندوں

لِلْعِبَادِ أَنْ يَسْأَلُوكَ إِلَّا بِهَا اللَّهُمَّ تَفَضَّلْ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ إِلَيَّ وَكُنْ

کے لیے کہ سوال کریں تجھ سے مگر ساتھ ان کے۔ اے اللہ مجھ پر فضل فرما اور میرے ساتھ احسان فرما اور میرا

لِي وَلَا تَكُنْ عَلَيَّ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِنَّكَ

طرفدار ہونا اور میرا مخالفت نہ ہونا۔ اے اللہ تو نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور بے شک تو

لَا تَخْلِفُ الْبَيْعَادَ اللَّهُمَّ فَرِّجْ هَمِّي وَاكْشِفْ غَمِّي وَأَهْلِكْ

وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اے اللہ میرے اندیشے دور فرما اور غم و الم ختم فرما اور میرے دشمن کو

عَدُوِّي يَا وَدُودُ اللَّهُمَّ يَا لَطِيفُ اغْنِنَا وَأَذِرْنَا بِحَقِّ لَطْفِكَ

ہلاک فرما اے ودود۔ اے اللہ اے لطیف ہماری فریادرس فرما اور ہمارا احاطہ فرما اپنے مخفی

الْخَفِيِّ إِلَهِي كَفَا عِلْمُكَ عَنِ الْمَقَالِ وَكَفَا كَرَمُكَ عَنِ السُّؤَالِ

لطف کے ساتھ اے میرے الہ کا کافی ہے تیرا علم ہماری زبان سے عرض حال سے اور کافی ہے کرم تیرا ہمارے سوال سے

بِرَحْمَتِكَ أَسْتَعِينُ اللَّهُمَّ بِحَقِّ سِرِّ هَذِهِ الْأَسْرَارِ وَبِحَقِّ كَرَمِكَ

میں تیری رحمت کے ساتھ فریادرس کی التجا کرتا ہوں۔ اے اللہ لطیف ان اسرار کے راز مخفی کے اور لطیف اپنے مخفی کرم کے

الْخَفِيِّ وَالْإِظْهَارِ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي وَتُهْلِكَ عَدُوِّي وَتَصَلِّبَنِي إِلَى

اور ظاہر کے کہ میری حاجت بر لائے اور میرے دشمن کو ہلاک کرے اور مجھے مراد تک

مُرَادِي وَتُدْفِعَ عَنِّي شَرَّ جَمِيعِ عِبَادِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ حَبِيبِكَ

واصل کرے اور مجھ سے تمام بندوں کے شر کو دور فرمائے۔ اے اللہ صلوات بھیج اپنے حبیب پر

مُظَهَّرِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَمَرَاتِ الرُّبُوبِيَّةِ وَمَنْ رَحِمَ بِهِ الْحَقُّ عَلَى عِبَادِهِ

جو تیری رحمانیت کا مظہر اور ربوبیت کا آئینہ ہیں اور جن کے لطیف اللہ نے اپنے بندوں پر رحم کیا

وَرَبِّ بِهِ الرَّبُّ الْمَطْلُوقُ حَقَائِقُ الْأَشْيَاءِ وَصُورُهَا وَهُوَ نُورٌ

اور تربیت فرمائی رب مطلق نے اشیاء کے حقائق کی اور ان کو صورتیں بخشیں اور وہ محبوب ایسے نور ہیں

يُهْتَدَى بِهِ إِلَى غَايَةِ مَرَاتِبِ الْإِيمَانِ وَقُدْوَةٌ يُقْتَدَى بِهِ فِي

کہ ان کے ساتھ ہدایت حاصل کی جاتی ہے ایمان کے انتہائی مراتب تک اور مقتداء ہیں کہ اقتداء کی جاتی ہے

سُؤْلُكَ طَرِيقَ الْوُصُولِ إِلَى أَقْصَى مَنَازِلِ الشُّهُودِ وَالْعِيَانِ

ان کے ساتھ اس راہ وصول پر چلنے میں جو پہنچاتی ہے شہود معاینہ کی آخری منازل تک

الَّذِي لَا يُمْكِنُ بغيرِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا

جو آپ کے بغیر کسی کے ساتھ ممکن نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے "بیشک ہم نے بھیجا آپ کو گواہ ہونے اور

مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا التَّوْمِنُوا بِاللَّهِ وَفِي الْقُدْسِيِّ قَالَ اللَّهُ يَا بَنِي آدَمَ

مبشر و نذیر ہونے کی شان کے ساتھ تاکہ ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ نے فرمایا اے ابن

لَوْ أَنَّ إِخْوَانَكَ وَجَدُوا رِيحَ ذُنُوبِكَ لَمَّا جَالَسُوكَ فَذُنُوبُكَ

آدم اگر تیرے بھائی تیرے گناہوں کی بدبو محسوس کرتے تو تیرے ساتھ نہ بیٹھتے تو تیرے گناہ

كُلَّ يَوْمٍ فِي الزِّيَادَةِ وَعَمْرُكَ فِي النُّقْصَانِ وَلَا تَهْدِمُ عُمْرَكَ فِي الْبَاطِلِ

ہر دن ترقی پر ہیں اور عمر تیری نقصان پذیر۔ اپنی عمر کو برباد نہ کر باطل

وَالْعَفْلَةِ فَإِنْ أَرَدْتَ الْمَزِيدَ فَاصْحَبْ أَرْبَابَ الْقُلُوبِ وَاحْذَرِ

اور غفلت میں اگر تو مزید کا طلب گار ہے تو ارباب قلوب کی صحبت اختیار کر اور دنیا داروں سے

أَبْنَاءَ الدُّنْيَا وَخَالَطْ بِالْمُسْكِينِ

پرہیز کر اور مسکینوں کے ساتھ میل جول رکھ

وَبِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَالرَّاغِبِينَ

اے اللہ! بظہیر اپنے در کے سوالیوں کے اور اپنی طرف رغبت والوں کے

إِلَيْكَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ إِلَيْكَ وَالْمُتَعَوِّذِينَ بِكَ وَالْمُتَضَرِّعِينَ إِلَيْكَ

اور طالبان مغفرت کے اور پناہ پھیلنے والوں کے اور اپنی طرف زاری کرنے والوں کے

وَالْمُتَوَسِّلِينَ لَدَيْكَ وَبِحَبِيبِكَ أَرْجُبُ دَعْوَتِي وَأَقْضِ حَاجَتِي بِجُرْمَةٍ

اور اپنے اہل توسل کے اور بظہیر اپنے حبیب مکرم کے میری دعوت قبول فرما اور میری حاجت بر لا بظہیر

حَبِيبِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اپنے حبیب کی عزت و حرمت کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ! صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طُورَ تَجَلِّيَاتِ الْجَلَالِ وَيَا قُوَّةَ تَاجِ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب تجلیات جلال کے کوہ طور اور محاسن جمال کے

مَحَاسِنِ الْجَمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

تاج کا بیش قیمت یاقرت اور جوہر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ أَنْسَانَ عَيْنِ الْمَظَاهِرِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

پر جو محبوب مظاہر الہیہ کی آنکھ کی پتلی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَطِيفَةَ تَرَوْحَاتِ الْحَضْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ

محمد و آل محمد پر جو بارگاہ قدسیہ کی راحتوں اور تسکینوں کا ستر لطیف ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَدَادِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو وجود و

الْأَمْدَادِ وَجُودِ الْجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

توال کے وجود کا مادہ اور جو ہر زیادت و اضافہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاحِدِ الْأَحَادِ وَسِرِّ الْوُجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی آل محمد پر جو محبوب بہتے روزگار اور سر وجود ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَإِسْطَةِ عَقْدِ السُّلُوكِ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو سلوک کے بار کا قیمتی جوہر

وَشَرَفِ الْأَمْلَاقِ وَالْمُلُوكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور مائیکہ اور شہنشاہوں کا سرمایہ فضل و شرف ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَدْرِ الْمَعَارِفِ فِي سَمَوَاتِ الدَّقَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل محمد پر جو معارف کے ماہتاب ہیں دقائق کے آسمانوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ الْعَوَارِفِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور عطیات و فیوضات کے آفتاب ہیں

فِي عُرُوشِ الْحَقَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

حقائق کے عرشوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ اور

أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِأَبْكَ الْأَعْظَمِ وَصِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ الْأَقْوَمِ

آل محمدؐ پر جو تیرے عظیم دروازے اور تیری طرف سچے والی سیدھا مضبوط راستہ ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَرَقَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ و آل محمدؐ پر جو (ہدایت کی) چمکتی بجلی

الذَّامِعِ وَنُورِكَ السَّاطِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور تیرا غالب نور مجسم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ و

عَلَى أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْنَاكَ الَّذِي هُوَ فِي كُلِّ قَلْبٍ سَلِيمٍ

آل محمدؐ پر جو محبوب تیرا معنی اور راز مخفی ہیں ہر قلب سلیم میں

طَالِعٍ مِّنْ سِرِّ سِرِّكَ الْمُنْزَهَةِ وَالسَّارِي فِي جُزْئِيَّاتِ الْعَالَمِ وَ

جو طلوع فرما ہیں تیرے منزہ سرالاسرار سے اور سراپت و نفوذ فرماتے والے ہیں تمام عالم کی جزئیات و

كُلِّيَّاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أٰلِ سَيِّدِنَا

کلیات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ و آل محمدؐ پر

مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ الْخَلِيفَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَأَشْرَفِ الصُّوْرِ الْجِسْمَانِيَّةِ

جو افضل ترین انسانی خلیفہ ہیں اور انتہائی افضل و شرف والی صورت انسانی (والے) ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ و آل محمدؐ پر جو

الْأَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ وَخَزَائِنِ الْعُلُومِ الْإِصْطِفَائِيَّةِ اللَّهُمَّ

اسرار ربانیہ کی کان اور چیدہ و مخصوصہ علوم کے خزانے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِحَرِّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمدؐ و آل محمدؐ پر جو سمندر ہیں



الْعُظْمَةُ الرَّبَّانِيَّةُ وَبِرَّ الْأَسْرَارِ إِلَهِيَّةُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ

عظمتہائے ربانیہ کا اور صحراء بسیط ہیں اسرار الہیہ کا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطریق

مِيمٍ حَمْدِكَ أَنْ تُخْرِجَ مِيمٍ الْمَعْنَى الْمَحِيطُ لِكُلِّ مَا فِي الْإِمْكَانِ مِنْ

اپنی حمد کے ميم کے کونہ ہر فرمائے ميم اس معنی کا جو محیط ہے جملہ اشیاء امکانیہ کو خواہ

الْمَوْجُودَاتِ الْحَسِيَّةِ وَالذَّهْنِيَّةِ وَالْعَيْنِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ وَالْقَلْبِيَّةِ وَ

موجودات محسوسہ ہوں یا ذہنیہ اور خارجہ ہوں یا عقلیہ اور قلبی ہوں

الْقَالِبِيَّةِ مُنَاجَاةً تُقَرِّبُنِي بِهَا نَجِيًّا وَتُقِيمُنِي بَيْنَ يَدَيْكَ مَكَانًا عَلِيًّا وَ

یا جسما فی بطور ایسی مناجات و پہلائی کے کہ قریب فرمائے اس کے سرگوشی کی حالت میں اور مجھے کھڑا کرے ایسے حضور میں بلند

تَجْعَلُنِي بِكَ قَادِرًا مَلِيًّا اللَّهُمَّ يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَسَتَرَ عَلَى الْقَبِيحِ

مکان پر اور بنائے مجھے قادر اور غنی ساتھ اپنی توفیق کے۔ اے اللہ اے کہ جس نے میرے جمیل کو ظاہر فرمایا اور قبیح

يَا مَنْ لَا يُؤَاخِذُ بِالْجُرَيْرَةِ وَلَا يَهْتِكُ السِّتْرَ يَا عَظِيمَ الْعَفْوِ يَا حَسَنَ

پر پردہ ڈالنے والا۔ ایک جو نہیں مواخذہ کرتا جرم پر اور نہیں پھاڑتا پردہ کو۔ اے عظیم عفو و درگزر والے اور اے اچھی

التَّجَاوُزِ يَا بَاسِطَ الدِّينِ بِالرَّحْمَةِ يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى يَا مُنْتَهَى كُلِّ

درگزر والے۔ اے دین کو رحمت کے ساتھ پھیلانے والے۔ اے ہر سرگوشی میں شریک۔ اے ہر اظہار رنج و الم کے

شَكْوَى يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَا مَنْ رَفَعَ

منتہی اے کرم کے ساتھ درگزر والے۔ اے وسیع مغفرت والے میرے گناہ بخش۔ اے کہ جس نے عرش کو بلند فرمایا

الْعَرْشِ وَيَا مَنْ وَضَعَ الْقُرْشَ وَنَصَبَ التُّعْشَ وَوَصَلَ الْقَوْلَ وَكَتَبَ

اے کہ جس نے فرش زمین کو پھیلایا اور نصب فرمایا قطب شمالی کے قریب چار ستاروں کو اور قول کو متصل فرمایا اور کتاب نازل

الْكِتَابَ وَأَنْزَلَ الْمِيزَانَ وَخَلَقَ الرَّحْمَ وَاسْتَفَّهَا مِنَ الرَّحْمَانِ سُبْحَانَ

لکھوائی میزان کو نازل فرمایا اور رحیم کو پیدا کیا اور اُن کو اپنے اسم رحمن سے مشتق فرمایا۔ پاک ہے

مَنْ سُبُوْحٌ قُدُّوسٌ طَهَّرَ النَّفْسَيْنِ مِنَ الرُّؤْمِ وَالْبُهْتَانِ وَنَوَّسَ

جو سبوح قدوس ہے پاک فرمایا دونوں سانسوں کو جھوٹ اور بہتان سے اور متور فرمایا دونوں

الْعَيْنَيْنِ بِالتُّورِ وَالْبُرْهَانِ وَأَرْسَلَ النَّفْسَ وَأَطْلَقَ فِي شَرْحِهِ اللِّسَانَ

آنکھوں کو ساتھ تور و برہان کے اور رہا کیا نفس کو اور آزاد فرمایا اس کی ترجمانی میں زبان کو

وَشَقَّ ظِلْمَةَ الْعَدَمِ بِالْوُجُودِ وَفَتَقَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نِعْمَةَ اللَّهِ اللَّهُمَّ

اور بھاڑا ظلمتِ عدم کو ساتھ وجود و تخلیق کے اور کھول دی سیدنا محمد پر اپنی ہر نعمت۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَعِدَ اللَّهُ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسم سعادت ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَعِدَ اللَّهُ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو اللہ تعالیٰ کی تلمار ہیں

اللَّهُمَّ مُسَجِّرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بِتَسْخِيرِ اللَّهِ اللَّهُمَّ

اے اللہ اے مسخر فرمانے والے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیانی حصہ کے ساتھ اپنی مخصوص تسخیر کے۔ اے اللہ

بِكَ فِي مَرَاتِبِ وُجُودِكَ وَشُهُودِكَ حَتَّى لَا أَشْهَدَ غَيْرَكَ

میں متعلق رہوں ساتھ تیرے تیرے مراتب وجود و شہود میں حتیٰ کہ نہ مشاہدہ کروں ماسوا کا

فَالْعَدْلُ أَمْرٌ وَالصِّدْقُ وَعُدَّةٌ وَالْمَنِيحِيُّ مَغْفِرَتُهُ وَ

پس سراسر عدل ہے اس کا امر اور سراپا صدق ہے اس کا وعدہ اور نجات دہندہ ہے مغفرت اس کی

الْمِيزَانُ عَدْلُهُ حُسُودِي مَغْلُوبٌ وَعَدُوِّي مَقْمُورٌ بِقَهْرِكَ يَا

اور میزان ہے (منظر) اس کی عدالت کا۔ میرے حاسد مغلوب ہوں اور دشمن مقمور ہوں ساتھ تیرے قہر کے اے

قَهَّارُ تَقَهَّرْتُ بِالقَهْرِ وَالْقَهْرُ فِي قَهْرِ قَهْرِكَ يَا قَهَّارُ يَا قَهَّارُ

قہار تر نے اظہار قہر فرمایا اپنے قہر خاص کے ساتھ اور قہر حقیقی تیرے قہر میں ہی ہے اے قہار اے قہار

يَا قَهَّارُ قَهْرُ أَعْدَائِي يَا جَبَّارُ يَا مُدَلِّجُ كُلِّ جَبَّارٍ عَيْنِي بِقَهْرِ عَزِيزِ

اے قہار میرے اعداء کو مقمور فرما۔ اے جبار۔ اے ذلیل کرنے والے ہر جبار معاند کے ساتھ ایسے قہر کے کہ غالب ہے

سُلْطَانِهِ يَا مُدَلِّجُ يَا نَقِيًّا مِنْ كُلِّ جَوْهَرٍ لَمْ يَرْضَهُ وَلَمْ يُخَالَطْ فَعَالَةٌ

غلیب و تسلط اس کا اے دولت دینے والے۔ اے کہ جو پاکیزہ ہے ہر جوہر سے تراں کو پسند فرمایا اور نہ آمیختہ ہوا اس کے



يَا تَقِيُّ قَتَلْتُ بِسَيْفِ اللَّهِ لَا يَلِافُ قَرِيْشٌ اَيْلًا فِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَ

افعال سے اے پاکیزہ قتل کیا میں نے (اپنے اعداء کو) ساتھ اللہ کی اس تلوار کے، تم ہے قریش ہے قریش کے جنت رکھنے کی

الصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۗ الَّذِي اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ

ان کے محبوب رکھنے کی سرودی اور گرمی کی رحمت کو پس چلبیسے کہ وہ عبادت کریں بیت کے رب کی جس نے انھیں کھلا یا

وَأَمْنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۗ وَمَا رَمِيَتْ اِذْ رَمِيَتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَفِيْعٌ يَّاقُوِيُّ

بھوک کے باوجود اور بے خوف کیا انھیں اسباب خوف کے باوجود اور نہیں مارا تم نے جیکہ تم نے مارا اور یقین اللہ نے مارا

يَا قَاهِرُ ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيْدِ اَنْتَ الَّذِي لَا يُطَاقُ اِنْتِقَامُهُ يَاقَاهِرُ

اے قوی۔ اے قاہر۔ اے سخت گرفت والے تو ہی وہ ذات ہے کہ جس کے انتقام کی طاقت کمی میں نہیں۔ اے قاہر

اِقْتَهُرُوا دَفْعُ اَعْدَائِيْ مِّنْ قَهْرِكَ وَاَنْتَ اَشَدُّ الْقَاهِرِيْنَ حَقٌّ

میرے اعداء پر قہر فرما اور انہیں دور فرما اپنے قہر کے سبب اور تو ہی سب قہر والوں سے شدید تر ہے۔ برحق ہے

حَقٌّ حَقٌّ يَّا حَمِيْدَ الْفِعَالِ ذَا الْمَنِّ عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِهِ بَلْطَفِهِ

برحق ہے برحق ہے۔ اے قابل ستائش افعال والے۔ اے تمام مخلوق پر احسان فرمائے والے اپنے لطف و کرم کے

يَّاحَمِيْدُ يَّا غِيَاثِيْ عِنْدَ كُلِّ كُرْبَةٍ وَّمُجِيْبِيْ عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ

ساتھ اے حمید۔ اے میرے فریاد رس وقت ہر ہر شانی کے اور قبول فرمانے والے وقت ہر دُعا کے

وَمَعَاذِيْ عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ وَّسَرَّاجَاتِيْ حِيْنَ تَنْقَطِعُ حِيْلَتِيْ يَّا

اور میری جائے پناہ وقت پر شدت کے اور مرکز امید جبکہ منقطع ہو جائیں گے میرے چلنے والے

غِيَاثِيْ بِحَقِّ كُلِّ عَبْدٍ مُّتَضَرِّعٍ مُّتَعَبِّدٍ لِّكَ فِيْ بَرٍّ اَوْ بَحْرٍ اَوْ سَهْلٍ

میرے فریاد رس لطیف اپنے ہر ناری کرنے والے عبادت گزار بندے کے منگلی میں ہے یا تری میں میدانی علاقہ میں ہے

اَوْ جَبَلٍ وَّادْعُوْا اِلَيْكَ دُعَاءَ مَنْ اَسْتَدَّتْ فَاَقْتَهُ وَعَظْمُ

یا پہاڑوں میں اور میں دُعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں مانند دُعا اس شخص کے جس کا احتیاج سخت ہو گیا اور اس کا ہر دم عظیم ہو گیا

جُرْمُهُ يَّاعَلِيُّ بِاَسْمَاءِ عَلِيٍّ اَبُو تَرَابٍ حَيْدَرٌ جَلِيٌّ ذِكْرِيْ مَكِّيٌّ

اے بلند مرتبت مولیٰ لطیف حضرت علی کے ان اسماء کے۔ ابو تراب حیدر۔ روشن پاکیزہ علی بطحائے مکہ والے

أَبْطَحِي رَضِي مُرْتَضَى مُجْتَبَى مَقْبُولُ اللَّهِ فُخَيْرٌ شَجَاعٌ مَا دِنٌ

پسندیدہ۔ محل رضا۔ منتخب۔ مقبول الہی۔ صاحب اختیار۔ شجاع۔ ثابت قدم

عَامِلٌ مُؤْمِنٌ طَاهِرٌ طَيِّبٌ عَاشِقٌ أَمِيرٌ أَسَدُ اللَّهِ أَفْتَحُ سَعِيدٌ

عمل حسن والے۔ مومن کامل۔ طاہر و طیب۔ عاشق و امیر اور اللہ کے شیر۔ بہت فتوحات والے سعید

مَسْعُودٌ خَلِيلٌ نَاصِرٌ رَوْفٌ حَافِظٌ جَوَادٌ قَائِمٌ أَمِينُ اللَّهِ ط

مسعود۔ خلیل۔ ناصر و مددگار۔ مہربان۔ حفاظت فرماتے والے۔ صاحب جود۔ حق قائم کرنے والے اللہ کے امین

قَوَامٌ رَاكِعٌ سَاجِدٌ صَائِمٌ عَابِدٌ زَاهِدٌ تَقِيٌّ قَاسِمٌ سَالِمٌ وَرِيٌّ

بہت قیام کرنے والے۔ صاحب رکوع و سجدہ۔ روزہ دار۔ عبادت گزار۔ زاہد۔ پرہیزگار تقسیم فرماتے والے۔ سلامتی والے

اللَّهُ عَالِمٌ حَكِيمٌ جَمِيلٌ كَامِلٌ كَمَالٌ غَازِيٌّ مُحْتَرَمٌ حَرْدِيٌّ وَرَقِيٌّ

اللہ کے ولی۔ عالم۔ صاحب حکمت۔ صاحب جمال۔ کامل۔ کمال جسم۔ غازی۔ واجب الاحترام۔ شدید سرد ہوا کی مانند اٹھنے والے مقام

عَزِيْزٌ اللّٰهُ مُخْبِرٌ مَسِيحٌ مَبْجَدٌ سَرْمَدٌ مَكْبَرٌ قَارِيٌّ مُجِيبٌ مُجِيبٌ

اللہ کے عزیز اور پیارے۔ خبر دینے والے۔ مسیحا صفت۔ صاحب مجد اور بزرگی۔ دائمی (بطور نقار باللہ)۔ اللہ کی کبریائی بیان کرنے والے

نَصِيْبٌ مَّنْصُورٌ اللّٰهُ كَبِيْرٌ مَّكْرَمٌ عَادِلٌ بَازِلٌ سَخِيٌّ كَرِيْمٌ نَاصِحٌ

قاری قرآن عمدہ نسب و حسب والے۔ دعوت قبول کرنے والے۔ صاحب منصب۔ اللہ کی طرف سے مدد ملے ہوئے۔ بزرگتر صاحب کریم عادل

مُعَلِّمٌ دَاعٍ حَلِيْمٌ اللّٰهُ سَيِّدٌ مُّصَلِّيٌّ صَادِقٌ جَاهِدٌ وَحِيْدٌ مُّصَدِّقٌ

تربیح کرنے والے سخی کریم۔ مجلس تبلیغ دینے والے اللہ کی طرف سے علم و بشارت پانے والے۔ سرور کائنات۔ نمازی۔ صادق۔ مجاہد۔ یکتا۔ تصدیق کرنے والے

مُتَّصِدِقٌ رَاجِحٌ مُوَالِدٌ وَفِي اللّٰهِ مُوَالَاءٌ كَلِيْمٌ ضَابِطٌ حَاضِرٌ وَفِي آخِيٍّ

صدقہ کرنے والے۔ وفی شخصیت والے کثیر الاولاد و عمد خداوندی کو پورا کرنے والے۔ موالائے کل یکلم خدا۔ صاحب ضبط و تسلط۔ حاضر

مُصْطَفَى شَفِيْعٌ مَشْفَعٌ مُحَرَّمٌ نَقِيٌّ اللّٰهُ مُنْعَمٌ شَرِيْفٌ فَارِحٌ وَصِيٌّ

وقادار۔ مصطفیٰ کریم کے بھائی۔ شفاعت والے مقبول الشفاعت۔ حرمت والے۔ اللہ کے پاک کئے ہوئے۔ صاحب انعام۔ بزرگتر بھتی

زَاكِيٌّ حَيِيْبٌ مُّجْتَهِدٌ عَافِيٌّ ابْنُ عَمْرٍ رَسُوْلٌ اللّٰهُ وَرَجَالٌ اللّٰهُ وَ

نوشہنہ والے۔ اللہ کے وصیت کئے ہوئے۔ پاکیزہ۔ حبیب سنی و کوشش والے۔ عنود و درگزر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجاز زاد اللہ



مَحْبُوبُ اللَّهِ وَظُهُورُ اللَّهِ وَمَظْهَرُ الْعَجَائِبِ وَالْغَرَائِبِ بِالْقَهْرِ الرَّائِي

کے مردانِ عجب۔ محبوب اللہ۔ اللہ کی قدرتوں کے سبب انہور۔ عجائب و غرائب امور کے منظر ساتھ قہر و غلبہ کے بے شک میں

مَغْلُوبٌ فَاَنْتَصِرْ يَا نَصِيرُ اَنْصِرْنَا يَا حَقُّ تَحَقَّقْتَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ

مغلوب ہوں پس میری امداد فرما۔ اے نصیر و مددگار ہماری مدد فرما۔ اے حق تو یا بیدار ہے ساتھ حق کے اور حق

فِي حَقِّ حَقِّكَ يَا حَقُّ يَا كَرِيمٌ تَكْرَمْتُ بِالْكَرَمِ وَالْكَرَمُ فِي كَرَمِكَ

و حقانیت صرف تیرے حق میں ہی ہے اے حق۔ اے کریم تو کرامت و عزت والا ہے ساتھ کرم کے اور کرم وجود

يَا كَرِيمٌ يَا لَطِيفٌ تَلَطَّفْتَ بِاللُّطْفِ وَاللُّطْفُ فِي لُطْفِكَ

صرف تیرے ہی کرم میں ہے اے کریم۔ اے لطیف تو لطیف ہے ساتھ لطف و کرم کے اور لطف و کرم صرف تیرے لطف میں ہی ہے

يَا لَطِيفٌ يَا غَفُورٌ تَغْفِرُتَ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْمَغْفِرَةُ فِي مَغْفِرَتِكَ

اے لطیف۔ اے غفور تو نے اظہار کامل فرمایا مغفرت کا اور مغفرت تمام تر تیری ہی مغفرت و بخشش سے ہے

يَا غَفُورٌ يَا عَظِيمٌ تَعْظُمُتَ بِالْعَظْمَةِ وَالْعَظْمَةُ فِي عَظْمَتِكَ

اے غفور۔ اے عظیم تو عظمت کامل والا ہے ساتھ عظمت ذاتیہ کے اور عظمت حقیقی تیری ہی عظمت میں ہے

يَا عَظِيمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جُنُودُهُ بِجُنُودِهِ وَنُورُهُ

اے عظیم۔ اے اللہ صلوات کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کے شکر اللہ کے شکر ہیں اور نور

الْوُجُودِ بِوُجُودِهِ وَشَهَادَةُ شُهُودِهِ أَلَمْ تُشْهِدْهُ إِذَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَصْحَابِ

وجود اسی کا وجود ہے اور جن کا شہود و حضور اللہ کے شہود و حضور سے ہے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں

الْكِبْرِ وَالسَّحْرِ وَالْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ

منکبروں اور جادو گروں سے اور وسوسے ڈالنے والے شیطان سے جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں

النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ وَمِنَ الْبَلَاءِ وَالْآفَةِ وَالْعَاهَةِ وَ

نخواہ جنوں سے ہو یا انسانوں سے اور پناہ طلب کرتے ہیں بلاؤں و آفات اور عیوب سے اور

اعْتَصَمْتُ بِكَ يَا اللَّهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْأَهْرَكَنِ

میں نے تھمنا حاصل کیا ساتھ تیرے اے اللہ اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جن و انس کے شر سے اور بدو مشرور

وَالشَّيَاطِينِ وَالْجُنُودِ وَالْأَتْبَاعِ مِنْ أَفَّةٍ وَعَاهَةٍ بِحَقِّ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ

اور شیاطین اور ان کے لشکروں اور متبعین سے یعنی ہر آفت اور عیب سے بطفیل تمام انبیاء

وَالْمُرْسَلِينَ مِنْ أَدَمَ إِلَى حَضْرَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحَقِّ

و مرسلین علیہم السلام کے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور بطفیل

أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ الْعَفَّانِ وَعَلِيَّ بْنَ

حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ

أَبِي طَالِبٍ وَسَيِّدِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ وَسَيِّدَةِ

اللہ عنم اور سیدہ الزہراء اور ابو عبد اللہ حسین اور سیدہ النساء

النِّسَاءِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَإِثْنَا عَشْرًا مَامًا وَأَرْبَعَةَ عَشْرَ مَعْصُومًا

حضرت فاطمہ الزہراء اور بارہ امامان روحانیت و ولایت کے اور چودہ معصومین کے

صَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ وَرِضْوَانُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَبِحَقِّ سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی اور رضامندی ہوں تمام کے لیے اور بطفیل حضرت سیدنا

أَبِي مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِي الدِّينِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے

وَبِحَقِّ كَهَيْجِ مَهْيِجِ كَهْ كَهَيْجِ جَوْجُوجِ مَرْخُوجِ مَرْخُوجِ مَهْجُوجِ

اور بطفیل حق و حرمت کیج میج کہکیج جو جو جوج مرخوج مرخوج مہجوج

وَبِحَقِّ أَلِخِ أَلِخِ زَجْرَ هَيْجُوجِ مَخُوجِ طَفْعَاجِ أَزْرِ الْأَحَاسِيسِ وَبِحَقِّ

اور بطفیل حق و حرمت ایخ ایخ زجر ہیجوج مخوج طفجاج ازہر انحاسیس اور بطفیل حق

دَانِيَالٍ وَبِحَقِّ أَيْخِ أَيْخِ وَأَرَشِ وَأَرَشِ وَنُورَشِ وَنُورَشِ وَ

دانیال اور بطفیل حق و حرمت ایخ ایخ و ارش و ارش و نورش و نورش اور

بِحَقِّ أَهْيَا أَشْرَاهِيَا أَهْيَا أَشْرَاهِيَا أَصْبَاغُوثُ تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ

بطفیل حق و حرمت اہیا اشراہیا اہی اشراہی اصباغوث توکلت علی الہی

بہرے

الَّذِي لَا بَدَايَةَ لَهُ وَلَا نِهَايَةَ لَهُ اسْتَجِبْ دُعَائِي يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ

جس کی نہ ابتداء ہے اور نہ انتہا میری دُعا کو قبول فرمائے فریادوں کے فریادوں کے

أَعْتَنِي مِنْ كُلِّ غَتٍّ وَغَرَّتٍ وَغَرَاثٍ يَا غِيَاثَ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ

میرے امداد فرما ہر ناموافق اور بھوکے اور تمام بھوکوں سے اے بارانِ رحمت . اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَبِيلَ اللَّهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب تیری طرف پہنچانے والا راستہ ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو سراپا

صِرَاطِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

راہ وصول ہیں اللہ کی طرف . اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

مُحَمَّدًا مَنَّةَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ

جو اللہ کا مجسم احسان ہیں . اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا هُدْيَةَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ

کی آل پر جو اللہ تعالیٰ کا مجسم ہدایہ ہیں . اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا خَيْرَةَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ

محمد پر جو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں . اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا مَنَحَةَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ

محمد پر جو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں . اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا الذِّكْرَ فِي اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا

محمد پر جو مجسم ذکر ہیں اللہ تعالیٰ کا . اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِيَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

و آل محمد پر جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں . اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَاكِمِ بِمَا أَرَاهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو حکم کرنے والے ہیں ساتھ اس کے جو انہیں اللہ سمجھے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّادِعِ بِمَا أَمَرَهُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو پوری قوت صرف کرنے والے ہیں اللہ کے امر

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی تعمیل میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

رِضْوَانِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

جو اللہ کی رضائے مجسم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ حَزْبِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر جو اللہ کی جماعت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نِعْمَةِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

محمد پر جو اللہ کی مجسم نعمت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَضْلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آل محمد پر جو اللہ کا فضل مجسم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِرَاةِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

و آل محمد پر جو محبوب آئینہ ذات الہی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ آيَةِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

محمد و آل محمد پر جو اللہ تعالیٰ کی آیت مجسمہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِلَّا بِرَبِّ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

محمد و آل محمد پر جو بہت نیکو کار ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِلَّا عِلْمَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب بہت علم والے ہیں ساتھ اللہ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِلَّا صَدَقَ فِي اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو اللہ کے حق میں بہت سچے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِلَّا عَلِيٌّ بِاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو بہت بلند شان ہیں بسبب اللہ تعالیٰ کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِلَّا عَلِيٌّ بِاللّٰهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو معنی ہیں بسبب عطاء الہی کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَ وَاِعْظَمًا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو ہمیں وعظ و نصیحت فرمانے والے

رَسُولٌ وَّرَسُولُهُ الْمُجْتَبِيُّ وَاَوَّلٌ وَّحَبِيبٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

رسول ہیں اور اس کے چنے ہوئے رسول اور سب سے مقدم اور حبیب اللہ ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِلَّا خَازِنِ لِمَالِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو خداوندی مال کے خازن ہیں۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِلَّا اَخْشَى اللّٰهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو

خَطِيْبٌ اَلْوٰفِيْنَ عَلٰی اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

خطیب و ترجمان ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں (روز محشر) حاضر ہونے والوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدَامِ صَدُقِ عِنْدَ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

محمد و آل محمد پر جو سچے قائم ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَزِيْزِ الْقَدْرِ عَلٰی اللّٰهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو عظیم قدر و منزلت والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُعْتَصِمِينَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو عصمت و تحفظ پانے والے ہیں ساتھ

بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَمْ يَزَلْ

اللہ تعالیٰ کے اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جن کی زبان ہمیشہ تروتازہ رہی

لِسَانُهُ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَدَّ أَدَاةَ مِنْ تُوْبِرِ ذَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل محمد پر کہ جس محبوب کا جوہر ذات عس و پر توہ سے ذات باری تعالیٰ کے نور کا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشَّكْلِ الَّذِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو کہ ایسی شکل و صورت (والے) ہیں

مَدَّ أَدَاةَ مِنْ كُنُوْبِرِ مَكْنُونِ سِرِّ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کہ اس کا جوہر و عنصر اللہ تعالیٰ کے اسرار کے مخفی خزانوں سے ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ التُّوْبِرِ قَدِيمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو اللہ تعالیٰ کے نور قدیم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُتَدَبِّرِينَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِينَ

ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

الْمُسْتَسْنِينَ بِسُنَّةِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جو کہ اللہ تعالیٰ کی سنت و طریقہ پر عمل پیرا ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَقِيرِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

محمد پر جو کہ (صرف) اللہ کی طرف محتاج ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور



إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَسْكِينٍ اللَّهُ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

آل محمد پر جو اللہ کے حضور مسکین کا اظہار کرنے والے ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَدِيعِ فِطْرَةِ اللَّهِ اللَّهُ صَلِّ وَ

محمد پر اور آل محمد پر جو اللہ تعالیٰ کی انوکھی تخلیق والے ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَمَالِ رِضْوَانِ اللَّهِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو کہ رضائے الہیہ کا جمال مجسم ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حِمَايَةِ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو اللہ تعالیٰ کے

رِذْوَانِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

ذین کی مجسم حمایت ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِلَىٰ الدَّالِّ إِلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

محمد پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی فرماتے والے ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَاتِمِ اسْرَائِرِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد و آل محمد پر جو مخفی رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسرار کو۔ لے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلَّذِي فِي ذِكْرِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو ہمیشہ ذکر الہی میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

رہنے والے ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ سِيَّافِ عُنُوقِ اَعْدَاءِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اَقْطَعْ اَجَلَ اَمَلِ

پر جو اللہ کے دشمنوں کی گردنیں کاٹنے والے ہیں۔ لے اللہ قطع فرما میرے دشمنوں

اَعْدَائِي وَشَتَّيْتُ اللَّهُمَّ شَمْلَهُمْ وَاَمْرَهُمْ وَفَرَّقْ جَمْعَهُمْ

کی آرزوں کی مدت اور پراگندہ کر لے اللہ ان کے اجتماع اور معاملہ کو اور ان کی جمعیت کو پراگندہ فرما

وَقَلْبٌ تَدْبِيرُهُمْ وَبَدَلُ أَحْوَالِهِمْ وَنَكْسُ أَعْلَامِهِمْ وَكَلِّ

اور ان کی تدبیر کو الٹ دے۔ اور احوال کو تبدیل فرما اور ان کے پرچموں کو پست فرما اور ان کے ہتھیار کو کھنڈ فرما

سَلَا حَهُمْ وَقَرَبُ أَجَالِهِمْ وَتَقْصُ أَعْمَارِهِمْ وَزَلْزَلُ أَقْدَامِهِمْ

اور ان کی اموات قریب فرما اور عمریں کم فرما اور ان کے قدم پھسلا اور ڈگمگا دے

وَعَيِّرْ أَفْكَارَهُمْ وَخَيِّبْ أَمَالَهُمْ وَخَرِّبْ بَنِيَانَهُمْ وَأَقْلِعْ أَثَارَهُمْ

اور ان کے فکروں میں تغیر و تبدیل پیدا فرما اور ان کی آرزوئیں ناتمام فرما اور ان کی آبادیاں ویران فرما اور ان کے نام و

حَتَّى لَا تَبْقَى لَهُمْ بَاقِيَةٌ وَلَا يَجِدُوا لَهُمْ وَاقِيَةً وَأَشْغَلْهُمْ بِأَبْدَانِهِمْ

نشان اٹھڑ دے حتیٰ کہ نہ باقی بچے ان کا کوئی اور نہ پائیں اپنے لیے بچانے والا۔ اور مشغول فرما انہیں اپنے بدنوں

وَأَنْفُسِهِمْ وَأَدْمُهُمْ بِصَوَاعِقِ انْتِقَامِكَ وَأَبْطِشْ بِهِمْ بَطْشًا

اور نفسوں کے ساتھ اور پھینک ان پر اپنے انتقام کی بجلیاں اور گرفت میں سے انہیں سخت گرفت

شَدِيدًا وَأَوْخِذْهُمْ أَخْذًا عَزِيزًا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ

کے طور پر اور پکڑ انہیں غالب کی گرفت کی مانند، بیشک تو ہر شئی پر کامل دسترس والا ہے اے اللہ

لَا أَمْنَهُمْ وَلَا أَرْفَعَهُمُ إِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نَحْوِهِمْ

میں نہ انہیں روک سکتا ہوں اور نہ ان کا دفاع کر سکتا ہوں مگر ساتھ تیری توفیق کے۔ اے اللہ ہم بناتے ہیں تجھے ان کے سینوں میں

وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ يَا مَلِكُ يَوْمَ الدِّينِ ط إِيَّاكَ نَعْبُدُ

یعنی مقابلہ میں اور تیری پناہ طلب کرتے ہیں ان کی شرارتوں سے اے روز جزا کے مالک تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور

إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ط عَلَيْهِمْ فَدَمْرُهُمْ تَدْمِيرًا وَتَبِيرُهُمْ تَبِيرًا

تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں ان پر ہلاکت اور تباہی مسلط فرما

فَاَجْعَلْهُمْ هَبَاءً مَّنْشُورًا اللَّهُمَّ صَحًّا صَحًّا وَخَابِحًا

اور ان کو بنا دے بکھرے معمولی شعاعی ذرات کی مانند۔ اے اللہ صحت۔ عافیت۔ سلامتی۔ مضبوطی اور ثابت قدمی عطا

حَمًّا لَا يُبْصِرُونَ ط لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا

فرما۔ حُم نہیں دیکھ سکیں گے۔ اظہ نہیں دیکھ سکیں گے اور پیدا کر دی ہم نے ان کے آگے رکاوٹ

وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ط كَهَيْعَتِ

اور ان کے پیچھے رکاوٹ پس ہم نے ان کو بینائی سے محروم کر دیا لہذا وہ نہیں دیکھ سکتے۔ کھینچتے

حَمَسَقٍ لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ

مُحَسَّقٍ وہ نہ سر دکھائے جائیں گے اس سے اور نہ بیہودہ بولیں گے یا رب۔ یا رب۔ یا رب۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

نہیں قوت اور طاقت مگر ساتھ اللہ کی توفیق کے جو بلند شان اور عظمت والا ہے اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَفْضِلِ بِتَفْضِيلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو فضل و شرف پائے والے ہیں اللہ کے فضل و شرف دینے سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَكْرَمِ بِتَكْرِيمِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو کرامت و عزت دئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ

سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو اللہ کے محمد کئے ہوئے

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُرَادٍ

ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب اللہ کی مراد

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

مَوْصُوفٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

جو کہ اللہ کی طرف سے موصوف ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَيَّلْتَنَا إِلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

محمد پر جو ہمارے وسیلہ ہیں بارگاہ الہی میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَفِيعِنَا عِنْدَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد و آل محمد پر جو ہمارے شفیع ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ آمِينَ وَحَى اللَّهُ إِلَهُكُمْ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو اللہ کی وحی کے امین ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ عَرْشِ اللَّهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب نور ہیں عرش الہی کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو تمام مخلوق سے

الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بزرگتر ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ خَاتَمِ رُسُلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر جو کہ آخر الزمان ہیں تمام رسل و انبیاء صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ الْمَوْجُودَاتِ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو سب موجودات سے زیادہ شرف و فضیلت والے ہیں اللہ کے ہاں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَمَالِ خَلْقِ اللَّهِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو اللہ کی مخلوق کے جمال ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَمَالِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب سراپا جمال ہیں

وَجْهِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَبِيرِ أَنْوَارِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر جو اللہ تعالیٰ کے انوار میں سے بہت بڑے نور ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنْ طَهْرٍ رَوْحَةٍ عَمَّا سِوَى اللَّهِ

محمد و آل محمد پر جس محبوب کی روح کو اللہ نے پاک فرما دیا ماسوا اللہ سے



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جن سے

خَاطَبَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن نَادَاهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر جنہیں اللہ نے (ترالے انداز میں) پکارا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن كَلَّمَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

و آل محمد پر جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن عَظَّمَهُ اللَّهُ

فرمایا سیدنا محمد و آل محمد پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

مَن عَلَّمَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے (پرستی کی) تعلیم دی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن كَرَّمَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و کرامت بخشی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن عَزَّرَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد و آل محمد پر جن کی اللہ تعالیٰ نے تعظیم فرمائی۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن شَرَّفَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ

نازل فرمایا سیدنا محمد و آل محمد پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن وَصَفَهُ اللَّهُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جن کی اللہ تعالیٰ نے توصیف فرمائی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جن کو اللہ تعالیٰ

عَرَفَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نے معرفت عطا فرمائی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

مَنْ طَهَّرَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے پاک بنایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ مَنْ عَطَّرَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے معطر و خوشبودار بنایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ تَوَرَّاهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل محمد پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے متور فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ رَزَّاهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد و آل محمد پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ صَفَّاهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاف و ستھر بنایا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَعْطَاهُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہیں اللہ نے (بجود و حساب)

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ

عطا فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہیں

وَقَّاهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ نے بندوں تک پہنچایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے (مقام محمود کا) وعدہ فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور



اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ حَيْثُ اللهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آل محمد پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے نمایاں و ممتاز کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَاتِلِ كُفْرَةَ اللهِ اَللَّهُمَّ فَرِّجْ هَمِّيْ وَ

اور آل محمد پر جو اللہ تعالیٰ کے لیے کفار کو قتل کرنے والے ہیں۔ اے اللہ دور فرما میرے اندوہ کو اور

اَكْشِفْ غَمِّيْ وَالطُّفْ كُرْبَتِيْ اَللَّهُمَّ شَدِّتْ شَمْلَ اَعْدَائِيْ وَفَرِّقْ

ختم فرما میرے غم کو اور لطف و کرم فرما میری شدت و کرب پر۔ اے اللہ پرانندہ فرما میرے دشمنوں کے اجتماع کو اور متفق

جَمْعَهُمْ وَقَلِّبْ تَدْبِيْرَهُمْ وَخَرِّبْ بُدْيَانَهُمْ وَنَكِّسْ رِءُوسَهُمْ

فرما ان کی جمعیت کو اور الٹی فرما ان کی تدبیر اور خراب فرما ان کی تعمیرات کو اور اوندھے فرما ان کے سر

وَبَدِّلْ اَحْوَالَهُمْ وَذَلِّلْ اَجْسَامَهُمْ وَنَزِّلْ اَقْدَامَهُمْ وَقَرِّبْ

اور تبدیل فرما ان کے احوال اور ذلیل فرما ان کے جسم اور پھسلان کے قدم اور قریب فرما

اَجَالَهُمْ وَاشْغَلْهُمْ بِاَبْدَانِهِمْ وَخُذْهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ

ان کی موتوں کو اور مشغول فرما ان کے بدنوں کو اور گرفت فرما ان پر مانند گرفت غالب صاحب اقتدار کے

وَ اَهْلِكْهُمْ كَاَهْلَاكِ شَدَّادٍ وَاَغْرَقْهُمْ كَاَغْرَاقِ فِرْعَوْنَ يَا جَبَّارُ

اور ہلاک فرما انہیں مانند ہلاک فرمانے شہداد کے اور غرق فرما مانند غرق کرنے فرعون کے اے جبار

يَا قَهَّارُ يَا بَدِيْعَ الْعَجَائِبِ يَا خَيْرَ يَا بَدِيْعَ وَبِحُرْمَتِ يَا مُنْعَمُ

اے قہار۔ اے انوکھے عجائبات خیر والے۔ اے از سر نو پیدا کرنے والے اور بظہیل حرمت و عزت اپنے نام

يَا مُنْتَقِمُ وَصَلِّ اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

گراہی یا منعم۔ یا منتقم کے اور رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالیٰ سیدنا محمد اور ان کی تمام آل و اصحاب پر۔

اَللَّهُمَّ يَا حَفِيْظُ يَا رَقِيْبُ يَا كَافِيْ يَا كَفِيْلُ يَا بَاقِيْ يَا وَكِيْلُ

اے اللہ۔ اے حفیظ۔ اے نگران۔ اے کافی۔ اے کفیل و ضامن۔ اے باقی و دائم۔ اے وکیل

وَ اَفْوِضْ اَمْرِيْ اِلَى اللهِ اِنَّ اللهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ اَللَّهُمَّ صَلِّ

و کارساز اور میں سونپتا ہوں اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کو بیشک اللہ تعالیٰ تمام عباد کو دیکھنے والا ہے۔ اے اللہ



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَرْحَمِيِّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب کر نبی امی ہیں

وَعَلَىٰ كُلِّ مَلَكٍ وَنَبِيٍّ مُّرْسِلٍ وَوَلِيٍّ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ

اور ہر فرشتہ اور ہر نبی مرسل پر اور ہر ولی پر اور برکتیں اور سلامتی عطا فرما ان پر

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسِرِّ الذَّاتِ وَبِذَاتِ السِّرِّ هُوَ أَنْتَ وَ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطریق ستر ذات کے اور ذات ستر کے وہ تیرا منظر ہے اور

أَنْتَ هُوَ أَحْتَجِبُ بِنُورِ اللَّهِ وَبِنُورِ عَرْشِ اللَّهِ وَبِكُلِّ اسْمِ

تو اس میں ظاہر ہے۔ میں نے حجاب و پردہ حاصل کیا ساتھ اللہ کے نور اور اللہ کے نور عرش کے اور ساتھ اللہ کے

اللَّهِ مِنْ عَدُوِّي وَعَدُوِّ اللَّهِ بِمِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ لَحَوْلٍ وَلَا قُوَّةَ

بہر نام کے اپنے ہر دشمن سے اور اللہ کے ہر دشمن سے بطریق کروڑوں لاکھوں ولا قوتہ

إِلَّا بِاللَّهِ خَتَمْتُ عَلَىٰ نَفْسِي وَعَلَىٰ أَهْلِي وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ

الّا باللہ کے۔ میں نے مہر لگائی اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر اور اللہ کی عطا کردہ ہر شئی پر

رَبِّي بِخَاتَمِ اللَّهِ الْمَنِيعِ الَّذِي خَتَمَ بِهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مَا كَانَ

ساتھ اللہ کی بلند شان مہر کے جس کے ساتھ اس نے آسمانوں اور زمین پر مہر لگائی۔ نہیں ہیں

مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رَّبِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

محمد تمہارے کسی مرد کے باپ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری نبی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِسَلَامِكَ

صل اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں

عِزْرًا أَيْبَلِ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي يَا ذَنَ اللَّهِ

بطریق عزرائیل فرشتہ کے۔ میں توجہ کرتا ہوں تیرے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی ہر حاجت میں اللہ کے اذن سے

لِتَقْضِيَ لِي اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ اللَّهُمَّ يَا فَارِجَ الْهَمِّ وَكَاشِفَ

تا کہ وہ پوری کی جائے اے اللہ سے میرا شفیع بنا۔ اے اللہ اندوہ کے دور کرتے والے اور غم کو



الْعَمَّ فَرَجَ هَبِيَّ وَكَشَفَ عَنِّي بِحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ وَأَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ

مٹانے والے دور فرما میرا اندرہ اور مٹا میرا غم بطفیل بسم اللہ کے اور اپنے انبیاء اور

رُسُلِ اللَّهِ وَبِحَقِّ كَلَامِ اللَّهِ وَأَيَاتِهِ وَبِحَقِّ كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَ

مرسلین کے اور بطفیل اللہ کے کلام اور اس کی آیات کے اور بطفیل اللہ کی کتابوں اور رسولوں کے

بِحَقِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ الْأَمِينِ وَبِحَقِّ وَاحِدِ الْقَيُّومِ يَا قَاهِرُ

اور بطفیل ملائکہ اور روح امین کے اور بطفیل اپنے اسم واحد و قیوم کے۔ اے قاہر

ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ أَنْتَ الَّذِي لَا يُطَاقُ انْتِقَامُهُ يَا قَهَّارُ يَا

سخت گرفت والے تو ہی ہے جس کے انتقام کی کسی میں طاقت نہیں۔ اے قہار۔ اے

قَهَّارُ تَقَهَّرْتَ بِالْقَهْرِ وَالْقَهْرُ فِي قَهْرٍ قَهْرًا يَا قَهَّارُ اللَّهُمَّ

قہار تو نے قہر کا اظہار فرمایا اور قہر حقیقی تیرا قہر ہی ہے اے قہار۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبِيدِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل سیدنا محمد پر جو آقا کفار

الْكَافِرِينَ وَقَاتِلِ الْمُشْرِكِينَ تَحَصَّنْتَ بِذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ

کو تباہ کرنے والے اور مشرکین کو قتل کرنے والے ہیں۔ میں نے تحفظ حاصل کیا عالم مسوسات اور عالم روحانیت کے

وَبِذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ

مالک کا اور عزت و غالبہ والے کا اور میں نے بھروسہ کیا اس ابدی حیات والے پر جو نہ سوتا ہے

وَلَا يَمُوتُ وَدَخَلْتُ فِي حَرْبِ اللَّهِ وَفِي حِفْظِ اللَّهِ وَفِي أَمَانِ

اور نہ اسے موت آسکتی ہے اور داخل ہوا میں اللہ کی حفظ و پناہ اور اس کی امان میں

اللَّهُ بِحَقِّ فَضْلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَأَنْتَ الْمُحْمَدِيُّ

بطفیل اللہ کے فضل کے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل محمد کے اور تو ہی محمود ہے

وَبِحَقِّ عَلِيٍِّّ وَأَنْتَ الْأَعْلَى وَبِحَقِّ فَاطِمَةَ وَأَنْتَ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور بطفیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور تو ہی بلند تر شان والا ہے اور بطفیل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اور تو ہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور



وَبِحَقِّ الْحَسَنِ وَأَنْتَ الْمَحْسِنُ وَالْحُسَيْنُ وَأَنْتَ قَدِيمُ الْإِحْسَانِ

زمین کا اور بطفیل حضرت حسن کے اور تو ہی محسن ہے اور بطفیل حضرت حسین کے اور تو قدیم احسان والا ہے

وَبِحَقِّ تَسْعَةِ الْمُعْصُومِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ اسْتَجِبْ

اور بطفیل نو معصومین کے جو حسنین رضی اللہ عنہما و عنہم کی اولاد سے ہیں قبول فرما

دُعَانَا وَاقْضِ حَاجَاتِنَا بِحُرْمَتِ جَمِيعِ الْمُعْصُومِينَ وَالْمَظْلُومِينَ

ہماری دعا کو اور پورا فرما ہماری حاجات کو بطفیل عزت تمام معصومین اور مظلومین کے

الْمَكْرُوبِينَ كَرِيْلَاءِ الْمُعَلَّى يَا عَالِي الْمَعَالِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پریشان حالان کر بلاء معلى کے اے بلند مراتب والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ مَدَّحَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر اور آل محمد پر جن کی اللہ نے روح و ثناء فرمائی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ وَصَلَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد و آل محمد پر جس آقا کو اللہ نے اپنا وصل عطا کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ وَالْكَمَلَةَ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ

سیدنا محمد و آل محمد پر جس محبوب کو اللہ نے تحیم بخشی اور کامل اکمل بنایا اور محبوب بنایا

اللَّهُ وَأَنَارَهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَرْشَدَهُ اللَّهُ وَأَعْظَمَهُ اللَّهُ وَأَشْرَفَهُ

منور فرمایا اور محب بنایا اور صاحب ارشاد بنایا اور عظیم بنایا اور شرف

اللَّهُ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ وَأَسْرَهُ اللَّهُ وَأَوْرَعَهُ اللَّهُ وَفِي أَصْطَفَاءِ

افضل بنشأ اور غالب و منصور فرمایا اور زاہد و پرہیزگار بنایا اور جنہیں ساری مخلوق میں سے

اللَّهُ وَمَهْبِطُ وَحْيِ اللَّهِ مَظْهَرُ لُطْفِ اللَّهِ حَافِظُ حُدُودِ اللَّهِ نَاصِرُ

چن لیا اور نزول وحی کا محل بنایا جو اللہ کا مظہر لطف، اللہ تعالیٰ کی حدود کے محافظ امر خداوند تعالیٰ کی

أَمْرِ اللَّهِ نَاصِرُ دِينِ اللَّهِ سَاتِرُ عِيُوبِ عِبَادِ اللَّهِ قُدْوَةٌ لِلَّهِ صَفْوَةٌ

نشر و شاعت والے۔ دین الہی کے مددگار۔ اللہ کے بندوں کے عیوب پر پردہ دینے والے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قائد خلقی اللہ



اللَّهُ مِنْ ابْتِغَاءِ اللَّهِ مِنْ اتِّقَاءِ اللَّهِ مَنْ أَتَى عَلَيْهِ اللَّهُ الْكِبْرَ خَلَقَ

کے پسندیدہ و مخلص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ جنہیں اللہ نے متقی بنایا۔ جن پر اللہ نے تناء فرمائی۔ جو اللہ کی سب مخلوق

اللَّهُ أَجْسَمُ خَلَقَ اللَّهُ أَرْتَى خَلَقَ اللَّهُ اسْتَحَى خَلَقَ اللَّهُ أَنْوَرَ خَلَقَ اللَّهُ

سے بڑے ہیں اور سب مخلوق الہی سے حسین صورت والے۔ سب مخلوق سے زیادہ ترقی والے۔ سب مخلوق سے زیادہ سخی

أَمْدَحَ خَلَقَ اللَّهُ أَحْسَنُ خَلَقَ اللَّهُ مِنْ أَوْصَفَ بِوَصْفِ اللَّهِ أَرْفَعُ

سب مخلوق سے زیادہ شہور۔ سب مخلوق سے زیادہ لائق مدح۔ سب مخلوق سے زیادہ حسین جو اللہ کے اوصاف کے ساتھ متصف (بطور عکس و پرتو) مخلوق

خَلَقَ اللَّهُ أَقْرَبُ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ لَفَى لَدَى اللَّهِ أَجْوَدُ خَلَقَ اللَّهُ أَوْسَعُ

باری سے بلندتر۔ تمام انبیاء سے اللہ کے ہاں قریب تر منزلت والے۔ مخلوق خدا سے جماد ترین، مخلوق الہی سے

خَلَقَ اللَّهُ أَرْحَمُ خَلَقَ اللَّهُ أَوْلُ خَلَقَ اللَّهُ أَعْلَى خَلَقَ اللَّهُ

قوی ترین۔ مخلوق الہی سے رحیم ترین۔ مخلوق الہی میں اول ترین۔ مخلوق الہی سے پاکیزہ ترین

أَعْظَمُ مَنْ سَلَّ اللَّهُ أَحْقَلُ خَلَقَ اللَّهُ أَتَقَى خَلَقَ اللَّهُ أَعْلَى خَلَقَ اللَّهُ

رسل اللہ سے عظیم ترین۔ اللہ کی تمام مخلوق سے جامع ترین تمام مخلوق سے زیادہ متقی، تمام مخلوق سے برتر

أَعْرَفُ خَلَقَ اللَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ أَفْخَرُ خَلَقَ اللَّهُ أَعَزُّ خَلَقَ

تمام مخلوق سے عارف ترین۔ تمام مخلوق سے اللہ کے محبوب ترین۔ تمام مخلوق سے زیادہ لائق فخر۔ سب مخلوق سے عزیز

اللَّهُ أَصْدَقُ خَلَقَ اللَّهُ أَحْلَى خَلَقَ اللَّهُ أَفْصَحُ خَلَقَ اللَّهُ أَعْظَمُ خَلَقَ

ترین تمام مخلوق سے زیادہ سچے۔ تمام مخلوق سے شہین ترین۔ تمام مخلوق خداوند تعالیٰ سے فصیح ترین۔ تمام مخلوق الہی سے

اللَّهُ أَطْيَبُ خَلَقَ اللَّهُ مَوْصُوفٌ بِأَصْطَفَاءِ اللَّهِ طَيِّبَانَ الْعِبَادِ

عظیم تر تمام مخلوق الہی سے پاکیزہ تر۔ اللہ کے انتخاب سے موصوف۔ لے بندوں کو جزا دینے والے (جب)

كُلُّ يَقُومُ خَاضِعًا لِرَهْبَتِهِ وَرَغْبَتِهِ أَقْبَنِي فِي صُفُوفِ الْكِرَامِ

ہر ایک قائم ہوگا محض و انکساری کی حالت میں اس کے خوف عقاب اور رغبت ثواب کی وجہ سے قائم فرمایا مجھے بزرگوں محو کاروں

الْبِرَّةِ رَأْيًا بَعَيْنِ الشُّهُودِ مِنْ هَيْبَتِكَ وَجَلَالِكَ خَاضِعًا لِقَلْبِهِ وَ

کی صفوں میں جبکہ دیکھنے والا ہوں سر کی آنکھ سے تیری ہیبت و جلالت کو فروغی کرتے والا ہوں اپنے دل کے لیے

مُتَضَرِّعًا لِنَفْسِهِ عِنْدَ لَمَعَانِ أَنْوَارِ أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ وَارْكَزْ

زاری کرنے والا اپنے نفس کے لیے وقت چمکنے تیرے اسماء و صفات کے انوار کے اور ثابت فرما میری رغبت کو در آنجا لیکر بھیجنے

الرَّغْبَةَ مُتَبَتِّئًا مِّنْ سِرِّي فِي رُوحِي فَيَسْجُدُ قَلْبِي طَائِعًا مَّا اِغْبَامَعُ

والی ہو میرے لطیف ستر سے روح میں پس سجدہ کرے میرا دل خوشی و رغبت کے ساتھ جمع پہانے عبودیت کے جو لائق

عِرْفَانِ الْعِبُودِيَّةِ اللَّائِقَةِ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ فَأَعْرِفُ الْمَلَكُوتَ مَعَهُ

ہے اس کے نفس اور غیر کے پس میں پہچان لوں عالم روحانیت کو جمع

الْأَذْكَارِ الْمُنَاسِبَةِ لِهَيَاكِلِهِمْ وَالْأَسْمَاءِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي نَفْسِهِمْ صَادِرَةٌ

ان اذکار کے جو مناسب ہوں ان کے ہیکل و جسموں کے اور اسماء کے جو مؤثر ہوں ان کے نفوس میں جیکہ صادر ہونے والے ہوں

مِنْهُمْ الْآثَارُ وَالْبَدَائِعُ بِإِجَادِ الْآثَارِ الْمُتَحَدِّدَةِ الصَّادِرَةِ مِنَ الْآثَارِ

ان سے آثار اور عجائب بسبب پیدا کرنے جدید آثار کے جو سرزد ہونے والے ہوں آثار کلیہ

الْكَلِيَّةِ الْمَوْهُوبَةِ بِهَا يَتَصَرَّفُونَ فِي الْأَنْوَارِ الْفَرَعِيَّةِ اللَّائِي هِيَ

عظائیر سے جیکہ تصرف کرتے ہوں ان فروعی انوار میں جو

كِسْوَتُهُنَّ فَيَتِمَّ اسْكُنَ فِي أَرِيِّ مِثَالِ قَدَّرَ لَهِنَّ بِالنُّورِ الْمَغْطِيُّ

ان کا لباس ہیں پس وہ متناسل رہیں ہر اس جسم مثالی میں جو ان کے لیے مقدر کیا گیا ہو ڈھانپنے والے نور سے

حَتَّى لَا يُغَيَّرَ أَصْلُهُمْ وَهَيَاكِلُهُمُ الْجِبِلِّيَّةُ فَيَفْعَلُونَ وَيَنْقَادُونَ

حتیٰ کہ نہ تبدیل ہوں کا اصل جو ہر اور جبلی ہیکل پس افعال انجام دیں اور تابعداری کریں

بِأُصُولِهِمْ عِنْدَ الْأَنْوَارِ الْبَرَّاقَةِ الْخَطَافَةِ عِنْدَ لَمَعَانِهَا أَبْصَارُ

اپنے اصول کی وقت ان چمکنے والے انوار کے جو لپٹنے والے ہیں اپنی چمک کے وقت عالم محسوس والوں کی

أَصْحَابِ الْمَلِكِ فَلَا يَسْتَطِيعُ عِنْدَ ظُهُورِهَا طَاقَةُ الْبَشَرِ أَنْ يَتَحَدَّلَهَا

آنہیں پس نہیں طاقت رکھتی ان کے ظہور پر طاقت بشری ان کے برداشت کرنے کی نہیں

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ فِي حَقِّ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِكَ الْمُقَرَّبِينَ الْكَامِلِينَ فِي

اگر چاہے اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں میں سے کسی کے حق میں جو

نَفْسِهِمُ الْمَكِيدِينَ بغيرِهِمْ لِامْتِلَاءِ الْحَوَاسِ بِشُعَاعَاتِ الْأَنْوَارِ عِنْدَ

ذات خود کامل ہوں غیروں کی تکمیل کرنے والے ہوں بسبب بھرپور ہونے ان کے حواس کے بسبب انوار کی شعاعوں کے وقت

الْأَذْكَارِ وَالِدَعَوَاتِ لِلشُّهُودِ إِلَهِي نُورِكَ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ فَتَوَرَّقَلِي

افکار اور دعوات شہود کے۔ اے میرے الٰہ تیرا نور محیط ہے ہر شئی کو پس منور فرما میرے دل

وَسِرِّي مُسْتَعِدًّا مُنْعَمَسًا فِي التَّجَلِّيَّاتِ الَّتِي هِيَ تَجَلِّيَّاتٌ قَاهِرَةٌ

اور لطیفہ سیر کو در آنحالیکہ وہ آمادہ ہو اور غوط لگانے والا ہوں تجلیات میں جو کہ قاہر تجلیات ہیں

مُحَرِّقَةُ الْأَجْزَاءِ بِلِ مَوْصَلَةٍ وَمُرْشِدَةٌ وَمُصَاحِبَةٌ وَتَشْكَلُهُ بِصُورِ

اور اجزاء کو جلا ڈالنے والی ہیں بلکہ واصل کرنے والی اور رہبری و رفاقت سے مشرف کرنے والی ہوں اور انسانی صورتوں

إِنْسَانِيَّةٍ فَاتَلَدُ عَلَيَّ وَجْهَ الْإِسْتِعْرَاقِ فِي مُشَاهَدَةِ اللَّهِ فَادْخُلْ

میں ڈھلنے والی ہوں پس میں لذت اندوز ہو جاؤں اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ میں استعراق کے طور پر پس داخل ہو جاؤں

فِي نُورٍ مِّنَ الْأَنْوَارِ فَأُقِيمُ فِي السُّبْحَاتِ وَالسُّرَادِقَاتِ بِالسِّرِّ وَالرُّوحِ

عظیم انوار میں سے ایک نور میں پس قیام کروں تجلیات ذات اور سراپردہ ذات میں ساتھ لطیفہ سیر اور روح کے

بِحَيْثُ يَرَانِي شَخْصِي وَبَدَانِي ذَلِكَ السِّرُّ وَالرُّوحُ فِي إِنْجَادَاتِ

اس حیثیت سے کہ خوش منظر سمجھے میرا شخص اور بدن اس لطیفہ سیر اور روح کو ان کششوں میں جو قبول

الْقَابِلَةِ لِتِلْكَ الْأَنْوَارِ الْعَالِيَةِ مَجْعُولًا مَطَاعًا هَنِئًا مَرِيئًا شَاكِرًا

کرنے والی ہیں ان انوار عالیہ کے لیے اطاعت گزار، خوشگوار اور شکر

صَابِرًا مُسَبِّحًا أَمِينٌ يَا خَالِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ

و صابر اور تسبیح خواں بنائے جانے کی حالت میں آمین۔ اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین والوں کے

إِلَيْهِ مَعَادَةٌ أُخْلِقُنِي فِي الْأَخْلَاقِ الْمَحْمَدِيَّةِ الْمُتَّصِفَةَ بِهَا أَوْلِيَاكَ

سبھی کی اسی کی طرف بازگشت ہے مجھے پیدا فرما اخلاق محمدیہ پر جن سے موصوف ہیں تیرے اولیاء

وَقَدْ خَلَقْتَ مَا فِي السَّمَوَاتِ مِنَ الْأَرْوَاحِ وَالْأَنْوَارِ الْمُتَكَيِّفَةِ

اور تو نے ہی پیدا فرمایا ہے جو آسمانوں میں ہیں ارواح و انوار جو متکئیف ہیں ان

بِكَيْفِيَّاتٍ تَأْتِيهِ مِنْ صُورٍ عَلَيْهِتِكَ عَلَىٰ إِرَادَتِكَ بِالسُّبِيحِ

کیفیات کے ساتھ جو پیدا ہونے والی ہیں تیری علمی صورتوں سے تیرے ارادہ کے مطابق ساتھ تسبیح

والتَّقْدِيسِ وَصَوْرُهَا بِأَحْسَنِ الْأَشْكَالِ بِحَيْثُ لَا تُؤْخَذُ وَلَا

و تقدیس کے اور تو نے انہیں صورت بخش حین ترین اشکال پر اس حیثیت کہ وہ نہ پھٹے جاتے ہیں نہ

تُقَطَّعُ وَلَا تَمُوتُ إِلَّا عِنْدَ إِرَادَتِكَ وَلَا يَغْلِبُ أَحَدٌ مِنَ السُّفْلِيَّاتِ

قطع کئے جاتے ہیں اور نہ مرتے ہیں مگر وقت تیرے ارادہ کے اور نہ غالب ہوتا کوئی مخلوق اسفل

وَالْعُلُويَّاتِ عَلَيْهَا إِلَّا هَيْبَتِكَ وَجَلَالِكَ فَتَسْتُرُهَا تَجَلِّيَاتُكَ

اور مخلوق بالا سے ان پر ماسوائے تیری ہیبت و جلال کے پس انہیں ڈھانپنے رہتی ہیں تیری تجلیات

حَتَّىٰ أَنْمَحَتْ التَّشْكَالَاتُ وَالصُّورُ الشَّخْصِيَّةُ الْمَفْرَدَةُ فَيُصِيرُ

حتیٰ کہ مٹ گئے ان کے تشکلات اور شخصی انفرادی صورتیں پس ہو جائیں گے

الْكُلَّ عَلَىٰ نَهْجٍ وَاحِدٍ كَلِّمِي مَنْ غَيْرِ تَمِيْزٍ وَلَا تَفْصِيْلٍ ثُمَّ إِذَا

سبھی ایک کلی انداز پر بغیر کسی امتیاز اور تفصیل کے پھر جب

تَعَلَّقَ قُدْرَتُكَ بِخَلْقِ الْهَيْئَاتِ وَالتَّشْكَالَاتِ مُتَمَيِّزَةً بَعْضُهَا

منعلق ہوگی تیری قدرت ہیئات و تشکلات کی تخلیق سے درآں حالیکہ ممتاز ہوں بعض ان کے

عَنْ بَعْضٍ فَكَذَلِكَ يَصِيرُ كُلُّ مَنْ قَلْبِي وَرُوحِي وَبَدَانِي رُوحًا

بعض سے تو ایسے ہی ہو جائیں گے ہر ایک میرے قلب و روح اور بدن سے مانند روح

وَإِحْدًا صَادِرًا مِنْهُ مَا يَصْدُرُ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا يَحْتَاجُ قَلْبِي

واحد کے سرزد ہوگا اس سے جو سرزد ہوتا ہے اس فعل والے عضو سے پس نہ محتاج ہوگا میرا قلب

إِلَىٰ إِحْضَارِ مُتَأَخِّرِينَ بِغَائِبَةٍ بَلْ مُسْتَمِرًّا بِالْفِعْلِ فِيهِ وَمِنْ

طرف حاضر کرنے کی بھیجے رہ جانے والوں کے حالت غیب میں بلکہ دائم ہوگا ساتھ فعل کے اس میں اور

نَفْسِي ذَاكِرَةً بَلْ فَأَعْلَىٰ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِي مَا تُرِيدُ فَعْلَهُ

مرزد ہوگا میرے نفس سے جبکہ وہ ذکر کرنے والا ہوگا بلکہ وہی کرنے والا ہوگا ہر جز میرے اجزاء سے جس کے کرنے کا تو ارادہ فرمائے گا

حَتَّىٰ يَصِيرَ سَمْعِي سَمْعَكَ وَبَصَرِي بَصْرَكَ وَسِرِّي سِرُّكَ الرَّحْمٰنُ اَنْتَ

حتی کہ ہو جائے گا میرا سننا تیرا سننا اور میرا دیکھنا تیرا دیکھنا اور میرا باطن و ستر تیرا باطن و ستر۔ اے اللہ تو

الْقَادِرُ عَلٰی اَنْ تَجْعَلَ السَّفَلٰی عَلُوًّا مَعَ الْاَثَارِ الْمَلَكُوْتِيَّةِ حَتَّىٰ يَجِبَةَ

قادر ہے اس پر کہ کر دے سفلی کو علوی بمع آثار ملکوتیہ کے یہاں تک کہ مجبور رکھے اسے

مَنْ فِي الْاَرْضَيْنِ السَّبْعِ اَللّٰهُمَّ سَخِّرْ لِي الْحَيَوَانَاتِ الْوَحْشِيَّةِ

ہر وہ جو ساتوں زمینوں میں ہے۔ اے اللہ میرے لیے مسخر فرما وحشی حیوانات کو

الْمُدْهَشَةِ بِاِبْقَاءِ الْحَبَّةِ فِيْ اَبْدَانِهَا وَالْاَنْسِيَّةِ فَنَدْرِكَ اَسْرَارَهَا

جو دہشت میں ڈالتے والے ہیں بسبب باقی رکھنے محبت اور انس کے ان بدنوں میں تاکہ ہم معلوم کر لیں ان کے

هَلْ هِيَ مُبَايِنَةٌ عَنَّا اَمْ مُمَاثِلَةٌ فَاَرِنَا الْاَشْيَاءَ كَمَا هِيَ ثُمَّ اَخْلُقْ فِيْ

اسرار کہ آیا وہ ہم سے مباہن ہیں یا مماثل پس دکھلا ہمیں اشیاء جیسے کہ واقع میں ہیں پھر پیدا فرما اس

ذِهْنٍ هَذَا الْعَبْدَ مَا يَنْظُرُ بِنُوْرِ الْبَصِيْرَةِ غَيْرَ قَائِلٍ خِلَافَ مَا يَخْطُرُ

عبد کے ذہن میں جو دیکھے ساتھ نور بصیرت کے بجیکہ نہ قائل ہو اس کے خلاف کا جو کھٹکے (اس کے دل میں)

عِنْدَ حَادِثَةٍ جَارِيَةٍ وَاِرْدَةِ مُوَافَقَةٍ اَوْ مُخَالَفَةٍ عَلٰی حَسْبِ هِدَايَتِكَ

وقت جاری اور وارد ہونے والے حادثہ کے موافق ہو یا مخالف مطابق تیری ہدایت کے

وَقَضَائِكَ اَللّٰهُمَّ صَيِّرْ قَلْبِي مَلَا حِظًا مَا فِي لَوْحِكَ حَتَّىٰ يَصِيْرَ

اور قضاء کے۔ اے اللہ بنا دے میرے دل کو ملاحظہ کرنے والا اپنی لوح محفوظ والی اشیاء کا حتی کہ ہو جائے

قَلْبِي لَوْحًا مِّنْ الْوَا حِكْ غَوَا طًا فِيْ اَنْوَارِكَ عَلٰی وَجْهِ الْهَرُوْرِ وَالتَّرْقِي

میرا دل تیری الواح میں سے ایک لوح غوطہ لگانے والا تیرے انوار میں گزرتے ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے

ثُمَّ الْحَقِيْ بِنُوْرِكَ الَّذِيْ هُوَ الْطَفُّ الْاَنْوَارِ الْمُرْتَبِيَّةِ الْمُوَصَّلَةِ وَاَلَا كَيْفَ

پھر مجھے لائق فرما اپنے نور کے ساتھ جو لطیف تر ہے تمام نظر آنے والے وصل بخش انوار سے۔ ورنہ کیسے

طَاقَتِيْ بِالْمَعْرِفِ الْقَهَّارِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِعَبْدِكَ الدَّاعِيَ اِلَيْكَ مِنْ

قدرت و طاقت ہے میرے لیے قہار کی معرفت کی۔ اے اللہ پیدا فرما اپنے اس مسائل عبد کے معہ

نُورٍ مَّعْدِيٍّ فَيَمْتَدُّ أَمْعَانِي وَعُرْوَتِي بِأَلْوَانِ أَيْتَاءِ الْعَرْشِ

میں ایسا نور کہ اس سے بھر جائیں میری انتریاں اور جگر اور تمام رگیں ساتھ انوار کے مانند بھر جائے عرش

بِهَافًا قَابِلُهُ رَأْسًا بِرَأْسٍ مِّنْ غَيْرِ حِجَابٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

ساتھ ان انوار کے پس میں اس کے مقابل ہر جانوں مکمل طور پر بغیر کسی حجاب کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ حَطِّ رَحْلٍ ذُنُوبِهِ فِي

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جس نے ڈال دیا اپنے گناہوں کا پالان ان کی

عَتَابَتِهِ غَفَرَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ اسْتَقَلَّتْهُ

جو کھٹ پر تو بخش دیا اسے اللہ تعالیٰ نے۔ اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں ہر گناہ سے قلیل سمجھا سے

فَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ فَاسْتَغْفِرُكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ

پس عظیم سمجھا صغیرہ سمجھا پس بڑا کبیرہ سمجھا میری جہالت نے مجھے اس بھنور میں ڈال اور ہر

ذَنْبٍ أَضَلَّتْ بِهِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ أَسَاتُ بِهِ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ بَرِيَّتِكَ

گناہ کے لیے کہ گمراہ کیا میں نے ساتھ اس کے تیری مخلوق میں سے کسی کو یا برائی کی میں نے ساتھ اس کے کسی مخلوق کے ساتھ

أَوْ زَيَّنْتُ لِي نَفْسِي أَوْ أَشْرْتُ بِهِ إِلَىٰ غَيْرِي أَوْ دَلَلْتُ عَلَيْهِ سِوَايَ أَوْ

یا اسے مزین کیا میرے نفس نے میرے لیے یا اشارہ کیا میں نے ساتھ اس کے دوسرے کو یا رہنمائی کی اپنے علاوہ کسی کی یا

أَصْرَمْتُ عَلَيْهِ بَعْدِي أَوْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ بِجَهْلِي وَلِكُلِّ ذَنْبٍ خُذْتُ

اس پر اصرار کیا بعد یا برقرار رہا اس پر اپنی جہالت سے اور ہر گناہ کے لیے کہ جس میں میں نے اپنی

فِيهِ أَمَانَتِي أَوْ حَسَدْتُ لِي نَفْسِي فَعَلَهُ أَوْ أَخْطَأْتُ بِهِ عَلَيَّ بَدَانِي أَوْ

امانت میں مچھانت کی یا حسین بنا یا میرے نفس نے اس کے فعل کو میرے لیے یا خطا کی ساتھ اس کے میں نے اپنے بدن پر یا

قَدَّمْتُ فِيهِ عَلَيْكَ شَهْوَتِي أَوْ كَثُرْتُ فِيهِ لَدَاتِي أَوْ سَعَيْتُ فِيهِ

مقدم ٹھہرایا میں نے اس میں تجھ پر اپنی خواہش نفس کو یا زیادہ ہوئی اس میں لذت میری یا کوشش کی میں نے اس میں

لِغَيْرِي أَوْ اسْتَغْوَيْتُ إِلَيْهِ مَن تَابَعَنِي أَوْ كَابَرْتُ فِيهِ مَن مَّا نَعْنِي

غیر کے لیے یا گمراہ کیا میں نے اس کی طرف اپنے متبعین کو یا مقابلہ کیا میں نے اس میں رکاوٹ ڈالنے والوں کا

أَوْ قَهَرْتُ عَلَيْهِ مَنْ غَالَبَنِي أَوْ غَلَبْتُ عَلَيْهِ بِحِيلَتِي أَوْ اسْتَزَلَّنِي

یا قہر و غضب کا اظہار کیا میں نے اپنے اوپر غالب آنے والوں پر اس میں یا غالب آیا میں اس پر اپنی حیلہ گری سے یا

إِلَيْهِ مَيْلِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ إِلَيْكَ مِنْ هَيْجَانِ الْحُرْصِ وَثَوْرَةِ

پھسلنا یا مجھے اسکی طرف میری رغبت ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں طرف تیرے حرص کی برا بھونٹکی سے اور

الْغَضَبِ وَالْحَسَدِ وَضَعْفِ الصَّبْرِ وَقِلَّةِ الْقَنَاعَةِ وَشِكَايَةِ الْخَلْقِ

غضب و حسد کے جوش اور صبر کے ضعف اور قناعت کی قلت اور مخلوق کی شکایت سے

وَالْحَاحِ الشَّهْوَةِ وَمَلَكَةِ الْحَمِيَّةِ وَتَعَاطِي الْكُلْفَةِ وَإِيثَارِ الْبَاطِلِ

اور خواہش نفس کے زنج کرنے سے اور حمیت و بیجا حمایت کے غلبہ سے اور تکلف کے ارتکاب اور باطل کو

عَلَى الْحَقِّ وَالْإِصْرَارِ عَلَى الْمَأْثِمِ وَالْإِسْتِصْغَارِ الْمَعْصِيَةِ وَالْإِسْتِكْبَارِ

حق پر ترجیح دینے سے اور گناہ پر اصرار سے اور معصیت کو حقیر سمجھنے سے اور اطاعت کو گراں

الطَّاعَةِ وَاتِّبَاعَاتِ الْمُكْثَرِينَ وَالْإِزْمَارِ بِالْمُقَدِّينَ وَسُوءِ الْوِلَايَةِ

سمجھنے سے۔ اور مالداروں کی اتباع سے اور فقراء کو حقیر سمجھنے سے اور اپنے

لِمَنْ تَحْتَ أَيْدِينَا وَتَرْكِ الشُّكْرِ لِمَنْ اصْطَنَعَ الْعَارِفَةَ عِنْدَنَا وَ

ماتحتوں پر برے تصرف سے اور نیک کرنے والوں کا شکر نہ کرنے سے۔ اور تیری پناہ طلب کرتے ہیں اس سے کہ ہم

نَعُوذُ بِكَ أَنْ تَنْطَوِي عَلَى غَيْشِ أَحَدٍ وَمِنْ سُوءِ السَّرِيرَةِ وَاحْتِقَارِ

اپنے اندر لئے ہوئے ہوں کسی سے کینہ اور برا اندرون و خیال اور صغیرہ کو حقیر

الصَّغِيرَةِ وَمِنْ تَنَاوُلِ الْإِسْرَافِ وَفَقْدَانِ الْكِفَافِ وَمِنْ شِمَاتَةِ

سمجھنے اور حد سے تجاوز و اسراف کے آ لینے اور کفاف و گزران کے معدوم ہونے اور اعداد کے

الْأَعْدَاءِ وَمِنْ الْفَقْرِ إِلَى الْإِكْفَاءِ وَمِنْ مَعِيشَةٍ فِي شِدَّةٍ وَمَيْتَةٍ

نوحش ہونے اور اپنے جیسے لوگوں کی طرف محتاجی سے۔ اور شدت و سختی کی زندگانی سے اور بغیر تیاری اور سامان کے

عَلَى غَيْرِ عُدَّةٍ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَسْرَةِ الْعُظْمَى وَالْمُصِيبَةِ الْكُبْرَى

اجانگ مرنے اور تیری پناہ طلب کرتے ہیں عظیم حسرت اور بڑی مصیبت

وَأَشَقَى الشَّقَاءِ وَسُوءَ الْمَبِيعِ وَحِرْمَانَ الثَّوَابِ وَحُلُولَ الْعُقُلِ

اور بدترین مشقت اور برے بیب سے اور ثواب کی محرومی سے اور دیت و ناکدان کے لزوم سے

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ هُلُوعِ النَّفْسِ وَمِنْ قُزُوعِ الْقَفْسِ وَمِنْ

اے اللہ مجھے محفوظ رکھنا نفس کے حرص اور بے صبری سے اور موت کی تاخیر سے اور

جُزُوعِ الْأَرْبَسِ وَمِنْ قُزُوعِ الْإِبْلَاسِ وَمِنْ مَقْعِ الْعَبُوسِ وَمِنْ

علامت و نفوت کی گھبراہٹ سے اور نامیدی و مایوسی کے ڈر اور اندیشہ سے اور غضبناک کے متھم ٹھہرانے سے

مُفْرِغِ الْعَقَاسِ وَمِنْ كَنْعِ الْإِنْتِكَاسِ وَمِنْ خَبِيعِ الْخَسِيسِ وَمِنْ

اور روندے بچھاڑے جانے کی گھبراہٹ سے اور اندھے ہونے بدنی پیوست اور خشکی سے اور کینہ کے داخل ہونے اور چھپنے

سَطْعِ النَّفِيسِ وَمِنْ سُوءِ الْفَنَسْفَاسِ وَأَعْطِنِي مِنْ مَقْتُوعِ الْقَمِيسِ وَ

سے اور مرغوب و نفیس کے بلند ہونے اور رسائی سے بالاتر ہونے سے اور انتہائی احمق کی برائی سے اور عطا فرما مجھے حرص و سبوح سمندر سے

كُرُوعِ الْقَلِيسِ وَكُرُوعِ الْقَمِيسِ وَطَبَاخِ الْقُدَاسِ وَنُبُوعِ الْقَلَّاسِ وَ

پینے کا اور منہ لگا کر حلق تک پینے کی قوت اور بلندی کمرے سمندر کی لہروں کی اور مقدس طبع و حرص اور برآمدگی بر مضمی والے طعام کی اور

كُنُوعِ النَّطِيسِ وَهَكُوعِ الثَّمَّاسِ وَنُسُوعِ الْقَتِيسِ وَنُوعِ النَّدَّاسِ وَ

حملہ آوری ماسر و محتاط کی اور سکون و ٹھنڈاؤ و راز دار کا اور کثرت و طوالت نسل کی اور بیاس و طلب زیر کی کی اور

نَشُوعِ الْقَوْمِشِ وَالْتِبْيَاعِ الْفَنَسِ وَنَزْمِيعِ الرَّسِيسِ وَزَمِيعِهِ وَزَمِيعِ

دواری نصلتوں کی اور چلنا شمع کی مانند اور پختگی عزم مائل کی اور اس کی اچھی رائے اور اللہ تعالیٰ کا اچھا ارادہ اور

اللَّهُ قَنِيهِ وَفَنَسِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

نورانیت عقل کی اور اللہ کی عطا کردہ نورانیت۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و

أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرِمِ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل محمد پر جو تمام مخلوق سے اللہ کے ہاں بزرگتر ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرمائیں

مُحَمَّدًا وَعَلَى أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّفْوَةِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد و آل محمد پر جو کہ تمام مخلوق سے چنے چنے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ اللَّهُمَّ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو اللہ کے تمام انبیاء سے بزرگتر ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَحْظَاهُمْ وَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو تمام انبیاء سے زیادہ نصیب والے اور

أَرْضَاهُمْ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْفَى

سب پسندیدہ تر ہیں اللہ کے ہاں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو اللہ کی

خَلَقَ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ خَلْقِ اللَّهِ

تمام مخلوق سے خالص و مخلص ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو اللہ کی تمام مخلوق سے اشراف ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو اللہ کے تمام انبیاء علیہم

أَنْبِيَاءِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

السلام سے افضل ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم رحمت ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُفْضَلِ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آپ کی آل پر جو اللہ کے ہاں فضیلت مآب ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو اللہ کے ولی اور دوست ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُعِينِنَا رَسُولِ وَالِدِ الرَّسُولِ

نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو ہمارے مددگار رسول ہیں۔ در یتیم نبوی

الْيَاسِينَ إِمَامِ أَمِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

یاسین۔ امام اور اللہ کے امین ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور



عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِلَّا مَرَّ بِمَعْرُوفٍ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

آل محمد پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کا حکم دینے والے ہیں اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّاهِي عَمَّا نَهَى اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو اللہ کے ممنوعہ امور سے منع کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُعْرِضُ عَمَّا مَنَعَ اللَّهُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو منہ موڑنے والے ہیں اللہ کے ممنوعہ امور سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَ كَنْزُ مَنْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب عظیم خزانہ ہیں

كُنُوزِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ حَبِيبِنَا رَسُولٍ مُّحَمَّدٌ مَهْدِيُّ الْأُمَّةِ وَرَسُولٌ صَفِيٌّ حُجَّةُ اللَّهِ

پر جو ہمارے حبیب رسول۔ مہدی (اور ہادی) امت اور برگزیدہ رسول، اللہ کی مجسم دلیل و حجت

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس نے

مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس محبوب کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مِنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ

اور آپ کی آل پر کہ جس نے اس محبوب کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ رَتَعْتُ فِيهِ جَوَارِي فِي

اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں ہر گناہ سے کہ تھکایا میں نے اس میں اپنے راہوار نفس کو

لَيْلِي وَنَهَارِي وَقَدْ اسْتَتَرْتُ حَيَاءً مِّنْ عِبَادِكَ بِسِتْرِكَ

شب و روز اور میں پردہ میں رہا تیرے بندوں سے حیا کی وجہ سے بسبب تیری پردہ داری کے۔

فَلَا سْتَرَ إِلَّا مَا سَتَرْتَنِي بِهِ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ سَهَمْتُ فِيهِ لَيْكَلْتِي فِي لَدُنِّي

پس نہیں پردہ حقیقت میں مگر وہ جو تو نے مجھ پر ڈالا۔ اور ہر اس گناہ کیلئے کہ میں نے جاگتے گزاری اس میں اپنی لذت اندوزی

فِي التَّائِي لِإِتْيَانِهِ وَالتَّخَلُّصِ إِلَى وُجُودِهِ وَتَحْصِيلِهِ حَتَّى إِذَا

میں تمام رات بسبب اس کی آمد کی سست رفتاری اور اس کے تحقق و حصول کے لیے خلاصی ڈھونڈنے میں حتیٰ کہ جب

أَصْبَحْتُ حَضَرْتُ إِلَيْكَ بِحُلِيَّةِ الصَّالِحِينَ وَأَنَا مُضْمِرٌ

صبح ہوئی تو حاضر ہو گیا تیری بارگاہ میں صالحین کی کیفیت میں حالانکہ میں دل میں چھپائے ہوئے تھا

خِلَافَ رِضَاكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ ظَلَمْتُ بِسَبَبِهِ

تیری رضا کے برعکس کہ لے رب العالمین اور واسطے ہر گناہ کے کہ جس کی وجہ سے میں نے ظلم کیا

وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَاءِكَ أَوْ نَصَرْتُ بِهِ عَدُوًّا مِّنْ أَعْدَائِكَ أَوْ تَكَلَّمْتُ

تیرے اولیاء میں سے کسی ولی پر یا مدد کی میں نے تیرے اعداء میں سے کسی عدو کی یا کلام کیا میں نے

فِيهِ لِغَيْرِ مَحَبَّتِكَ أَوْ نَهَضْتُ فِيهِ إِلَى غَيْرِ طَاعَتِكَ أَوْ ذَهَبْتُ

اس میں تیرے محبت کے بغیر یا اٹھا میں اس میں تیری طاعت کے بغیر یا قدم اٹھایا میں نے

فِيهِ إِلَى غَيْرِ أَمْرِكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ يُورِثُ الصَّفْنََاءَ وَيُجَلُّ الْبَلَاءَ

اس میں تیرے امر کے بغیر اور ہر اس گناہ کے لیے جو بغض و کینہ کا موجب ہو اور مصیبت کے نازل ہونے کا

وَيُشْبِهُتُ الْأَعْدَاءَ وَيَكْشِفُ الْغَطَاءَ وَيَحِيسُ قَطْرَةَ الرَّحْمَةِ يَا

اور دشمنوں کو خوش کرے اور پردہ و حجاب کھولے اور رحمت کے قطرہ کو روکے۔ لے

عَجِيبِ الصَّنَائِعِ فَلَا تَنْطِقُ الْأَلْسُنُ بِكُلِّ الْأَرْعَاءِ وَثَنَائِهِ افْتَحَ عَلَيْنَا

عجیب صفتوں اور افعال والے۔ نہیں بول سکتیں زبانیں اس کی تمام نعمتوں اور کامل ثنائوں کے ساتھ کھول دے ہم پر

أَبْوَابَ الْعَجَائِبِ وَالْأَسْرَارِ الَّتِي كَلَّتِ الْأَلْسُنُ فِي نُطْقِهَا وَسَدَّتِ

ان عجائبات اور اسرار کے دروازے کہ جن کے ساتھ کلام میں زبانیں گنگ ہو چکی ہیں اور بند کئے جا چکے ہیں

الْمَخَارِجُ بِنَلَا فِي دَلَالَتِهَا وَصُمَّتِ الْأَسْمَاءُ بَعْدَ تَبْيِينِ أَصْوَاتِهَا

مخارج (حروف) ان کی دلائلوں کی کما حقہ ادائیگی سے اور بہرے کیا جا چکے ہیں کان ان کے اندرونی آوازوں کے

الْبِتْدَاخِلَةَ وَحَيَّرَتِ الْعُقُولُ فِي أَحْكَامِ حَقَائِقِهَا وَفِي كُلِّ عَجَبٍ

کما حقہ متنازعہ ہونے کی وجہ سے۔ اور حیرت زدہ ہو چکے ہیں عقل ان کے حقائق کے احکام میں اور ہر عجیب

الصَّنَائِعِ وَالْبِدَائِعِ إِلَهِي فَهَمِّنِي كُلَّ عَجَبٍ أَوْ دَعْتَهُ فِي كُلِّ هُوِيَّةٍ

اور انوکھی صنعت میں۔ اے اللہ مجھے سمجھا دے ہر عجیب حکمت جسے تو نے ودیعت فرمایا ہے کسی بھی ہوسیت

شَخْصِيَّةٍ أَوْ حَقِيقَةٍ كَلْبِيَّةٍ جَامِعَةٍ لَا شَخْصَهَا بِقُوَّةِ اللَّهِ أَللَّهُمَّ

شخصیہ میں یا حقیقت کلبیہ میں جو اپنے تمام اشخاص کو محیط و جامع ہے اللہ کی قوت سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ سِرِّ اللَّهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب اللہ کے نور امرا ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ عَرْشِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل محمد پر جو محبوب عرش الہی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے نور ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطلس پر

أَحْمَدِ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جو اللہ کے بہت حمد کئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ فَتَاخَ فَاتِحِ اللَّهِ نَصْرٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبِ اللَّهِمَّ

پر جو محبوب کونین کے سردار۔ مشکلات حل کرنے والے۔ اللہ کی طرف سے فتح مند۔ اللہ کی نصرت مجھ اور قریبی فتح ہیں

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ الْمَعْلَى رَسُولِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو عالی مرتبت سردار۔ رسول اور

نَبِيِّ الْخَافِقِينَ قَاسِمِ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

مشرق و مغرب کی نبی (اللہ کے خزانوں کے) بانٹنے والے۔ اللہ کی تمام مخلوق سے بزرگ و بہتر ہیں اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى رَسُولِ سِرَاجِ الْعَالَمِينَ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب نبی مصطفیٰ، رسول تمام جہانوں کے ایسے روشن حیران



مَحْمُودٌ مُطِيبٌ اللهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

محمد و ثنا کئے ہوئے۔ اللہ کی طرف سے پاکیزہ پیدائش ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْمُرَكَّبِيِّ رَسُولِ تَابِجِ الْحَرَمَيْنِ نَاهٍ طَاهِرُ اللهُ

آل اطہار پر جو پاکیزہ نبی، رسول، حرمین کے تاج، (دراپوں سے) منع کرنے والے، طاہر ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هَذَا نَا رَسُولُ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو ہماری مجسم ہدایت، رسول

جَدُّ الطَّيِّبِينَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ دَاعِ مَطَهَّرِ اللهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور دو پاکیزہ ہستیوں حسن و حسین کے نانا۔ اللہ کی طرف بلانے والے اور مطہر ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ مُخْتَارٍ مَرْتَضَى إِمَامٍ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ نبی مختار، مرتضیٰ۔ امام اور

رَسُولٍ مُّقْتَدَى الْإِسْمَةِ الْهَدْيَيْنِ هَادٍ مُّبِينٍ اللهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

رسول، آئمہ مہدیین کے مقتداء۔ ہادی۔ اللہ تعالیٰ کی شان ظاہر کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هَذَا نَا رَسُولُ قَهْدِي قِنَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جنہوں نے ہمیں ہدایت دی جو رسول۔ محفوظ کئے ہوئے

الضَّلَّةِ مُهْتَدٍ مُطِيعُ اللهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ہیں مگر ہی سے، ہدایت پانے والے اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَاهِدُ نَا رَسُولُ وَنَبِيُّ مَدَّ تَرَقُّمَانَ نُورِ اللهُ

آل محمد پر جو آقا ہمارے گواہ۔ رسول اور کبیل پرورش نبی۔ قرآن کی تفسیر اللہ کے نور ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولَنَا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب ہمارے رسول ہیں

رَسُولٌ عَلَى الدَّوَامِ نَبِيُّ طَهٍ قَائِمٌ حَامِدُ اللهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہمیشہ کے لیے رسول ہیں۔ نبی طہ۔ یا شہیدار۔ اللہ کی حمد کرتے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَذْكُرْنَا رَسُولَ مَعْطَرٍ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو ہمیں نصیحت کرنے والے رسول، معتبر و معطر

الرُّوحِ بِأَرْجُوَادِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

روح والے، نوحکار۔ جواد و فیاض۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَ شَفِيعُنَا رَسُولُ حَجْرَاهُ الْمَهْدِيُّ قُرَيْشِيُّ شَهِيدٍ

آل محمد پر وہ ہمارے شفیع، رسول، جن کا قدم رنجہ فرمانا سامان تسکین، قریشی اور اللہ کے بنائے ہوئے

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

شہید و گواہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

هُوَ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَزَيْنَةُ الْأَنْبِيَاءِ رَسُولُ خَادِمِ

جو متقین و مومنین کے امام اور انبیاء عظیم السلام کی زینت رسول۔ فقراء کے

الْفُقَرَاءِ حِجَازِيٌّ نَذِيرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خادم۔ حجاز مقدس والے۔ اللہ کی طرف سے ڈرانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَ صَادِقُنَا رَسُولُ مَرْسَلٍ مُتَوَسِّطٍ رَجِيمِ

اور آل محمد پر جو کہ ہمارے سچے رسول، مرسل۔ فضیلت مآب۔ اللہ کی طرف سے رجیم

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

هُوَ عَظِيمُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جو اللہ کی طرف عظمت بخشے گئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

پر جنہیں اللہ نے رسول بنا دیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ زَيْنَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ کی آل اظہار پر جنہیں اللہ نے زینت و خوبی بخشی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن كَرَّمَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

محمد پر اور آل محمد پر جنہیں اللہ نے کرامت و بزرگی بخشی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن عَظَّمَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں اللہ نے عظیم بنایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن قَرَّبَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہیں اللہ نے مقرب بنایا۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن اخْتَارَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں اللہ نے اختیار فرمایا۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن أَحَبَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہیں اللہ نے محبوب بنایا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن طَلَبَهُ اللَّهُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہیں اللہ نے مطلوب ٹھہرایا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہیں

بَشَّرَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ مَن ذَكَرَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

پر جن کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن دَنَاهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

آل محمد پر کہ جس محبوب سے اللہ تعالیٰ قریب ہوا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن مَنَّ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد و آل محمد پر جس محبوب پر اللہ نے احسان عظیم فرمایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَلْفَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

فما سیدنا محمد و آل محمد پر جن پر اللہ نے لطف و رحم فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ غَفَرَهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جن کی مغفرت کا اللہ نے اعلان فرمایا۔ اے اللہ

إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَلْبَسْنِي كَثْرَةً إِنَّهَا كِي فِيهِ ذَلَّةٌ وَأَيْسَنِي

بیشک میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں واسطے ہر گناہ کے کہ لباس اور حایا مجھے ذلت کا اس میں بکثرت مشغولیت اور مجھے یابوس

مَنْ وَجُودِ رَحْمَتِكَ أَوْ قَصْرِي الْبِئْسَ عَنِ الرَّجُوعِ إِلَى طَاعَتِكَ

کیا تیری رحمت کے حصول سے یا کوتاہ اندیش بنا یا مجھے تیری اطاعت کی طرف رجوع سے ناامیدی نے

لِمَعْرِفَتِي بِعَظِيمِ جُرْمِي وَسُوءِ ظَنِّي بِنَفْسِي وَبِنَفْسِ نَفْسِي وَلِكُلِّ

بسیب جاننے میرے اپنے عظیم جرم کو اور سوزن کے ساتھ اپنی ذات کے اور اپنے نفس کے اور واسطے ہر

ذَنْبٍ أَوْ رَدَّنِي الْهَلَكَةَ لَوْلَا حِلْمُكَ وَرَحْمَتُكَ وَأَدْخَلَنِي دَارَ الْبُورَانِ

گناہ کے جو وارد کرتا مجھے ہلاکت میں اگر نہ ہوتی تیری بردباری اور رحمت اور داخل کرتا مجھے ہلاکت والے گھر یعنی جہنم میں

لَا نِعْمَتِكَ وَسَلِّكَ بِي سَبِيلَ الْغِيِّ لَوْلَا إِشَادُكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ يَكُونُ

اگر نہ موجود ہوتی تیری نعمت اور چلتا مجھے جہنم کی غی نامی گھاٹی کی راہ پر اگر نہ ہوتی رہنمائی تیری اور واسطے ہر گناہ کے کہ ہو

فِي اجْتِرَائِهِ قَطْعُ الرَّجَاءِ وَرُدُّ الدُّعَاءِ وَتَوَارِدُ الْبَلَاءِ وَتَرَادُفُ

اس پر جرات میں تجھ سے امیدوں کا کٹ جانا اور دعاؤں کا مردود ہونا اور مصیبتوں کا پلے درپلے وارد ہونا اور تکرار

الْهُومِ وَتَضَاعُفُ الْغُومِ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ يَرُدُّ عَنْكَ دُعَائِي وَيُطِيلُ

کایکے بعد دیگرے سوار ہونا اور غم و الم میں اضافہ اور واسطے ہر گناہ کے کہ رد کر دے تیری طرف میری دعا کو اور دراز کرے

فِي سَخَطِكَ عَنِّي وَيَقْصُرِي بِعَنْكَ فِي عَمَلِي وَلِكُلِّ ذَنْبٍ يُمِيتُ

تیری ناراضگی میں میری مشقت کو اور کوتاہ بنائے مجھے تجھ سے عمل صالح میں۔ اور واسطے ہر گناہ کے کہ دل کو مردہ

الْقَلْبَ وَيُشْعِلُ الْكَرْبَ وَيَشْغَلُ الْفِكْرَ وَيَرْضِي الشَّيْطَانَ وَ

بنادے اور کرب و الم کو بھڑکا دے اور فکر و سوجھ کو مشغول کر دے اور شیطان کو راضی کرے اور

يُسْخِطُ الرَّحْمَنَ لَوْلَا مَغْفِرَتُكَ يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

رب رحمن کو ناراض کرے اگر نہ حاصل ہو مغفرت تیری۔ اے غفار مجھے بخش اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو

يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ أَجْمَعِينَ يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جس دن حساب کے لیے میزان قائم ہوگا۔ اے بہترین بخشش والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَ نَاطِقٌ بِالْحَقِّ عِنْدَ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب حق کے ساتھ کلام کرنے والے ہیں

إِبْتِلَاءٍ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

آزمائش الہی کے وقت بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ هُوَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر جو محبوب کر گزرتے ہیں ہر وہ کام جس کا ارادہ کریں (بإذن اللہ) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَ مَتَاعٌ لِّمَا كَرِهَ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

محمد و آل محمد پر جو بہت منع فرماتے والے ہیں اللہ کے ناپسندیدہ امور سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَ رُوحُ اللَّهِ اللَّهُمَّ

سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب اللہ کی مخصوص روح ہیں (جملہ ارواح مخلوق سے) اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَ لَطِيفُ اللَّهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جنہیں اللہ نے لطیف بنایا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب

شَاهِدُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اللہ کے بنائے ہوئے گواہ ہیں (اپنی رحمت اور انبیاء کے لیے)۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ هُوَ مَشْهُودُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پر جس محبوب کی اللہ کی طرف سے عظمت و رفعت کی گواہی دی ہوئی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَتْخَلِّقِ بِاخْلَاقِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

آل محمد پر جو محبوب اللہ کے اخلاق کے ساتھ متخلق ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُتَّصِفِ بِصِفَاتِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب اللہ کی صفات سے متصف ہیں (بطور عکس و برتو) اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُتَجَلِّيْ بِذَاتِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب جلوہ گر ہیں (بطور منظریت کے)

اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ساتھ ذات باری تعالیٰ کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الْمُخْتَصِّ بِرُؤْيَا اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

جو محبوب کرمخص ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کیساتھ (از روئے چشم سر اور سیداری کے) اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَمَّتْ بِتَابِعْتِهِ كَلِمَةُ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

محمد پر جس محبوب کی اتباع کی آرزو حضرت کلیم اللہ نے کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَفَ اللّٰهُ بِمُتَابَعَتِهِ

سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جس محبوب کی اتباع سے شرف فرمایا اللہ تعالیٰ نے

رُوحَ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

عینی روح اللہ کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ هُوَ اِمَامُ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

پر جو محبوب اللہ کی طرف سے امام (الانبياء الرسل) ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُتَوَكِّلِ عَلٰى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

آل محمد پر جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

محمد و آل محمد پر جو وسیلہ بنائے ہوئے ہیں طرف اللہ کے (تمام مخلوق کیلئے) اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُعْتَصِمِ بِحَبْلِ اللَّهِ الرَّهْمَةِ

فرما سیدنا محمد پیر اور آل محمد پیر جو عصمت و تحفظ پانے والے ہیں ساتھ اللہ کی رسی (قرآن) کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِمِ عَلَى صِرَاطِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پیر جو ثابت قدم ہیں اللہ کی

اللَّهُ الرَّهْمَةِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

راہ پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پیر اور آپ کی آل پر

الشَّاعِلِ عَمَّا سِوَى اللَّهِ الرَّهْمَةِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو مشغول اور دوز رکھنے والے ہیں تمام ماسوا اللہ سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پیر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّاعِبِ إِلَى ذَاتِ اللَّهِ الرَّهْمَةِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل محمد پیر جو مکمل طور پر راغب ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ فِي إِبْلَاحِ كَلَامِ اللَّهِ الرَّهْمِ

سیدنا محمد و آل محمد پیر جو محبوب سرا پا صدق ہیں کلام اللہ کے پہنچانے میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصَدِّقِ فِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پیر جو محبوب تصدیق کرنے والے ہیں

إِرْسَالِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ الرَّهْمَةَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اللہ کی تمام نازل کردہ وحی اور احکام رسالت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشَّهِيدِ وَالشَّاهِدِ لِمَا صَدَرَ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ الرَّهْمِ صَلِّ

محمد پیر جو شہید و شاہد ہیں ان کے بندوں سے سرزد ہونے والے تمام امور پر۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُسْتَظْهِرِ لِكُلِّ مَا خَلَقَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پیر اور آل محمد پیر جو پشت پناہ ہیں اللہ کی تمام مخلوق

اللَّهُ الرَّهْمِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُسْتَعِينِ

کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پیر جو اعانت طلب کرنے والے ہیں

لِفَضْلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ کے فضل کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ الْمُسْتَعَانَ لِمَنْ طَلَبَ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر مدد طلب کئے جانے کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ کے طلبگاروں کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَ مَحْبُوبٌ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور آل محمد پر جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَ مَعْشُوقٌ اللَّهُ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد و آل محمد پر جو اللہ کے معشوق و محبوب ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْرَدِنَارِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو ٹھنڈا کرنے والے ہیں

اللَّهُ الْمَوْقَدَةُ نُورِ اللَّهِ مَرْغُوبٌ اللَّهُ مَطْلُوبٌ اللَّهُ مَقْصُودٌ اللَّهُ

اللہ تعالیٰ کی بھڑکانی ہوئی آگ کو۔ اللہ کے نور۔ مرغوب و مطلوب اللہ کے مقصود۔ اللہ

بُرْهَانَ اللَّهِ يَدَا اللَّهِ حُبُّ اللَّهِ الدَّاعِي بِإِذْنِ اللَّهِ سُلْطَانَ

کی مجسم دلیل و برہان ہیں۔ جن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ جن کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اس کے اذن۔ اللہ کے بنائے

اللَّهُ سُلْطَانَ مَمَالِكِ الْعِزَّةِ فِي كَأَفِّ بِلَادِ اللَّهِ لَوْحِ أَسْرَارِ اللَّهِ بِحُرِّ

ہوئے سلطان ہیں سلطان ہیں تمام عزت والی مملکتوں کے اللہ کی تمام آبادیوں میں۔ اللہ کے اسرار کی لوح ہیں۔ اللہ کے

أَنْوَارِ اللَّهِ مَعْدِنِ أَسْرَارِ اللَّهِ لِسَانَ حُجَّةِ اللَّهِ عَرُوسِ مَمْلُكَةِ

انوار کا سمندر۔ اللہ کے اسرار کی کان۔ اللہ کی حجت و دلیل کے ترجمان

اللَّهُ إِمَامَ حَضْرَةِ اللَّهِ طَرَائِرِ مُلْكِ اللَّهِ خَزَائِنِ رَحْمَةِ اللَّهِ عَيْنِ

اللہ کی مملکت کے دولہا۔ اللہ کی بارگاہ میں امام (خلایق)۔ اللہ کے ملک کا نقش و نگار۔ اللہ کی رحمت کے خزانے۔ اللہ کی عین

أَعْيَانِ خَلْقِ اللَّهِ طُورِ تَجَلِّيَاتِ اللَّهِ مَعْدِنِ لَطَائِفِ اللَّهِ نُورِ

کے ارکان کی چشم بینا۔ اللہ کی تجلیات کے کوہ طور۔ اللہ تعالیٰ کے لطافت کی کان

مَنْ تَوَّابًا اللَّهُ مَخْزَنَ أَنْوَابِ اللَّهِ فَهَبِطَ أَنْوَابِ اللَّهِ مَا خَابَ مَنْ

اللہ کے نور ذات سے (خاص ربط و اتصال والے) نور۔ اللہ کے انوار کا مخزن۔ اللہ کے انوار کا محل نزول، نہ رسوا ہوا جس نے

تَوَسَّلَ بِهِ إِلَى اللَّهِ إِلَّا مَلَكَ تَشَفَّعَتْ بِهِ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا نَبِيًّا وَ

آپ کو وسیلہ بنایا اللہ کی طرف۔ فرستوں نے شفاعت حاصل کی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور۔ انبیاء اور

الرُّسُلُ مِمَّا دُوِّنَ مِنْ مَدَدِهِ الَّذِي خُصِّصَتْ بِهِ مِنْ عِنْدِ

مرسلین امداد مہیا کئے گئے ان کی مدد سے جس کے ساتھ انہیں مختص کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ

اللَّهُ وَمَنْ أَتَى لِبَابِهِ مُتَوَسِّلًا قَبْلَهُ اللَّهُ وَمَنْ دَخَلَ حَرَمَهُ

کے پاس سے۔ اور جو آیا ان کے در اقدس پر ان کا وسیلہ بچنے ہوئے اللہ نے اسے قبول کر لیا اور جو داخل ہوا ان کے

خَائِفًا أَمِنَهُ اللَّهُ وَمَنْ لَادَ بَحْتَابَهُ وَعَلَّقَ بِأَذْيَالِ جَاهِهِ أَعَزَّهُ اللَّهُ

حرم میں حالت خوف میں اللہ نے اسے امان دی۔ اور جس نے پناہ پکڑی ان کی بارگاہ سے اور چھٹ گیا ان کے دامن عز و جاہ سے

مَحَلَّ نَظَرِ اللَّهِ مَكِّيَّ اللَّهِ مَدَنِيَّ اللَّهِ قُرَشِيَّ اللَّهِ رَحِمَهُ مِّنَ اللَّهِ مَنْ

اللہ نے اسے عزت دی جو اللہ کی نظر رحمت کا محل تھی۔ مدنی۔ قرشی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہیں جنہیں

عَصَمَهُ اللَّهُ مِنْ وَقَاةِ اللَّهِ مَنْ حَمَاهُ اللَّهُ مَنْ يُدْنِيهِ اللَّهُ مَنْ

اللہ نے معصوم بنایا جنہیں اللہ نے بچائے رکھا۔ جن کی اللہ نے حمایت فرمائی۔ جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں ہدایت دی

كَفَاهُ اللَّهُ مَنْ عَرَّجَهُ اللَّهُ مِنْ كَلِمَةِ اللَّهِ أَعْلَاهُ اللَّهُ أَدْنَاهُ اللَّهُ أَرَاهُ

جنہیں اللہ نے کفایت فرمائی جنہیں اللہ نے معراج کرائی جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ اللہ نے انہیں بلند بنی اللہ نے انہیں قریب کیا۔ اللہ نے

اللَّهُ أَفْتَاهُ اللَّهُ مَنْ وَقَّرَهُ اللَّهُ أَبْلَغَ رَسُولَهُ اللَّهُ مَطْلَعِ أَنْوَابِ

انہیں ویدار کرایا۔ اللہ نے انہیں مقام نفاقی اللہ بخشا جن کی اللہ نے توفیق فرمائی جو بہت پہنچانے والے ہیں اللہ کے حکام رسالت کو۔ اللہ کے انوار کیلئے

اللَّهُ مَخْزَنَ أَسْرَارِ اللَّهِ مَشْهَدَ كَلَامِ اللَّهِ مِرَاةَ جَمَالِ اللَّهِ اللَّهُمَّ

جائے طلوع ہیں اللہ کے اسرار کا مخزن ہیں۔ کلام اللہ کا محل شہود و حضور ہیں۔ اللہ کا آئینہ جمال ہیں۔ اے اللہ

أَنْتَ تَعْطِي مَا يَسْأَلُ عَبْدُكَ فَطَهَّرْنِي عَنِ الْخَطَرَاتِ كُلِّهَا

تو ہی عطا کرتا ہے جو طلب کرے تیرا بندہ پس پاک فرما مجھے تمام تر خیالات ناسدہ سے

صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا حَتَّى يَسْتَعِدَّ قَلْبِي لِمُشَاهَدَتِكَ عَلَيَّ وَجْهِ

چھوٹے ہوں یا بڑے حتی کہ صلاحیت حاصل کرے میرا دل تیرے مشاہدہ کی استغراق کے

الْاِسْتِغْرَاقِ مُتَلَدِّذٍ اِبْجَمَاءِ رُوحِي مُتْرَهٍ عَن نَفْسِي وَاخَافُ فِي

طریقہ برداشت اندوز ہوتے ہوئے رومی اجتماع کے ساتھ جو مزہ ہے نفسانیت سے۔ اور میں خوفزدہ ہوں

نَفْسِي غِنَاءَ مَنْ لَا يَحْتَاجُ اِلَّا اِلَيْكَ مِنْ حَيْثُ الدَّاتِ الْوَاحِدِيَّةِ

اپنے دل میں اس شخص کی بے نیازی کا جو نہیں محتاج مگر طرف تیرے از روئے ذات واحد کے

سَائِرًا فِي لَمْحٍ دُونَ لَمْحٍ دُونَ لَمْحٍ فِي نُورٍ دُونَ نُورٍ اَرَايَا لِكُلِّ

در آنجا یکہ چلنے والا ہوں ایک لمحہ بغیر دوسرے کے ایک نور میں بغیر دوسرے نور کے۔ دیکھنے والا ہوں ہر

مَوْجُودٍ فِي عَيْنٍ مَّشْهُودٍ فِي ذَلِكَ التُّورِ اِلٰهِي خَلَقَكَ اَعْجَبُ

موجود کو چشم شہود میں اس نور کے اندر۔ لے میرے الٰہ تیری تخلیق اس مقام پر تمام مخلوقات مجیب ترین ہے

الْخَلَائِقِ نَمَّهٖ بِحَيْثُ لَا يَسْأَلُ الْجَبْرُوتِي مَلِكُوْتِيَا وَلَا الْمَلَكُوْتِي

اس حیثیت سے کہ کوئی جبروتی کسی ملکوتی کے مماثل نہیں اور نہ ملکوتی و روحانی کسی

نَاسُوْتِيَا لِقَابِلِيَّةٍ تَجَلِّيَاتٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَّةٍ عَلٰى اَنْوَاعٍ قَادِرَةٌ عَلٰى

ناسوتی و مادی کے بسبب تجلیات غیر متناہمہ کی استعداد و قابلیت کے انواع پر جو قادر ہیں

اِنْتِقَالَاتٍ تَفْصِيْلِيَّةٍ وَاِضَافَاتٍ تَحْقِيْقِيَّةٍ غَيْرِ سَاقِطَةٍ اِلَّا عِنْدَ

تفصیلی انتقالات پر اور تحقیقی اضافات و تعلقات پر جو نہیں ساقط ہوتی والی مگر وقت

لَمَعَانَ شُهُودِكَ فِي الْمَرْتَبَةِ الْكَلْبِيَّةِ الْمُتَقَضِيَّةِ لِهَلَاكِ الْكُلِّ فِي

چمکنے تیرے نور شہود کے مرتبہ کلیہ میں جو متقاضی ہے سب کے ہلاک و فنا ہونے کا

ذَاتِكَ فَلَا يَبْقَى اِلَّا وَجْهَكَ وَذَاتَكَ ثُمَّ اَرَدْتَ خَلْقَهَا عَلٰى هِيَ اِكْلَهَا

تیری ذات میں پس نہ باقی رہے گی مگر تیری ذات۔ پھر تو نے ارادہ فرمایا ان کی تخلیق کا ان کے ہی کھانے

وَتَشْكُلًا تَهَا خَرَجَ مِنْهُ كُلُّ نُورٍ لِكُلِّ اَحَدٍ مُتَعَلِّقًا بِكُلِّ شَخْصٍ فَيَصِيْرُ

اور شکلوں پر تو برآمد ہو اس مرتبہ کلیہ سے ہر ایک کا نور علیحدہ علیحدہ تعلق پکارتے ہوئے ساتھ ہر شخص کے۔ پس ہو جائے گا

كُلُّ عَلَى الْهَيْئَةِ الْأَوْلِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَقْصٍ فِي عَرْضٍ مِنَ الْعَوَارِضِ إِلَّا

ہر ایک پہلی ہیئت و حالت پر بغیر کسی نقصان کے اس کی کسی عرض و صفت میں اس کے عوارض میں سے ماسوائے

مَا أَرَدْتُ قُصُورًا وَتُقْصَانَهُ اللَّهُمَّ لِسَانِي كُلُّ وَقَلْبِي مُحْجُوبٌ

اس کے کہ ارادہ کیا تو نے اس کے قاصر و ناقص ہونے کا۔ اے اللہ میری زبان گنگ ہے اور قلب محجوب میں ہے

لَا يَسْتَطِيعُ تَعْبِيرًا وَلَا مُشَاهَدَةً سِرِّ مَنْ أَسْرَارِكَ إِلَّا عِنْدَ اعَانَتِكَ

نہیں طاقت رکھتا تعبیر و بیان کا اور نہ مشاہدہ کرنے کا تیرے اسرار میں سے کسی راز کا مگر تیری اعانت

وَإِقْدَارِكَ أَقْدَرُنِي عَلَى عُرُوجٍ إِلَى سَمَاءٍ قَدْ سَكَ حَتَّى تَسِيرُ

اور توفیق کے وقت۔ مجھے قدرت بخت اپنے مقدس آسمان کی طرف عروج پر حتی کہ

فِي غَيْبِ أَسْرَارِكَ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ إِلَى هَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي طَبِيعَتُهَا

ہم سیر کریں تیرے انتہائی غائب اسرار کی بغیر لوٹنے کے طرف اس خفیر دنیا کے جس کی طبیعت سراسر

كُونَ وَفَسَادٌ وَحَوَادِثٌ إِلَّا مَقْدَارًا مَا حُتَّاجَ إِلَيْهِ الْبَشَرُ الْأَوَّلُ

کون و فساد یعنی وجود و عدم ہے اور حوادث مگر اتنی مقدار کہ محتاج ہوئے طرف اس کے بشر اول

الَّذِي هُوَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْهَمْنِي مَا أَلْهَمْتَ فِيَّ أَصْلِي

یعنی حضرت آدم علیہ السلام پس الہام فرما مجھے جو الہام فرمایا تو نے میرے اس اصل

حَتَّى عَجَزَ كُلُّ بِأَخْبَارِهِ وَإِعْلَامِهِ اللَّهُمَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ

میں حتی کہ عاجز آگئے سبھی (ملائکہ و جن) اس کی خبر و اطلاع دینے سے۔ اے اللہ جس کی تجلیات ہیں

تَجَلِّيَاتِكَ وَكَانَ كُلُّ عَلَى وَجْهِ الْكَلْبِيَّةِ بِحَيْثُ صَارَتْ الْمَاهِيَاتُ

زمین میں اور تھا ہر شے کا عین کلیت و اطلاق کے مرتبہ میں ساتھ اس حیثیت کہ ہو گئیں ماہیات (مرتبہ تعین و تقید میں)

مُخَالَفَةً فِي الْأَنْوَاعِ وَالْأَشْخَاصِ حَتَّى نُسِبَ إِلَى السَّفْهِ مَنْ أَطْلَقَ

باہم متخالف اور اس کے مخالف، انواع و اشخاص میں حتی کہ بیوقوف ویں عقل فرار دیا گیا جس نے اطلاق کیا

وَاحِدًا مِمَّنْ تِلْكَ عَلَى الْوَاحِدِ الْآخِرِ الْأَمِنْ أُرْشِدًا بِرُشَادِكَ اللَّهُمَّ

ان میں سے کسی ایک کا دوسرے پر مگر وہ جسے ہدایت ملی تیری خصوصی رہنمائی سے۔ اے اللہ

أَطْلَعَنِي عَلَى مَا فِي قُلُوبِ عِبَادِكَ مِنَ الْأَسْرَارِ الَّتِي أَوْدَعْتَهَا

مجھے مطلع فرما اپنے بندوں کے قلبی اسرار پر جنہیں تو نے ان میں امانت رکھا

فِيهَا بِقَبْضَةِ قُدْرَتِكَ وَحُلُولِ الْهَامَاتِ مَدْكُوتِكَ اللَّهُمَّ

بسیب اپنی قدرت کے غلبہ کے اور عالم روحانیت کے الهامات کے نزول کے۔ اے اللہ

صَيِّرْنِي لَطِيفًا بِحَيْثُ يَنْفَعُ فِكْرِي وَتَصَرَّفْ فِي كُلِّ لَطِيفٍ أَكْثَرَ

مجھے اس قدر لطیف بنا دے کہ نافع ہو جائے میرا فکر اور تصرف ہر لطیف میں اکثر اس سے

مَنْ أَنْ يُحَسَّ وَأَرْكَزَ التُّوسَّ الْفَرْعِيَّ الْحَاصِلَ مِنْ فَيْضَانِ بَرَاqَةِ

کہ محسوس کیا جاسکے اور گاڑ دے نور فرعی کو جو حاصل ہونے والا ہے میری روح کی چمک کے

رُوحِي فِي كُلِّ ظِلْمَانِي وَنُورَانِي مِنْ غَيْرِ فَقَدْ خَاصِيَّةٍ مَوْهُوبَةٍ

فیضان سے ہر ظلمانی اور روحانی میں بغیر معدوم ہوئے کسی خاصیت کے جو عطا ہوئی ہو

مَنْ حَضَرَتِكَ فَسَجِّرْ لِي كُلَّ شَجَرٍ وَمَدَامًا بِحَيْثُ أَشَاهِدُكَ فِيهِ

تیری بارگاہ سے۔ پس مسخر فرما میرے لیے ہر پودے اور درخت کو اس حیثیت سے کہ دیکھوں میں تیرہ جلوہ نمائی

مِنْ غَيْرِ عَابَتِكَ شَخْصَهُ وَصَلَابَتِهِ أَمِينٌ يَا رَحِيمٌ كُلَّ صَرِيحٍ

اس میں بغیر کسی مانع کے اس کے تشخص اور صلابت سے آمین۔ اے رحیم ہر ضروری

وَمَكْرُوبٍ وَغِيَاثَةٍ وَمَعَاذَةٍ سَجِّرْ لِي كُلَّ شَيْءٍ مِنْ مَّظَاهِرِ

اور آفت زدہ کے اور اس کے فریاد رس اور جاننے پناہ مسخر فرما میرے لیے ہر چیز جو مظاہر

الرَّحْمِيَّةِ مِنْ فَلَكَیِّ وَمَلِكِي وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَوَلِيٍّ مُرْتَدٍّ وَشَرِيحٍ

رحیمیہ سے ہے فلکی ہو یا ملکی اور نبی مرسل ہو یا ولی مرتد اور شریح

قَسْطُورِي فِي كَلَامِ الْهِیِّ حَتَّى يُجِبُّونِي وَيُنْصِرُونِي يَا رَحْمَنَ الدِّينِ

جو کلمے ہیں کلام الہی میں حتی کہ وہ مجھ سے جہت کریں اور امداد دیں اے رحمن دین

وَالدُّنْيَا رَحْمَتِكَ لِلْعِبَادِ الْمُصْرَحِينَ فِي دَعْوَاتِهِمْ وَأَصْوَاتِهِمْ عِنْدَ

اور دنیا کے تیری رحمت ہو زاری کرنے والے بندوں پر ان کی دعاؤں میں اور فریادوں میں وقت

نَزُولِ الْبَلَاءِ وَالتَّحَاقِ الدَّاءِ إِمَّا لِلْجَسْمِ كَأَنْوَاعِ الْأَمْرَاضِ

نازل ہونے بلا کے اور لاحق ہونے بیماری کے یا جسم کے لیے مانند مختلف اقسام کی جسمانی بیماریوں کے

فَتُعْطَى الشِّفَاءَ السَّارِي فِي سُوَادِ الْأَدْوِيَةِ الْمُرَكَّبَةِ أَوِ الْبَيْسِطَةِ وَإِمَّا

پس ترشفا عطا فرماتا ہے جو سرایت کئے ہوئی ہے مرکب اور مفرد ادویات میں۔ یا محسوس اندرونی حصول میں

لِلْبَوَاطِنِ الْحَسِّيَّةِ حِينَ تَسْرِي الْهَوَاءُ فِيهَا مُعْتَمِدَةً لِأَنَّ هُوِيَةَ

جگہ سرایت کرتی ہے ہوا ان میں اعتماد کرتے ہوئے ان فاسد ہواؤں پر

الْفَاسِدَةِ الْمُتَمَكِّنَةِ فِي الْعُرُوقِ فَتُخْرِجُهَا بِرَحْمَةٍ وَشَفَقَةٍ دَاعِيَةً

جو جاگزین ہوتی ہیں رگوں میں پس تو انہیں نکالتا ہے اپنی رحمت اور شفقت سے جو داعی ہے

إِلَى حِكْمَةٍ نَاجِيَةٍ وَتَرْحَمُ عَلَى السَّالِكِينَ الْمُتَوَجِّهِينَ إِلَيْكَ حِينَ

طرف نجات دہندہ حکمت کے اور رحم فرما اہل سلوک پر جو متوجہ ہیں تیری طرف جبکہ

تَسْبِقُ الْخَطَرَاتِ الْمَانِعَاتِ لِلْوُصُولِ الْمَدْفِي إِلَى رُوحٍ مُطَهَّرٍ قَدْ وَسَّي

سبق لے جائیں خطرات جو مانع ہوں بدن کے وصول سے طرف مطہر قدوسی روح کے

أَوْ سُبُوحِي فَتَزِيلُهَا مَحْوَةً فَطَهَّرْ مِنْ الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى حِينَ يَقُولُ

یا تسبیح نوحاں روح کے پس زایل کرے تو انہیں بٹاتے ہوئے پس پاک فرما مجھے ادنیٰ سے اعلیٰ تک واصل کرتے ہوئے

عِنْدَكَ السَّالِكُ اللَّهُمَّ إِنِّي مُتَكَوِّنٌ مِنْ مَنِّي هَبْنِي مَحْفُوظًا فِي

جبکہ تیرے ہاں ساک۔ اے اللہ بیشک میں تیار ہونے والا ہوں حقیر مادہ منویہ سے جو محفوظ مٹھا

الْهَيْئَةِ الْأُولَى حَتَّى رَبِّتْنِي مِنْ غَيْرِ آبٍ وَلَا أُمٍّ شَفِيقٌ فَكَذَلِكَ

پہلی ہیئت و حالت میں حتی کہ تو نے میری تربیت فرمائی بغیر باپ اور مشفق بھائی کے پس ایسے ہی

ارْحَمَ عَلَيَّ بِالْأَنْوَاعِ حَتَّى يَسْتَعْرِقَ نُورًا فَوْقِي وَنُورًا تَحْتِي وَنُورًا

رحم فرما مجھ پر مختلف انواع کا حتی کہ مستغرق ہو نور میرے اوپر اور نور میرے نیچے اور نور میرے

شَمَالِي وَنُورًا يَمِينِي وَقَلْبِي مَمْلُوءًا بِنُورٍ وَأَصِيرُ غَدًا نِيَّ سَخِرًا أَوْ مُنْقَازًا

بائیں اور نور میرے دائیں اور میرا دل بھر پور ہو ساتھ نور کے اور میری غذا کو مسخر اور تالبار بنا دے

لِي بِرَحْمَتِكَ فَلَا يَضُرُّنِي بَلْ حَوْلَهُ إِلَى نُورٍ لَطِيفٍ كَأَنَّ قَنْ مَمْظَهْرٍ

میرا اپنی رحمت سے لہذا وہ مجھے ہرزہ دے بلکہ اسے تبدیل فرما لطیف نور میں جو پیدا ہونے والا ہو

جَمَالِي رَحِيمِي وَأَوْقَفَنِي عَلَى أَنْوَاعِ الرَّحْمَةِ اللَّائِقَةِ بِجَلَالَتِكَ أَمَّا

جمالی رحیمی مظل سے اور مجھے واقف و مطلع فرما انواع رحمت پر جو لائق ہیں تیری تمام مخلوقات یا

بَدْعُوهُ الْإِسْمِ الرَّحِيمِ أَوْ بِالذَّوَاءِ الشَّافِي أَوْ بِكِتَابَةِ صَحِيفَةٍ مَجْعُولَةٍ

ساتھ اسم رحیم کی دعوت و تاثیر کے یا ساتھ شافی دوا کے یا ساتھ لکھے ہوئے صحیفہ کے جو ڈالا ہوا ہو

فِي عُنُقِهِ أَوْ فِي مَخْلُوطَةٍ فِي شَرَابِهِ مُؤَثِّرَةٌ بِتَأْثِيرِ تَأْمَمٍ مِنْ عِنْدِكَ يَا

اس کی گردن میں یا ملا یا ہوا اس کے مشروب میں جو موثر ہو ساتھ کامل تاثیر کے تیرے پاس سے اے

عَلَّمَ أَرْفَعُ أَنْوَاعَ الْأَلَامِ وَأَنْتَ الشَّافِي فِي كُلِّ السَّاعَاتِ وَالْأَيَّامِ يَا

بہت علم والے دور فرما تمام قسم کے درد و آلام اور تو ہی شفا دینے والا ہے تمام ساعتوں اور دنوں میں اے

رَحِيمٌ أَرْجِبُهُ أَمِينٌ يَا تَأْمَمٌ فَلَا تَصِفُ إِلَّا لَسُنُ كُلِّ جَلَالٍ لَهُ وَ

رحیم اس التجا کو قبول فرما آمین۔ اے کامل و اکمل کہ تمہیں بیان کر سکتی زبانیں اس کے پورے جلال کو اور

مُلْكِهِ وَعِزَّةً أَتَمَّنِي بِتَمَامِ الْوُجُودِ الْإِنْسَانِيِّ الْكَمَالِيِّ حَتَّى تَتَمَّ

اس کے ملک اور عز و جاہ کو مجھے کامل فرما وجود انسانی کمالی کی تکمیل کے ساتھ حتی کہ تمام و کامل ہو جائیں

أَوْ هَامِي وَتَخَيَّلَاتِي عِنْدَ عُرُوجِ نَفْسِي زَاكِيَةً عَلَى السَّقْفِ الْفَلَكِيِّ

میرے اوبام و تخیلات وقت پاکیزہ نفس کے عروج کے فلکی چھت پر

نَاطِرًا إِلَى أَيْمَانِ الْمَلَكُوتِيِّ مَعْرُضًا عَنْ شِمَالِ النَّاسُوتِيِّ قَاسِرًا

در آغاییکہ دیکھنے والا ہو ملکوتی دائیں جانبوں کی طرف منہ موڑتے والا ہونا سوتی اور مادی بائیں جانبوں سے

نَفْسِي فِي التَّشْبِيهَاتِ الْإِلَهِيَّةِ وَالتَّنْزِيهَاتِ الْقُدْسِيَّةِ اللَّهُمَّ

جیکہ قرار پذیر ہو میرا نفس الہی تشبیہات اور قدسی تنزیہات میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ مَّبْعِ الْفِيوضِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب و موردی اور

الْوَجُودِيَّةِ وَالشُّهُودِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

شہودی فیوض کے سرچشمہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ بِحَقِيقَتِهِ وَاسْطَةُ الْوَجُودِ

اور آل محمد پر جو محبوب اپنی حقیقت کے لحاظ سے واسطہ ہیں وجود

وَالشُّهُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَشْفِيْعِ الْأَقْبَةِ

و شہود کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو اپنی اُمت اور اللہ کی

وَكُلِّ خَلْقٍ اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَلْهَانِي عَمَّا

تمام مخلوق کے تَشْفِيْعِ پر۔ اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں ہر گناہ سے جس نے غافل کیا مجھے

هَدَيْتَنِي إِلَيْهِ أَوْ أَمَرْتَنِي بِهِ أَوْ نَهَيْتَنِي عَنْهُ أَوْ دَلَلْتَنِي عَلَيْهِ

تیری رہنمائی اور ہدایت والے امور سے یا مامور اور ممنوع امور سے یا جن پر تو نے رہنمائی فرمائی

مِمَّا فِيهِ الْحَظُّ لِي وَالْبُلُوغُ إِلَى رِضَاكَ وَإِتِّبَاعُ مَحَبَّتِكَ وَإِيْتَارُ

جن میں میرے لیے نصیب و حصہ وافر تھا اور تیری رضا تک رسائی اور تیری محبت کی اتباع اور نیرے قرب

الْقُرْبِ مِنْكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ نَسِيتُهُ فَأَحْصَيْتَهُ وَتَهَاوَنْتُ بِهِ

کی تزییح اور واسطے ہر گناہ کے کہ میں اسے بھول گیا پس تو نے اس کا احاطہ کیا اور میں نے لاپرواہی کی اس کے ساتھ

فَأَنْتَبْتَهُ وَجَاهَرْتُ بِهِ فَسَتَرْتَهُ عَلَيَّ وَلَوْ تَبَّتْ إِلَيْكَ مِنْهُ لِنُغْفِرْتَهُ

پس تو نے اسے قائم رکھا اور میں نے اسے علانیہ کیا پس تو نے اسے مجھ پر چھپایا اور اگر میں توبہ کرتا اس سے تو توفیر بخش دیتا

وَلِكُلِّ ذَنْبٍ تَوَقَّعْتُ مِنْكَ قَبْلَ إِقْضَائِهِ تَعْجِيلَ الْعُقُوبَةِ

اور واسطے ہر گناہ کے کہ توقع کی میں نے اس کے ختم ہونے سے قبل عفویت کے قوری نزول کی

فَأْمَهَلْتَنِي وَأَسْبَلْتُ عَلَيَّ سِتْرًا فَلَمْ أَلْ فِي هَتِكَةٍ عَنِّي جَهْدًا

پس تو نے مجھے مہلت دیدی اور مجھ پر پردہ لٹکا دیا مگر میں نے اس کے پھاڑنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی

وَلِكُلِّ ذَنْبٍ نَهَيْتَنِي عَنْهُ فَخَالَفْتُكَ إِلَيْهِ وَحَذَرْتُنِي إِيْسَاءَهُ

اور واسطے ہر گناہ کے جس سے تو نے منع فرمایا مگر میں نے اس میں تیری مخالفت کی اور تو نے مجھے اس سے ڈرا یا

فَأَقْبَحْتُ عَلَيْهِ وَقَبَحْتَهُ عَلَيَّ فَزَيَّنْتَهُ لِي نَفْسِي وَلِكُلِّ ذَنْبٍ

مگر میں نے اس پر اپنا پورا زور صرف کیا۔ اور تو نے اسے مجھ پر بیچ ٹھہرایا مگر میرے نفس نے اسے میرے لیے مزین کیا اور

يُصْرِفُ عَنِّي رَحْمَتَكَ أَوْ يَجِلُّ بِي نِقْمَتَكَ أَوْ يَحْرِمُنِي كَرَامَتَكَ

واسطے ہر گناہ کے کہ پھیر دے مجھ سے تیری رحمت کو یا نازل کرے مجھ پر تیری عقوبت کو یا محروم کرے مجھے تیری کرم منوازی سے

أَوْ يَزِيلُ عَنِّي نِعْمَتَكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ غَيَّرْتُ بِهِ أَحْدًا مِّنْ خَلْقِكَ

یا نازل کرے مجھ سے تیری نعمت اور واسطے ہر گناہ کے کہ عار دلائی میں نے ساتھ اس کے کسی بھی مخلوق کو

أَوْ قَبَحْتُ مِنْ فِعْلٍ أَحَدٍ مِّنْ بَرِيَّتِكَ ثُمَّ تَقَحَّضْتُ عَلَيْهِ وَأَنْتَهَكْتُهُ

یا بیچ قرار دیا میں نے تیری مخلوق میں سے کسی کے فعل کو پھیر میں اس پر زبردستی وارد ہوا اور اس کی ہنک حرمت کی

جُرْأَةً مِّنِّي عَلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

تجھ پر جسارت کرتے ہوئے۔ اے اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعَارِفِي عَنِ النَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب لوگوں سے در گزر کرنے والے ہیں اور نہیں تھا

عَلَىٰ بَابِهِ بَوَّابٌ وَلَا حَرَّاسٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ان کے دروازے پر کوئی دربان اور پہرے دار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاصِحِ الْبَيَّانِ وَالْعُرْفَانَ وَكَانَ خَلْقُهُ

محمد پر اور آل محمد پر جو واضح بیان اور عرفان والے ہیں اور جن کا خلق

الْقُرْآنُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

عین قرآن تھا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَبْدَأُ أَصْحَابَهُ بِالصَّافِحَةِ اللَّهُمَّ

پر جو اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مصافحہ میں پہل کرتے تھے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ جس محبوب پر



مَا اجْتَرَأَ عَلَيْهِ أَحَدٌ قَطُّ إِلَّا عَفَا عَنْهُ وَسَامِحَةً اللَّهُمَّ

جب بھی کسی نے بیباکی کا مظاہرہ کیا تو آپ نے اس سے درگزر فرمائی اور چشم بیوشی فرمائی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ جو محبوب

إِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ وَكَانَ إِذَا رَضِيَ أَشْرَقَ نُورٌ

غضبناک ہوتے تو اعراض فرما لیتے اور منہ موڑ لیتے اور جب راضی ہوتے تو ان کا چہرہ نور نور سے

وَجْهَهُ وَلَا حَافَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جنگلگانا اور بچکانا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِيُنَّ الْجَانِبِ وَكَانَ كُنْزَ الْمَطَالِبِ اللَّهُمَّ

آل محمد پر جو نرم پہلو والے اور مطالب کا خزانہ تھے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَانَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی آل پر جو اپنے

يَتَفَقَدُ أَصْحَابَهُ وَمَا كَانَ يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِيهَا يَرْجُو ثَوَابَهُ اللَّهُمَّ

اصحاب کی خبر گیری کرتے تھے اور نہیں کلام فرماتے تھے مگر ان امور میں جہاں ثواب کی امید رکھتے تھے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ جو اپنے صحابہ

مِنْ تَوَاضُعِهِ لِلصَّحْبِ وَالْأَقَارِبِ وَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمْنِيئِي

قربت داروں کے ساتھ متواضع تھے اور نہ اپنے ساتھ پیدل چلنے دیتے کسی کو

مَعَهُ وَهُوَ رَاكِبٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جبکہ آپ سوار ہوتے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقْسَمَ اللَّهُ بِمَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ وَكَانَ يَسْمَعُ بَكَاءِ

محمد پر کہ جس محبوب کے وقت وصال اور مدت عمر کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی اور آپ بچے کے رونے کی



الصَّبِيِّ فَيَتَجَاوَزُ فِي صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آواز سنتے تو اپنی نماز میں اختصار کر دیتے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقْسَمَ اللَّهُ بِتُرَابِ أقدامِهِ تَعْظِيمًا

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے قدموں کا بوسہ لینے والی مٹی کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ان کی عظمت

لِمَقَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مقام ظاہر کرنے کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقْسَمَ اللَّهُ بِأَسْمِهِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْفَتَى

جن کے نام اقدس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے دو ہزار سال

عَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پہلے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي شَقَّ جَبْرَائِيلُ صَدْرَهُ وَهُوَ غُلَامٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ جس محبوب کا شق صدر کیا جبرائیل امین نے جبکہ آپ بچے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَبْقَى اللَّهُ لَهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا

لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلَ اللَّهُ دِينَهُ مُتَعَالِيًا إِلَى يَوْمِ

سچا تذکرہ آنے والوں میں اور اللہ نے ان کے دین کو بلند و بالا کر دیا قیامت

الذِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تک کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ نَبَاةٍ وَأَرْسَلَهُ وَكَانَ أَجُودَ بِالْخَيْرِ مَنْ

محمد پر کہ جس محبوب پر اس نے درود بھیجا جس نے انہیں منصب نبوت و رسالت عطا کیا اور جو زیادہ جواد و بخشنے

الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بارش کے ساتھ بھیجی ہوئی ہوائی بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر



مُحَمَّدٍ الَّذِي حَيْثُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ يَذُكُرُ وَمَا رَعَى مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ

کہ جس محبوب کا وہیں ذکر کیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا ہو اور نہیں دیکھی گئی آپ کے ایسی کوئی شئی جو قابل

يُسْتَنْكَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

انکار و اعتراض ہو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ لَا يُوْطِنُ مَكَانًا وَلَا مَجْلِسًا وَكَانَ يَجْلِسُ

محمد پر جو محبوب کسی مکان اور نشست گاہ کو مخصوص نہیں ٹھہراتے تھے اور بیٹھ جاتے

حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْجُلُوسُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جہاں مجلس و نشست گاہ کی انتہا ہوتی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَابَ أَصْلُهُ الْكَرِيمِ وَرَكَ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کا اصلی جوہر کریم طیب و طاہر ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي كَانَ يُصَلِّيُ وَلِصَدْرِهِ أَزْيَرُ كَأَزْيِرِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ

جو محبوب نماز ادا فرماتے اس حال میں کہ رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے آواز سنائی دیتی مانند چکی کی آواز کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي كَانَ يَحْمِلُ الْكَلَّ وَيَكْسِبُ الْمَعْدُومَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو محبوب بوجھ برداشت فرماتے بیکاروں کا اور کماتے فقراء و محتاجوں کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى جِبْرَائِيلَ يَقَاتِلُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو جنگ لڑنے (طوراً آپ کے سپاہی

عَلَى فَرَسِهِ حَيْرُومَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کے) اپنے گھوڑے حیروم پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور



اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَرَقَهُ الْمُسْتَطِيبُ اَطِيبٌ مِنَ الطَّيِّبِ وَ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب کا پسینہ پاک زیادہ خوشبودار تھا خوشبوؤں اور

العنبر الا شهب اللهم صل وسلم على سيدنا محمدا وعلى آل

عنبر اشہب سے بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَرَقَهُ مِنْ رَائِحَةِ الْوَرْدِ الْاَحْمَرِ وَ رَائِحَةِ

کہ جس محبوب کا پسینہ سرخ گلاب کی خوشبودار تھا اور اس کی خوشبو

اعطر من رايحة المسك الاذ فر اللهم صل وسلم على سيدنا

زیادہ معطر تھی خالص کستوری سے بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان الطيب يفوح من مفرقه

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی ناک سے خوشبو نکلتی تھی

وكان الطيب برائحته وعرقه اللهم صل وسلم على سيدنا

اور پیدا ہوتی خوشبو ان کی بادواہن اور پسینہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي رايحه جسده البعطار اعطر من جونة

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے معطر جسم کی خوشبو زیادہ معطر تھی

العطار وجاره اللهم صل وسلم على سيدنا محمدا وعلى آل

عطار کے ٹوبے اور اس کے ساتھ رہنے والی اشیاء سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا دَخَلَ بَعْدَهُ الْخَلَاءُ وَاعْلًا وَجَدَتْ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے بعد ان کے بیت الخلاء میں کوئی شخص داخل ہوتا تو پاتا

رائحته أضوء من رائحة المسك من ناقة الغزال وأعلى اللهم

آپ کی برائے عطر کو زیادہ نمایاں ہرن کے ناف کی برائے مشک سے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ

صل وسلم على سيدنا محمدا وعلى آل سيدنا محمد الذي كان إذا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ جو محبوب ڈھیلے استعمال فرماتے



اَسْتَجْبِرُ بِالْأَجْحَارِ فَاحَ لَهَا رَائِحَةٌ كَرَائِحَةِ الطَّيِّبِ وَالْأَزْهَارِ اللَّهُمَّ

تران سے خوشبو مہنتی مانند عطر اور پھولوں کی خوشبو کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر کہ جو محبوب اگر بھی

لَمَسَ جُمَّةً صَبِيًّا أَوْ بِنَاتِيَّتَهُ يُعْرِفُ أَنَّهَ لِمَسَّهُ عَنْ طَيْبٍ رَأَيْتَهُ

مس فرماتے بچے کے بالوں کو یا اس کی پیشانی کو تو معلوم ہو جاتا آپ کا اسے ہاتھ لگانا اس کی خوشبو کی پاکیزگی سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب

كَانَ إِذَا صَافَحَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ يَجِدُ رَائِحَةَ الطَّيِّبِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ فِي

اگر اپنے کسی صحابی سے مصافحہ فرماتے تو وہ محسوس کرتا رہتا خوشبو کی مہک کو تمام دن اپنے ہاتھ اور

ثِيَابِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کپڑوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي مَا سَلَكَ قَطُّ طَرِيقًا وَتَرَكَهَ إِلَّا عَرَفَ مِنْ طَيْبٍ رَأَيْتَهُ أَنَّهَ

کہ جو محبوب نہ چلے کبھی کسی راستہ پر اور نہ چھوڑا اسے مگر جانا جاتا آپ کی خوشبو کی پاکیزگی سے کہ یہ صرف

مِنَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خصوصیت ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي جَسَدُهُ أَلْيَنُ مِنَ الْخَزْرِ وَالْحَرِيرِ وَطَلْعَتُهُ أَبْهَىٰ مِنَ الْبَدْرِ

کہ جس محبوب کا جسد اقدس دیباچہ و ریشم سے ملائم تھا اور جن کی طلعت زریا چودھریں کے چاند سے بھی

الْبُنَيْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نورانی تھی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ

الَّذِي رَيْقُهُ أَحْلَىٰ مِنَ الشَّهْدِ وَالْعَسَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

جس محبوب کا لعاب دہن زیادہ شیریں تھا شہد شیریں سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَنْطِقُهُ أَعْلَىٰ مِنَ الدُّرِّ وَأَجْلَىٰ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کا کلام سفید موتیوں سے اعلیٰ اور روشن تھا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ جس محبوب کی

حَدِيثُهُ أَشْهَىٰ مِنَ الْأَمْنِ لِلْخَائِفِ وَالَّذِي مِنْ بَيَانِ الْمَعَارِفِ لِلْعَارِفِ

بات زیادہ مرغوب ہوتی نسبت امن کے واسطے خوفزدہ کے اور زیادہ لذیذ ہوتی نسبت بیان معارف کے واسطے عارف کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کی

حَدِيثُهُ الَّذِي مِنَ الْأَنْعَامِ بَعْدَ الْبُؤْسِ وَأَشْهَىٰ مِنَ الْقُوتِ

گفتگو زیادہ لذیذ تھی انعام سے بعد شدت و سختی کے اور زیادہ مرغوب تھی قوت و روزی سے

لِلْبُؤْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

واسطے نفوس کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي حَدِيثُهُ الَّذِي مِنَ السَّمْعِ لِلْمَسَامِعِ وَمِنْ مَوَاقِفِ

پر جس محبوب کا سخن زیادہ لذیذ ہے نسبت سننے کے واسطے کانوں کے اور نسبت خواہشات نفوس کے

الشَّهَوَاتِ لِلطَّبَائِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

واسطے طبائع و نفوس کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَدِيثُهُ أَشْهَىٰ مِنَ النَّطْقِ لِللِّسَانِ وَمِنْ

آل محمد پر کہ جس محبوب کے برل زیادہ مرغوب ہیں نسبت نطق کے واسطے زبان

الْمَاءِ الْبَارِدِ لِلظَّمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کے اور ٹھنڈے پانی سے واسطے پیاسے کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَدِيثُهُ الَّذِي مِنَ السُّرُورِ لِلْمَحْزُونِ

آپ کی آل پر کہ جن کا قول زیادہ لذیذ ہے نسبت سرور کے واسطے غمزہ کے اور

وَأَشْهِى مِنَ السَّرَاجِ لِلْمَسْجُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور زیادہ مرغوب ہے چراغ سے واسطے مجبوس کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَيَاتُهُ أَشْهِى لِلنَّفْسِ وَ

محمد پر اور آل محمد پر کہ جن کی حدیث زیادہ پسندیدہ ہے نفوس کے لیے اور فائدہ مند ہے

أَغْنَى مِنَ الْبُلُوغِ لِلْبَقْصِدِ وَالْمِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

نسبت مفاسد اور آرزوں تک رسائی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَيَاتُهُ أَشْهِى مِنْ قَدُومِ الْغَائِبِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن محبوب کا نفس زیادہ مرغوب ہے نسبت آنے غائب کے

لِلْأَهْلِ وَالْحَبَائِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اپنے اہل قرابت اور دوستوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يُحْيِرُنِي فِي مَلَاخَةِ فِيهِ وَصَفُ الْوَاصِفِ

کی آل اطہار پر کہ حیرت زدہ ہوتا ہے اس محبوب کے منہ کی نکیلی بیانی کرنے میں توصیف کرنے والوں کا وصف

وَبَرِيْقُ ثَنَائِيَاهُ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور ان کے سامنے والے دانتوں کی چمک اچکنے والی بجلی کی مانند تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا افْتَرَّضَ حَكًّا افْتَرَّ عَنْ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ ہنستے ہوئے ہونٹ ہٹاتے تو وہ ہنستے بجلی کی چمک

مِثْلَ ثَنَاءِ الْبَرْقِ وَحِبِّ الْغَمَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور اولوں کے دانوں جیسے دانتوں پر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ يَخْرُجُ الثُّورُ مِنْ ثَنَائِيَاهُ

اور آل محمد پر جو محبوب جب بولتے تو برآمد ہوتا نور عظیم ان کے سامنے والے دانتوں سے

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا اضْحَكَ يَتَدَلَّى لَأُتُّورَ عَلَى الْجِدَارِ

آپ کی آل پر جو محبوب کبھی ہنستے تو بچکتا نور (آپ کا) سامنے کی دیوار پر۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ جو محبوب

كَانَ إِذَا اسْرَّ سَطَعَتْ مِنْ جَبِينِهِ الْأَنْوَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مسرور و شاداں ہوتے تو بلند ہوتے آپ کی پیشانی اقدس سے انوار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ عَالِي النَّسَبِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب تھے بلند مرتبت نسب و

الْكَعْبِ وَالشَّرَفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مقام اور شرف والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا اسْرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَتْ

آپ کی آل پر جو محبوب کبھی شاداں و فرحاں ہرتے تو روشن ہو جاتا چہرہ انور آپ کا

وَرَقَّةٌ مُصْحَفٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

گویا کہ وہ مصحف کا ورق ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا اسْرَّ يَعْلَمُ جَاءَةً أَوْ خَيْرَ اشْرَقَ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب جبکہ مسرور ہونے حاصل ہونے والے علم یا خوشی والی خبر پر توردشن ہو جاتا

وَجْهُهُ حَتَّى كَانَتْ قِطْعَةً مِّنْ قَبْرِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آپ کا چہرہ اس قدر کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ سِرَاجُ الْأَنْوَارِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب کہ انوار کو منور کرنے والے چراغ ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ بنا دیا

جَعَلَ اللهُ لَيْلَةَ وِلَادَتِهِ أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کی شب ولادت کو لیلۃ القدر سے افضل۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَحْسَنَ النَّاسِ خَلْقًا

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب حسین ترین ہیں تمام لوگوں سے از روئے حسن

وَأَعْظَمِهِمْ خُلُقًا وَأَبْسَطِهِمْ كِتَابًا وَأَكْثَرَهُمْ جِدًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ظاہر کے اور عظیم ترین ہیں از روئے خلق کے اور وسیع ترین ہیں از روئے حفظ و امان کے اور اکثر ہیں سب از روئے کوشش کے۔ اے اللہ

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْفَرِهِمْ عَقْلًا وَأَجْمَلِهِمْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب سب سے واقف عقل والے اور جمیل

شَكْلًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

شکل والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

أَوْضَحِهِمْ قَوْلًا وَأَعَزِّبِهِمْ حَيَاءً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

جو واضح ترین ہیں سب سے قول کے لحاظ سے اور واقف ترین ہیں از روئے حیا کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَبْهَجِهِمْ شَكْلًا وَأَصْدَقِهِمْ نَقْلًا اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو سب سے زیادہ پر بہار شکل والے اور سب سے سچے ہیں از روئے نقل و حکایت کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْبَرِهِمْ فِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو سب سے زیادہ صابر ہیں

طَاعَةِ اللهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ کی اطاعت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

أَرْكَاهُمْ فِرْعَاوْنَ وَأَطْيَبِهِمْ أَصْلًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو سب سے پاکیزہ ہیں از روئے فرعون و اولاد کے اور طاہر و طیب ہیں از روئے اصل و آب و کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَخَاتَمِهِمُ بِالْعَظِيمِ وَالتَّكْرِيمِ وَعَلَيْهِمْ

فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو محبوب انبیاء کے سردار اور خاتم ہیں تعظیم و تکریم کی وجہ سے۔

حَقِّ لَهُ لِلتَّقْدِيمِ وَبِقَدْرِهِ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ان پر حق ہے آپ کو تقدیم کا سبب آپ کی قدر و منزلت کے تیزی بارگاہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ أَكْثَرَ حُبِّهِ حُبِّ الشَّعْبِ وَمَا رَأَى

اور آل محمد پر کہ جس محبوب کی روئی اکثر طور پر جو کی ہوتی تھی اور آپ نے نہ دیکھا

التَّقَى حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بیدہ کی روئی کو چشم سر سے حسب عادت ایسا تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ التَّلْتِ وَيَلْعَقُهُنَّ وَيَأْكُلُ

آپ کی آل پر جو محبوب تین انگلیوں سے کھاتے تھے اور انہیں چاٹتے تھے اور کھانے دابیں

بِيَمِينِهِ مِمَّا يَلِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ہاتھ کے ساتھ سامنے حصہ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ قَبْلَهُ وَيُحْمَدُهُ

کی آل پر جو کھانے سے قبل اللہ تعالیٰ کا نام اقدس ذکر کرتے اور بعد ازاں اللہ کی حمد

بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کرتے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَهُ وَيَعْدَاةً وَيُحِبُّ الْحُلُوعَاءَ وَ

پر جو محبوب کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو فرماتے تھے اور پسند فرماتے میٹھی چیز کو اور

الْعَسَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

شند کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَأْكُلُ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِي سَكَّرَجَةٍ وَلَا خُبْزَلَهُ مَرَّقِيٌّ

آل پر کہ جس محبوب نے نہ کھایا قیمتی دسترخوانوں پر اور نہ طشتریوں میں اور نہ پکائی گئی آپکے لیے تیلی اور چوڑی

وَيَأْكُلُ عَلَى السَّقْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

روئی اور کھاتے تھے عام دسترخوان پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَوَيَتَنَفَّسُ فِي

ہی آل پر جو محبوب پیتے تھے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور سانس نکالتے تھے

الْإِنَاءِ ثَلَاثًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

برتن سے پیتے وقت تین مرتبہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحَبَّ الشَّرَابَ إِلَيْهِ الْحُلُو الْبَارِدُ وَلَا يَدُومُ شَيْئًا مِّنْ

پر کہ جس آقا کا محبوب ترین مشروب ٹھنڈی میٹھی چیز تھی اور ہمیشہ ایک نعمت کو استعمال نہیں

تَعْمَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فرماتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي كَانَ يَمْكُثُ أَهْلَهُ شَهْرًا مَّا يَسْتَوْقِدُونَ بِنَارِ إِرَانُ هُوَ إِلَّا التَّمْرُ

کہ جس محبوب کے اہل بیت عینہ بھر اس حال میں رہتے کہ گھر میں آگ نہیں جلاتے تھے ان کا قوت خشک کھجوریں اور

وَالْمَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پانی ہوتا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَئِذٍ مُتَتَابِعِينَ حَتَّى

پر کہ جو کھجور سیر نہ ہوئے جو کی روٹی سے بھی لگاتار دو دن یہاں تک کہ آپ کا

قَبِيضُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دصال ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ الَّذِي شَكَى الصَّحَابَةُ إِلَيْهِ الْجُوعَ وَرَفَعُوا عَنِ الْبُطُونِ

پر کہ جس محبوب کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے بھوک کی شکایت کی اور حجاب اٹھائے پیٹوں پر بندھے

حَجْرًا فَرَفَعَهُ عَنِ بَطْنِهِ حَجَرَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ایک ایک پتھر سے تو آپ نے حجاب اٹھایا پیٹ مبارک پر بندھے ہوئے دو پتھروں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا

تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ

چالیس سال کی عمر میں پس آپ نے قیام فرمایا مکہ مکرمہ میں تیرہ سال

عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

تک اور مدینہ منورہ میں دس سال تک۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر کہ جس محبوب کو

تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثِ وَسِتِّينَ سَنَةً اللَّهُمَّ صَلِّ

اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا تریسٹھ سال کی عمر میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ جس محبوب کا

مَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ وَرَفَعَ اللَّهُ ذِكْرَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اللہ تعالیٰ نے سینہ اقدس کشادہ فرمایا اور ان کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو کہ شفیق

الْحَفِيِّ الرَّقِيِّ التَّقِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

نبی بلند مرتبت پاکیزہ اور صاف و ستھرے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ دعوات والے نبی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُرَوِّجِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر جو محبوب رواج دینے والے

السُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہیں اور فرائض کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ اللَّهُمَّ

اور آل محمد پر جو محبوب کہ شریعت اور طریقت کے مظہر ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

مُعَدَّنِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَعْرِفَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

جو حقیقت و معرفت کی کان ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ السَّمَوَاتِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب منور کونے والے ہیں آسمانوں اور

الْأَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

زمین کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَبِي الْإِيْتَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

آپ کی آل پر جو محبوب یتیموں کے باپ اور وارث ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَوْقِفِ الْأَعْظَمِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو عظیم تر اور عظمت والے موقف

وَالْمُعْظَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

و مقام کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِ الْفُقَرَاءِ وَمُعِينِ الضُّعْفَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی آل پر جو آقا فقراء کے حبیب اور ناتوانوں کے مددگار ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَرْبَابِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا غریب اور پردیسوں کے مونس

الْغُرَبَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و ہمدرد ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر



مُحِبِّ الْمَسَاكِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو آقا مساکین سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غِيَاثِ الْبَلَّةِ وَالِدَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آل محمد پر جو آقا ملت و دین کے مددگار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَضِعَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ جس محبوب کا بوجھ

و نَزْرًا وَسُفْرًا ذِكْرُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

آثار دیا گیا اور ان کا ذکر بلند کر دیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْتَظِمُ بِوَجُودِهِ الْعَالَمَ اللَّهُمَّ

آل محمد پر کہ جس محبوب کے وجود سے پورا عالم انتظام پذیر ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُعْجِزِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ تمام موجودات میں سے

الْمَوْجُودَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سرایا معجزہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَرْفُوعِ إِلَى الْخَلَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کی آل پر جس محبوب کا مقام خلائق کو دیدار کرایا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَحْمُولِ عَلَى الْبُرَاقِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو براق پر سوار کیا گیا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

الْمَبْعُوثِ إِلَى خَيْرِ الْأُمَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو محبوب بھیجے گئے بہترین امت کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ الصِّفَاتِ وَالشَّيْخِ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب برتر صفات اور بزرگتر عادات والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آل محمد پر

الْمَشْهُودِ فِي الْبُلْدَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس محبوب کی شہادت رسالت دی گئی تمام شہروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ إِلَىٰ كَافَّةِ الْإِنْسَانِ اللَّهُمَّ

اور آل محمد پر جس محبوب کو مبعوث فرمایا گیا تمام انسانوں کی طرف۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْصُومِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب روزِ اقل سے

عَنِ الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مَعْصُومٍ هِيَ كُفْرًا وَسُرْكَشِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَزَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَصُونِ عَنِ الْخُدْلَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آل محمد پر جو محبوب محفوظ کر دئے گئے ہیں ناکامی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَارِي

و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب قاری ہیں قرآن

وَالْوَاعِظِ بِالْقُرْآنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے اور وعظ و نصیحت فرمانے والے ہیں قرآن کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فِي كُلِّ زَمَانٍ مَوْصُوفٌ

اور آل محمد پر جو محبوب ہر زمانہ میں توصیف و تعریف کئے ہوئے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل



مُحَمَّدٍ الَّذِي فِي كُلِّ مَكَانٍ مَحْمُودٌ وَعَلَى كُلِّ لِسَانٍ مَذْكُورٌ

محمد پر جو محبوب ہر مکان میں حمد و ثناء کئے ہوئے ہیں اور ہر زبان پر ان کا ذکر ہے۔

يَا إِلَهِي إِلَى ضَعْفِي عَنْ إِحْتِمَالِ الْفَوَاحِشِ وَعَجْزِي عَنِ

اے میرے الہ (تو مجھ پر) طرف میری ناتوانی کے مشکلات کی برداشت سے اور طرف میرے عجز کے

الْإِنْتِصَارِ مِمَّنْ قَصَدَنِي بِسِحَارِ بَيْتِهِ وَوَحْدَائِي فِي كَثِيرٍ

بدلہ لینے سے جنہوں نے قصد کیا میرے ساتھ حرب و قتال کا اور میری تنہائی کے باوجود مجھے لٹکانے والوں کی

عَدَدٍ مَنْ تَادَانِي وَأَرْصَدَنِي بِالْبَلَاءِ فِيمَا لَمْ أَعْمَلْ فِيهِ

کثرت تعداد کے اور وہ میری ابتلاء و آزمائش کی تباہی میں ہیں ان امور کے ذریعے جن میں میں نے اپنی

فِكْرِي فَأَبْتَدَأْتَنِي بِنُصْرِكَ وَشَدَّ دَتَّ أَنْزَلَنِي بِقُوَّتِكَ ثُمَّ

نکرو عمل استعمال نہیں کی پس تو نے پہل فرمائی مجھے اپنی نصرت بتیا کرنے میں اور مضبوط فرمائی میری پیٹھ ساتھ اپنی قوت کے پھر

فَلَلْتُ لِي حِدَاةً وَصَبْرَتَهُ مِنْ بَعْدِ جَمْعِ عِدِيدٍ وَحِدَاةً وَ

کند فرمائی میری خاطر اس کی حدت اور تیزی اور کر دیا اسے کثرت تعداد کے بعد تنہا اور بلند

أَعْلَيْتَ كَعْبِي عَلَيْهِ وَجَعَلْتَ مَا سَدَّ دَاةً مَرْدُودًا عَلَيْهِ

کیا میرے مقام کو اس پر اور کر دیا تو نے اس کی رکاوٹوں کو لوٹائی ہوئی اسی پر

فَرَدَّدْتَهُ وَلَمْ يَشْفِ غَيْظَهُ وَلَمْ يَسْكُنْ غَلِيلَهُ قَدْ عَضَّ

پس تو نے اسے رد فرمایا اور ابھی نہ شفا پائی اس کے غیظ و غضب اور نہ سکون پایا اس کی پیاس تے۔ اپنے جیلوں

شَوَاهِدًا وَأَدْبَرُ مَوْلِيًّا قَدْ أَحْلَفْتُ سَرَايَاهُ وَكَمْ مِنْ بَاغٍ بَغَانِي


کو کاٹنا اور لوٹا پیٹھ پھیرے ہوئے حالانکہ باہم حلیف تھے اس کے لشکر اور کتنے باغی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ

بِمَكَائِدِهِ وَنَصَبَ لِي شَبَكَ مَصَائِدِهِ وَوَكَّلَ بِي تَفْقِيرَ عَائِي

اپنے کر و فریب چاہے اور اپنے شکار والے جال میرے لیے نصب کئے اور مقرر کئے میرے لیے اپنی طرف دیکھ بھال اور گرانی

وَأَضْبَا إِلَى إِضْبَاءِ السَّبْعِ لَطْرِيدَتِهِ إِنْ تَنَظَّرَ إِلَّا تَنَظَّرَ الْفُرْصَةَ

والے اور فریب کیا میرے ساتھ ماٹن فریب کرنے درندے کے اپنے بھگائے ہوئے شکار کیلئے انتظار کرتے ہوئے فرصت کا



لِفَرِيصَتِهِ وَهُوَ يُظْهِرُنِي بِشَاشَةِ الْمَلِكِ وَيَنْظُرُنِي عَلَى شِدَّةِ

داسطے اپنے شکار کے حالانکہ وہ مجھ پر ظاہر کرتا ہے چا پوسی والی مسرت اور میرے حق میں منتظر ہے کینہ دہری کی

فُرْصَةِ الْحَقِّ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ وَدَوَامَهَا وَنَعُوذُ

شہید فرصت کا - اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے توبہ اور اس کے دوام کا اور میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں

بِكَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَأَسْبَابِهَا وَذَكَّرْنَا بِالْخَوْفِ مِنْكَ قَبْلَ

معصیت سے اور اس کے اسباب سے اور ہمیں یاد دہانی کرا اپنے خوف و خشیت کی اس

هُجُومِ خَطَرَاتِهَا وَاحْمَدْنَا عَلَى النَّجَاةِ مِنْهَا مِنَ التَّفَكُّرِ

کے خطرات کے اچانک لاتی ہونے سے قبل اور ہمیں آمادہ فرما ان سے نجات کے لیے اس کے ذراغ

فِي طَرَائِقِهَا وَأَمْرٍ مِنْ قُلُوبِنَا حَلَاوَةً مَا اجْتَبَيْنَاهُ مِنْهَا

سوچنے پر اور مشادے ہمارے دلوں سے ہر اس شے کی لذت و عداوت جو ہم نے انتخاب کی ان میں سے

وَأَسْتَبَدَّ لَهَا بِالْكَرَاهَةِ لَهَا وَالطَّمَعِ لِمَا هُوَ بِيضٌ هَا وَ

اور اسے تبدیل فرمادے نفرت و کراہت کے ساتھ اور اس کی ضد کے طمع و حرص کے ساتھ اور

أَفْضِ عَلَيْنَا مِنْ بَحْرِ كَرَمِكَ وَجُودِكَ حَتَّى نَخْرِبَ مِنْ

جاری فرما ہم پر اپنے جو دو کرم کے سمندر سے حتی کہ ہم نکلیں دنیا

الدُّنْيَا عَلَى السَّلَامَةِ مِنْ وَبَالِهَا وَاجْعَلْنَا عِنْدَ الْمَوْتِ

سے اس کے وبال سے سلامتی کے ساتھ اور بنا ہمیں موت کے وقت

نَاطِقِينَ بِالشَّهَادَةِ عَالِمِينَ بِهَا وَارْعُفْ بِنَارِ أَفَةِ الْحَبِيبِ

کلام کرنے والے شہادت توحید و رسالت کے ساتھ اس کا یقین رکھتے ہوئے اور مہربانی فرما ہم پر مانند مہربانی کرنے

بِحَبِيبِهِ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَنَزْلِهَا وَأَبْرَحْنَا مِنْ هُمُومِ

حبیب کے ساتھ سختیوں کے زول کے وقت اور ہمیں راحت پہنچا دینا کے اندیشوں

الدُّنْيَا وَغَمُومِهَا بِالرُّوحِ وَالرَّيْحَانِ إِلَى الْجَنَّةِ وَ

اور غموں سے ساتھ راحت اور خوشبوؤں کے جنت اور



نَعِيهَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ تَوْبَةً مِنْكَ إِيْنَا لَتَكُونَ تَوْبَتْنَا

اس کی نعمتوں میں۔ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے نظر رحمت کا طرف ہمارے تاکہ ہماری توبہ ہو

تَابِعَةً إِلَيْكَ مِنَّا وَهَبْ لَنَا التَّلَقِّي مِنْكَ كَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْكَ

تابع تیرے اور ہمیں عطا فرما توفیق رکلمات توبہ کے حصول کی مانند آدم علیہ السلام کے کلمات حاصل کرتے

الْكَلِمَاتِ لِيَكُونَ قُدْوَةً لِّوَلَدِهِ فِي التَّوْبَةِ وَالْأَعْمَالِ

کے تاکہ ہوں وہ مقتدا اپنے بیٹے کے لیے توبہ اور اعمال

الصَّالِحَاتِ وَبَاعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْعِبَادِ الْأَشْرَارِ وَالشَّيْءِ

صالحہ میں اور دوری پیدا فرما ہمارے درمیان اور شریر بندوں کے درمیان اور جو

بِإِلِيلَيْسَ رَأْسِ الْغَوَاتِ وَاجْعَلْ سَيِّئَاتِنَا سَيِّئَاتِ مَنْ

گمراہوں کے سردار ابلیس کی مانند ہیں اور بنا دے ہماری سیئات کو مانند

أَحَبَّتْ وَلَا تَجْعَلْ حَسَنَاتِ مَنْ أَبْغَضْتَ فَالْإِحْسَانُ لَا

اپنے محبوبوں کی سیئات کے اور نہ بنانا مانند مبغوض لوگوں کی نیکیوں کے کیونکہ نیکو کاری اور حسن عمل

يَنْفَعُ مَعَ الْبُغْضِ مِنْكَ وَالْإِسَاءَةُ لَا تَنْصُرُ مَعَ الْحُبِّ مِنْكَ

تیرے بغض کے ہوتے ہوئے نفع نہیں دے سکتا۔ اور کرتا ہی نہیں ضرورتی تیری محبت کی موجودگی میں

وَقَدْ أَبْهَمْتَ الْأَمْرَ عَلَيْنَا لَنَرْجُو وَنَخَافُ فَا مِنْ خَوْفِنَا

اور تحقیق مبہم رکھنا تو نے معاملہ کو ہم پر تاکہ امید وار رہیں اور خوفزدہ بھی لہذا ہمارے خوف کو امن سے بدل

وَلَا تُخَيِّبْ رَجَائَنَا وَأَعْطِنَا سَوْ لَنَا فَقَدْ أَعْطَيْتَنَا الْإِيمَانَ

اور ہماری آرزوں کو ناکام نہ فرما اور ہمیں ہمارا مطلوب عطا فرما۔ پس تحقیق عطا کیا تو نے ہمیں ایمان

مِنْ قَبْلِ أَنْ نَسْأَلَكَ وَكُتِبَتْ وَحَبِّتْ وَنَرِيْدَتْ وَ

قبل اس کے کہ ہم سوال کریں اور تو نے مقدر فرمایا اور محبوب بنایا اور مزین فرمایا اسے اور

كَرِهْتَ وَأَطَلَقْتَ الْأَلْسَانَ بِمَا بِهِ تَرَجَّحْتَ فَنِعْمَ الرَّبُّ

نا پسندیدہ ٹھہرایا (کفر کو) اور جاری فرمایا زبانوں کو ساتھ اس کے جس کی تو نے ترجیحی پس بہت اچھا رب ہے تو



أَنْتَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَنْعَمْتَ فَأَغْفِرْ لَنَا وَلَا تُعَاقِبْنَا

تیرے لیے ہی حمد ہے تیرے انعامات پر۔ پس ہمارے لیے مغفرت فرما اور ہمیں عذاب نہ دے

بِالسَّلْبِ بَعْدَ الْعَطَاءِ وَلَا بِكُفْرَانِ النِّعَمِ وَحِرْمَانِ

ساتھ چھیننے کے بعد عطا کے اور نہ ساتھ نعمتوں کی ناشکری اور رضا کی مجرمانی

الرِّضَاءِ اللَّهُمَّ ارْضِنَا بِقَضَائِكَ وَصَبِّرْنَا عَلَى

کے ساتھ۔ اے اللہ ہمیں راضی فرما اپنی قضاء پر اور صابر بنا اپنی

طَاعَتِكَ وَبَاعِدْنَا عَنِ مَعْصِيَتِكَ وَعَنِ الشَّهَوَاتِ

اطاعت پر اور ہمیں دور فرما اپنی معصیت سے اور ان خواہشات سے

الْمَوْجِبَاتِ لِلنَّقْصِ وَالْبُعْدِ عَنْكَ وَهَبْ لَنَا حَقِيقَةَ

جو موجب ہیں نقصان کی اور تجھ سے دوری کی اور ہمیں بخش اپنے ساتھ ایمان کی حقیقت

الْإِيْمَانِ بِكَ حَتَّى لَا نَخَافَ غَيْرَكَ وَلَا نَرْجُوَ غَيْرَكَ

حتیٰ کہ نہ خوف رکھیں تیرے غیر کا اور نہ امید رکھیں تیرے غیر سے

وَلَا نُحِبَّ غَيْرَكَ وَلَا نَعْبُدَ شَيْئًا سِوَاكَ وَأَوْزِعْنَا شُكْرَ

اور نہ محبت رکھیں غیر سے اور نہ عبادت کریں کسی کی تیرے سوا اور ہمیں نصیب فرما اپنی

نِعْمَاتِكَ وَغَطِّنَا بِرِدَائِكَ عَافِيَتِكَ وَانصُرْنَا بِالْيَقِينِ وَ

نعمتوں کا شکر اور ہمیں چھپا اپنی عفو و درگزر کی چادر سے اور ہماری مدد فرما اپنے ساتھ یقین اور

التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَأَسْفِرْ وَجُوهَنَا بِنُورِ صِفَاتِكَ وَ

اپنی ذات پر توکل کے ذریعے۔ اور روشن فرما ہمارے چہروں کو اپنے نور صفات کے ساتھ اور

أَضْحِكْنَا وَبَشِّرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ أَوْلِيَاءِكَ وَاجْعَلْ

ہمیں خوش رکھ اور بشارت دے قیامت کے دن اپنے دوستوں کے درمیان اور اپنا

يَدَكَ مَبْسُوطَةً عَلَيْنَا وَعَلَى أَهْلِيْنَا وَأَوْلَادِنَا وَمَنْ مَعَنَا

دست کرم پھیلائے رکھ ہم پر اور ہمارے اہل و اولاد پر اور ہمارے ساتھیوں پر

وَلَا تَكُنَّا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا طُرْفَةً عَيْنٍ وَلَا أَقْلًا مِنْ ذَلِكَ يَا

اور ہمیں نہ سونپنا ہمارے نفوس کی طرف آنکھ بھینکنے کی دیر اور نہ اس سے کم میں۔ اے

نَعْمَ الْمُجِيبُ يَا مَنْ هُوَ هُوَ هُوَ فِي عُلُوِّهِ قَرِيبٌ يَا ذَا الْجَلَالِ

اچھے دعائیں قبول کرنے والے۔ اے کہ وہی ہی ہے اپنی بلندی و برتری کے باوجود قریب تر۔ اے جلال

وَالْاِكْرَامِ يَا مُحِيطٌ بِاللَّيَالِي وَالْاَيَّامِ اَشْكُوْا اِلَيْكَ مِنْ

و اکرام والے۔ اے راتوں اور دنوں کا احاطہ کرنے والے میں تیری بارگاہ میں اظہار کرتا ہوں

عَمَّ الْجَبَابِ وَسُوءِ الْحِسَابِ وَشِدَّةِ الْعَذَابِ وَارْتِ

جباب و محرومی کے غم اور برے حساب اور شدید عذاب کا اور بے شک

ذَلِكَ لَوَاقِعٌ مَّالَهُ دَافِعٌ اِنْ لَّمْ تَرْحَمْنِي لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ

وہ البتہ وقوع پذیر ہوگا نہیں اسے کوئی روکنے والا اگر تو آپ مجھ پر رحم نہ فرمائے، نہیں مبعود برحق مگر

سُبْحٰنَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ط وَقَدْ شَكَرْتُ اِلَيْكَ

تو ہی تو پاک ہے بیشک میں حد سے تجاوز کرنے والوں سے ہوں اور البتہ اظہار غم کیا تیری بارگاہ میں

يَعْقُوْبُ فَخَلَّصْتَهُ مِنْ حُزْنِهِ وَرَدَدْتِ مَا ذَهَبَ مِنْ

حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو غلامی دی تو نے انہیں حزن و ملال سے اور لوٹادی تو نے ان کی گئی ہوئی

بَصْرِهِ وَجَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَقَدْ نَادَاكَ نُوْحٌ

بیٹائی اور جمع کی تو نے انہیں اور ان کی اولاد کو۔ اور البتہ تحقیق پکارا تجھے ان سے پہلے

مِّنْ قَبْلٍ فَنَجَّيْتَهُ مِنْ كُرْبِهِ وَقَدْ نَادَاكَ اَيُّوْبُ مِنْ

حضرت نوح علیہ السلام نے پس تو نے نجات دی انہیں رنج و کرب سے۔ اور البتہ پکارا تجھے حضرت ایوب علیہ السلام نے

بَعْدُ فَكَشَفْتَ مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ وَقَدْ نَادَاكَ يُوْسُفُ فَنَجَّيْتَهُ

اس کے بعد تو دور فرما دیا تو نے ان کی بیماری اور ضرر کو اور البتہ پکارا تجھے حضرت یوسف علیہ السلام نے پس نجات دی تو نے

مِنْ غَمِّهِ وَقَدْ نَادَاكَ زَكَرِيَّا فَوَهَبْتَ لَهٗ وَلَدًا مِّنْ صُلْبِهٖ

انہیں غم و اندوہ سے اور البتہ پکارا تجھے حضرت زکریا علیہ السلام نے پس تو نے عطا فرمایا انہیں بیٹا ان کی پشت سے

بَعْدَ يَأْسِ أَهْلِهِ وَكِبَرِ سِنِّهِ وَلَقَدْ عَلِمْتُمَا نَزَلَ بِآبْرَاهِيمَ

ان کی بیوی کے سن ایساں کو پہنچنے اور عمر رسیدہ ہونے کے باوجود۔ اور البتہ تو نے جانا جو کچھ ابتداءً آیا حضرت

فَأَنْقَذْتَهُ مِنْ تَارِعْدُوهُ وَأَنْجَيْتَ لُوطًا وَأَهْلَهُ مِنْ

ابراہیم علیہ السلام پر پس تو نے انہیں بچایا دشمن کی آگ سے۔ اور نجات دی تو نے حضرت لوط اور ان کی بیویوں کو اس

الْعَذَابِ التَّازِلِ بِقَوْمِهِ فَهَا أَنَا عَبْدُكَ إِنَّ تَعَذِّبْنِي بِجَمِيعِ

عذاب جو نازل ہو ان کی قوم پر تو توجہ فرما میں بھی تیرا بندہ ہوں اگر تو مجھے عذاب دے ساتھ تمام وجود عذاب کے

مَا عَلِمْتُمَا مِنْ عَذَابِكَ فَأَنَا حَقِيقٌ بِهِ وَإِنْ تَرَحُّبْنِي كَمَا

جو تیرے علم میں ہیں تو میں اس کے لائق ہوں اور اگر تم فرمائے مجھ پر جیسے کہ تم

رَحِمْتَهُمْ مَعَ عَظْمِ إِجْرَامِي فَأَنْتَ أَوْلَىٰ بِذَلِكَ وَأَحَقُّ مَنْ

فرمایا ان حضرات پر باوجود میرے جرموں کی بڑائی کے تو تو اس کا زیادہ مفدار ہے اور زیادہ اولیٰ ہے

أَكْرَمَ بِهِ فَلَيْسَ كَرَمُكَ مَخْصُوصًا بِنِ اطَاعَتِكَ وَأَقْبَلَ

اس کرم وجود کے ساتھ پس نہیں تیرا کرم مخصوص ساتھ اطاعت گزاروں کے اور تیری طرف متوجہ

عَلَيْكَ بَلْ هُوَ مَبْدُؤٌ لِّالسَّبْقِ لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَإِنْ

لوگوں کے بلکہ وہ صرف ہونے والا ہے تیری مشیت کی سبقت کی وجہ سے جس کو بھی چاہے اپنی مخلوق سے اگرچہ

عَصَاكَ وَأَعْرَضَ عَنْكَ وَلَيْسَ مِنَ الْكِرَامِ أَنْ لَا تُحْسِنَ إِلَّا

تیری نافرمانی کرے اور تجھ سے منہ موڑے اور نہیں جو دو کرم سے یہ کہ تو نہ احسان فرمائے مگر

لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ وَأَنْتَ الْبِفَضَالِ الْغَنِيِّ بَلْ مِنَ الْكِرَامِ

اس پر جو تیرا احسان مند اور شکر گزار ہو حالانکہ تو بہت فضل والا ہے، بے نیاز ہے بلکہ تیرے شایان کرم یہ ہے

أَنْ تُحْسِنَ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَأَنْتَ الرَّحِيمُ الْعَلِيُّ كَيْفَ

کہ تو احسان فرمائے اس پر جو کوتاہی کرے تیری بارگاہ میں جبکہ تو رحیم اور بلند شان ہے۔ کیونکہ ایسے

وَقَدْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُحْسِنَ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْنَا فَأَنْتَ أَوْلَىٰ

تو ہو حالانکہ تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نیکی کریں اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ برائی کرے تو تو خود اس کا

بِذَلِكَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا

زیادہ حقدار ہے۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفوس پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے

لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ رَبِّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا

تو ہم البتہ خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا

خَسِيْرًا فَاغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ بِمَغْفِرَتِكَ اِن لَّمْ تَكُنْ لِرَحْمَتِكَ

جو موجب خسراں ہے پس بخش دے میرے گناہ اپنی مغفرت خاصہ کے ساتھ اگر ہم تیں تیری رحمت حاصل کرنے کے لائق

اَهْلًا اِن تَنَا لَهَا فَرَحْمَتِكَ اَهْلًا اِن تَنَا لَهَا يَارَبَّاهُ يَا مَوْلَاهُ

تو تیری رحمت تو اس کی اہل ہے کہ ہمیں پہنچے اور محیط ہو۔ اے میرے رب۔ اے میرے مولیٰ

يَا مَغِيْثَ مَنْ عَصَاہُ اَغْنٰنَا اَحْلَا بِسْمِ اللّٰهِ اَحْلَا سُوِ اللّٰهِ

اے فریاد رس اپنے نافرمانیروں کے۔ ہماری امداد فرما جیکہ وہ شیریں تر ہو ساتھ نام اللہ کے اور تجاوز ہو ماسوی اللہ سے

اَرْسَا فِى اللّٰهِ اِذْ سَا اِلٰى اللّٰهِ اَسْرٰكِىْ فِى اللّٰهِ اَذْنِىْ بِاللّٰهِ اَرْوِى

راست ہو اللہ تعالیٰ میں۔ شوق بڑھانے والی ہبوط اللہ کے۔ پاکیزہ تر ہو لیب اللہ کے۔ قریب تر ہو ساتھ اللہ کے۔ سیراب کرئیوال

مَعَ اللّٰهِ اِحْتَضًا مِّنَ اللّٰهِ اِسْرَتْفَا بِاللّٰهِ اِسْرَتْقِى مَعَ اللّٰهِ مُرْتَضٰى

ساتھ اللہ کے حصہ و نصیب والی ہو اللہ سے۔ سہولت والی ہو ساتھ اللہ کے۔ بلندی والی ہو ساتھ اللہ کے۔ پسندیدہ ہو

اللّٰهُ هُوَ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ

اللہ وہی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وہی موجود حقیقی ہے

وَمَا اَخْلَاہُ باِطْلًا

اور جو اس کے علاوہ ہے وہ ناپائیدار ہے

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْہُ و لَمْ

فرمادیجئے وہی اللہ یکتا و یگانہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ

يُوْلَدُ ۝ و لَمْ يَكُنْ لَّہٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

وہ بنا گیا۔ اور نہ ہے اس کا شیل اور مشابہ کوئی بھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

کہ دین نامان دامت آفتاب

ایزومنان تحفه عجائب و ہدیہ غرائب الی اللہ
مقبول با بگاہ شہ نوین حضرت محمد ﷺ

مُسکَوٰی بِہ

مجموعۃ السُّؤَالِ

الجزء السادس والعشرون ۲۶

فِي حَلَقِهِ وَأَخْلَاقِهِ ﷺ

از تصنیف جناب شیخ محمد رفیع الدین صاحب مدظلہ العالی

حضرت خواجہ نوجگان محمد بن عبد الرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنَاسُوتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِمَلَكُوتِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ناسوت و منظر جسمانی کے اور بطیفیل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِجَبْرُوتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ملکوت و منظر روحانی کے اور بطیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جبروت اور علم کے

وَبِلَاهُوتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهَاهُوتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

اور بطیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لاهوت اور مرتبہ اطلاق اور ذات بحت کے اور بطیفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہاہوت

الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ

اور مرتبہ تشخص و تجسم کے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو غایت رحمت والا مہربان ہے روز جزا کا

الذِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

مالک ہے۔ اے ان صفات کمال والے صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں ہمیں چلا رہ راست بڑا

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

راہ ان کی جن پر تو نے انعام فرمایا ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ

فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور بیشک آپ البتہ خلق عظیم پر ہو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ أَنَّى رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سَوْءَةَ ۝ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر نبی سوادہ کا ایک فرد آیا، اس نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

أَخْبَرَنِي عَنْ خَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَوْ مَا تَقْرَأُ

عزمن کیا مجھے خبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو آپ نے فرمایا کیا تو تران

الْقُرْآنَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ ۝ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نہیں پڑھتا، اور بیشک آپ خلق عظیم پر ہو، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا وَصَنَعَتْ لَهُ حَفْصَةً طَعَامًا

اپنے اصحاب کرام علیہم الرضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے تو میں نے آپ کیلئے کھانا تیار کیا اور حضرت خصفہ رضی اللہ عنہما نے بھی آپ کے لیے

قَالَتْ قَسَبْتُنِي حَفْصَةً فَقُلْتُ لِلْحَارِبَةِ اِنْطَلِقِي فَاكْفِيْتِي قَصْعَتَهَا

کھانا پکایا۔ فرمایا کہ خصفہ مجھ سے سبقت لے گئی تو میں نے لوٹدی سے کہا جا کہ خصفہ کے پیالے کو اوندھا کر دو جس میں انہوں نے طعام

فَلَحِقْتَهَا وَقَدْ هَبَّتْ اَنْ تَضَعَ بَيْنَ يَدَي رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

بھیجا ہے، تو وہ انہیں جا ملی جبکہ وہ ارادہ کر چکی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وَالِهٖ وَسَلَّمَ فَاكْفَيْتَهَا فَاِنْ كَسَرْتَ الْقَصْعَةَ وَاَنْتَشَرَ الطَّعَامُ قَالَتْ

و اہل وسلم کے آگے رکھنے کا پس اس لوٹدی نے اسے اٹھیل دیا تو پیالہ ٹوٹ گیا اور کھانا بکھر گیا۔ فرمایا حضرت عائشہ

فَجَمَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا مِنْ الطَّعَامِ

نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹکڑے اور جو کھانا اس میں تھا

عَلَى النَّطْعِ فَاكْلُوْا ثُمَّ بَعَثَ بِقَصْعَتِيْ فَدَفَعَهَا اِلَى حَفْصَةَ فَقَالَ

دستر خوان پر رکھے پس سب نے اسے کھایا۔ پھر میرے پیالے کو لے کر حضرت خصفہ رضی اللہ عنہما کے حوالے کیا پس فرمایا

خَذُوْ ظَرْفًا مَّكَانَ ظَرْفِكُمْ وَكُلُوْا مَا فِيهَا قَالَتْ فَمَا رَأَيْتُ ذٰلِكَ فِي

اپنے برتن کے عوض یہ برتن لے لو اور کھاؤ جو اس میں ہے فرمایا حضرت عائشہ نے تو نہ دیکھا میں نے اس نعل کار و عمل اور نالنگی

وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس میں۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ قَالَ اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقِ الْاِسْلَامِ الْاِحْيَاءُ اَللّٰهُمَّ

محمد پر جنہوں نے فرمایا "بیشک ہر دین کی امتیازی نصلت ہے اور اسلام کی امتیازی نصلت حیات ہے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ قَالَ اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا احسان اچھی نصلت ہے اور گناہ وہ ہے جو

فِيْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يُّظَلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

دل میں کھکے اور تو تائید سمجھے لوگوں کا اس پر مطلع ہونا۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ مِنْ أَحِبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

محمد پر جنہوں نے فرمایا۔ " بیشک میرے نزدیک تمہارے محبوب ترین لوگوں میں سے ہے وہ جو سب سے بہتر ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔"

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا اللَّهُمَّ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا " بیشک تمہارے بہترین لوگوں میں سے میں وہ جو تم سے سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔"

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي بَيْزَانِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا " بیشک سب سے وزنی چیز جو مومن کے ترازو میں رکھی جائے گی

الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلِقَ حَسَنٌ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبِدْيَ

قیامت کے دن تو وہ اچھا خلق ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے منحس گوئے عیاد کو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ كَيْدِيرًا

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو فرماتے ہیں " بیشک مومن الہتہ پالینا ہے

بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةٌ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اپنے حسن خلق کی وجہ سے ہر رات قیام کرنے والوں اور ہر دن روزہ رکھنے والوں کا درجہ۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاتَّبِعْ

فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا " اللہ تعالیٰ سے ڈر جہاں کہیں بھی ہو اور برائی کے بعد

السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقِ حَسَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ

نیکی کرتا کہ اسے مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آ۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي

نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا " بیشک اللہ تعالیٰ خود نرمی والا ہے نرمی کو پسند فرماتا ہے اور نرمی بخوتی پراتنا

عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْعَنَفِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں عطا کرتا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

فرمایا " بیشک اللہ تعالیٰ نرمی والا ہے تمام امور میں نرمی کو پسند فرماتا ہے اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ مَنْ يَحْرَمُ الرَّفْقَ يَحْرَمُ الْخَيْرَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمدؐ پر جنہوں نے فرمایا "جو رفق اور نرمی سے محروم ہو اتنا مزہ خیر اور بھلائی سے محروم ہوا۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سِوَى الْمَلَائِكَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

محمدؐ پر جنہوں نے فرمایا "جنت میں داخل نہیں ہوگا بری نسلت و عادت والا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ

أَلَيْسَ أَحَبْرَتْنَا أَنْ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَكْثَرُ الْأُمَمِ مَمْلُوكِينَ وَيَتَأَلَّى قَالَ

کیا آپ نے ہمیں یہ خبر نہیں دی کہ یہ امت تمام امتوں سے زائد ہے از روئے مملوک غلاموں کے اور یتیموں کے آپ نے فرمایا

نَعَمْ فَأَكْرَمُهُمْ كَرَامَةً أَوْلَادِكُمْ وَأَطْعَمُهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ قَالُوا

ہاں! پس ان کا اکرام کرو مانند اپنی اولاد کی عزت کے اور انہیں کھلاؤ جہاں سے خود کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا

فَمَا يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا قَالَ فَرَسٌ تُرَبِّطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ

ہمیں دنیا میں کوئی شئی کار آمد و مفید ہے فرمایا گھوڑا جسے باندھتا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو اور

مَمْلُوكٌ يَكْفِيكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ایک غلام کافی ہے جب وہ نماز پڑھنے لگے تو وہ تمہارا بھائی ہے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمدؐ پر

الَّذِي قَالَ الْمُسْلِمُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى إِذَا هُمْ أَفْضَلُ

جنہوں نے فرمایا "جو لوگوں سے میل جول رکھے اور ان کی ایذا پر صبر کرے وہ افضل ہے

مَنْ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى إِذَا هُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اس سے جو ان سے میل جول نہ رکھے اور نہ صبر کرے ان کی ایذا اور ضرر رسانی پر۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِلَّا أَخْبِرْكُمْ بِمَنْ يُحْرَمُ عَلَى النَّارِ وَمَنْ تَحْرَمُ

محمدؐ پر جنہوں نے فرمایا "کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس شخص کی جو حرام ٹھہرایا جاتا ہے آتش دوزخ پر اور اس کی جس پر حرام کی جاتی

النَّارَ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ هَيْئٍ لَيْتَنَ قَرِيبٌ سَهْلٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ہے آتش دوزخ۔" اور ہر آہنگی والے نرم ہو، لوگوں سے قریب۔ یہ تکلف ہے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ بَعَثْتُ لَكُمْ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمدؐ پر جنہوں نے فرمایا "میں بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں کروں اعلیٰ اخلاق کی۔" اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ الْهُمُنُونَ هَيْنُونَ لَيْتُونُ كَالْجِبِلِّ الْأَنْفِ إِنْ قِيدَ انْقَادٌ

محمد پر جنہوں نے فرمایا "مومنین آہستہ روزم نحو ہیں مانند نیل والے اونٹ کے اگر کھینچا جائے تو پیچھے چل پڑتا

وَإِنْ أُرِنْتَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتِنَاخَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَالَ الْآ

اور اگر پتھر پر بٹھا دیا جائے تو وہاں بیٹھ جاتا ہے" اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کیا میں

أَيْتُكُمْ بِخَيْرِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَيْرُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَ

تمہیں خیر نہ دوں تم میں سے بہترین لوگوں کی۔ انہوں نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ فرمایا تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو

أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

عمروں والے اور اچھے اخلاق والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرماتے تھے۔

اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

"اے اللہ تو نے میری صورت و شکل کو بہترین بنا ہی ہے پس میرے خلق کو بھی تو بہترین بنا۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي قَالَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

جنہوں نے فرمایا "تمام مومنین سے کامل تر ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے خلق والا ہے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا قَالَ أَنَسٌ فَأُرْسِلَنِي يَوْمًا

محمد پر جو سب سے اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن

لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَذْهَبُ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ

ایک کام کے لیے بھیجا تو میں نے عرض کیا بخدا میں نہیں جاؤں گا جبکہ دل میں ارادہ تھا کہ جو حکم دیا ہے

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمَرَ عَلَى صَبِيانٍ وَهُمْ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جاؤں گا جب میں نکلا تو میرا گزر بچوں پر ہوا جو

يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ فَاذْأَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ

کھیل رہے تھے بازار میں (تو میں وہیں ٹھہر گیا)۔ ناگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میری گدی کو پکڑ لیا

مِنْ وَّرَائِي قَالَتْ فَتَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أُنَيْسُ ذَهَبْتَ حَيْثُ

انس نے فرمایا تو میں نے مڑ کر آپ کی طرف دیکھا جبکہ آپ ہنس رہے تھے پھر فرمایا اے انیس کیا تو ادھر گیا جہاں کا میں

أَمَرْتُكَ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

حکم دیا تھا ؟ میں نے عرض کیا ہاں میں جا رہا ہوں یا رسول اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو کہ

كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَرَزَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

سب سے خوبصورت۔ سب سے زیادہ سخی اور بہادر تھے اور بخدا اہل مدینہ ایک رات خوفزدہ ہو گئے

ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَنْطَلَقَ النَّاسُ قَبْلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

پس اس خوفناک آواز کی طرف چلے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَبَقَ النَّاسُ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ تَرَ عَوَالِمَ تَرَ عَوَالِمًا

ادھر سے واپس آتے تھے جبکہ آپ صبح پہلے اس آواز کی جانب پہنچ گئے تھے اور آپ فرما رہے تھے خوفزدہ نہ ہو خوفزدہ

وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرِّيَ مَا عَلَيْهِ سُرُجٌ وَفِي عُنُقِهِ سَيْفٌ

نہ ہو جبکہ آپ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار تھے جو بالکل برہنہ تھا اس پر زین نہیں تھی اور آپ تلوار چائل کئے ہوئے تھے

فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَحْرَأُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَأَلَ

تو آپ نے فرمایا میں نے اس گھوڑے کو دریا کی روانی ابایا ہے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن سے سوال کیا

رَجُلٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَتَى

ایک شخص نے وادی میں پھیلے ہوئے عظیم بھیلوں کے ریوڑ کا تو آپ نے فوری طور پر اس کے حوالے کر دی تو وہ پانی

قَوْمَهُ فَقَالَ أُمَّي قَوْمِ اسْلِمُوا فَوَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ

قوم کے پاس آیا اور کہا اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطیات دیتے ہیں اور فقر کا ذرا ہم

الْفَقْرَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

نحوت واندیشہ نہیں رکھتے۔ اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سید محمد پر کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ و

سَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِأَنْبِئَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ فَمَا

سلم صبح کی نماز ادا فرماتے تو اہل مدینہ کے خدام اپنے پانی بھرے برتن سے آتے تو وہ

يَأْتُونَ بِأَنْبَاءِ الْأَغْمَسِ يَدَا فِيهَا فَرَسٌ مَا جَاءَهُ بِالْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ

جو برتن بھی لاتے آپ اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے، بسا اوقات وہ لاتے سخت ٹھنڈی صبح میں

فَيَغْمِسُ يَدَا فِيهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ أُمَّةٌ قَبْلَ إِمَامَةٍ

تو بھی آپ اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالنے پر اپنی کو بابرکت بنانے کے لیے، اے اللہ صلوات و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ مدینہ

أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَأْخُذُ بِدَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ

منورہ کی کوئی ٹونڈی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا کر آپ کو لے جاتی رہی معروضات پیش کرنے کیلئے،

حَيْثُ شَاءَتْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

جہاں چاہتی - اے اللہ صلوات و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ

ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لِعَانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً اللَّهُمَّ

مشرکین پر دعائے ہلاکت فرمائی تو آپ نے فرمایا میں لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا میں تو رحمت مجسم رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ بُعِثْتُ لِأَتِمَّ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ اللَّهُمَّ

صلوات و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ کامل کروں حسین اخلاق کو - اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرٌ مِمَّا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ

صلوات و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہیں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کو کسی بہترین چیز ہے ان میں سے جو انسان کو عطا کی گئی

قَالَ الْخَلْقُ الْحَسَنُ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبِدَائِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ہیں تو آپ نے فرمایا اچھا خلق اور بیشک اللہ تعالیٰ فحش گو، بیسیا کو ناپسند فرماتا ہے - اے اللہ صلوات و رحمت نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ

محمد پر جنہوں نے فرمایا " اللہ تعالیٰ سے ڈر جہاں کہیں بھی ہو اور برائی کے بعد نیکی کر جو اسے مٹا دے اور

النَّاسِ بِخُلُقِ حَسَنٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ الْمُؤْمِنُ غَدْرٌ

لوگوں سے حسن خلق کے ساتھ میل جول رکھ - اے اللہ صلوات و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ مؤمن سادہ لوح

كِرِيمٌ وَالْفَاجِرُ حَبٌّ لِيِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ رَسُولُ

صاحب کرم و بخشش ہے اور منافق فریب کار کینہ و نچیل ہے - اے اللہ صلوات و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَسَنَ

صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ میں چہرہ الوردی دیکھتے تو فرماتے - اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے حسین بنا دیا ہے

صلى الله عليه وسلم

خَلِقِي وَخَلِقِي وَنَرَانِ مَبْنِي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

میری صورت و سیرت کو اور مزین و آراستہ ہو گیا مجھ سے جو عینناک ہوا دوسروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و رحمت نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدِ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ حَسَّنْتَ

محمد پر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اے اللہ تو نے حسین بنائی

خَلِقِي فَأَحْسَنَ خَلْقِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي قَالَ خِيَارُكُمْ

میری صورت پس خوبترین بنا میری سیرت و کردار بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا یہ تمہارے بہترین لوگ

أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا قَالَ أَنَسُ خِدْمَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

وہ ہیں جن کی عمریں درازتر اور اخلاق پاکیزہ تر ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے خدمت کی نبی اکرم صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِيْ أُمَّ وَأَلَيْهَا صَنَعْتُ وَلَا لِأَخِي صَنَعْتُ

علیہ وسلم کی دس سال تک تو اتنے طویل عرصہ میں کبھی آپ نے مجھے افس نہ کہا اور نہ یہ کیوں کیا اور نہ یہ کیوں نہیں کیا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي كَانَ مِنْ أَحْسَنِ

اے اللہ صلوٰۃ و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر جو سب سے اعلیٰ و پاکیزہ

النَّاسِ خُلُقًا قَالَ أَنَسُ فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَذْهَبُ

اخلاق والے تھے۔ حضرت انس نے کہا آپ نے ایک دن مجھے ایک کام کے لیے بھیجا تو میں نے عرض کیا بخدا میں

وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نہیں جاؤں گا جبکہ دل میں تھا کہ میں جاؤں گا اس کام کے لیے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے

فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمَرَ عَلَى صَبِيَّانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ فَاذَارَسُولُ

تو میں باہر نکلا تو میرا گزر ان بچوں پر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے (تو میں وہاں ٹھہر گیا) ناگاہ رسول اللہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَبِضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي فَنظرتُ إِلَيْهِ

صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گدی کو میرے پیچھے سے پکڑا میں نے آپ کی طرف دیکھا

وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أُنَيْسُ ذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ قُلْتُ نَعَمْ

جبکہ آپ ہنس رہے تھے تو فرمایا۔ اے انیس کیا تو گیا جہاں میں نے حکم دیا تھا میں نے عرض کیا ہاں جی

أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

میں جا رہا ہوں یا رسول اللہ - اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا سِئِلَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

آل محمد پر جن سے جب کبھی سوال کیا گیا تو آپ نے نفی میں جواب نہیں دیا - اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر بیشک ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا بھیجا کر بکریوں کا جو

بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَآتَى قَوْمَهُ فَقَالَ أَيُّ قَوْمٍ أَسْلِمُوا فَوَاللَّهِ إِنَّ

دو پہاڑوں کے درمیان تھیں تو آپ نے وہ اسے عطا کر دیں تو وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا اے میری قوم اسلام لے آؤ بخدا

مُحَمَّدًا أَلْبَعِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ فقر و سکت کا خوف و فکر نہیں کرتے - اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلَّقَتِ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى إِضْطَرُّوا إِلَى سَمَرَةٍ

آل محمد پر جن سے چمٹ گئے اعرابی جبکہ وہ سوال کرتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے آپ کو دھکیل دیا خاردار درخت کی طرف

فَخِطَفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْطُونِي رِدَائِي

جس نے آپ کی چادر مبارک کو اچک لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے پس فرمایا مجھے میری چادر دو

لَوْ كَانَ لِي عِدَّةُ هَذِهِ الْحَصَاةِ مَغْنَمٌ لَقَسَمْتُهَا بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بِخَيْلٍ

اگر میرے پاس ان کنکریوں کی مقدار بھیڑ بکریاں ہوتیں تو میں سبھی تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا پھر تم مجھے خیل نہ پاتے

وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ أَكْمَلُ

اور نہ غلط بیانی والا اور بزول - اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا سب

الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مؤمنین سے کامل تر ایمان والا ہے جو ان سے بہترین خلق والا ہے - اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَيُّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي قَالَ لَا

آل محمد پر جنہیں ایک شخص نے عرض کیا مجھے وصیت فرماؤ تو آپ نے فرمایا غضب ناک نہ ہو اگر



تَغْضَبُ فَرَدَّدَ ذَلِكَ مِرَارًا قَالُ لَا تَغْضَبُ وَحَسَنُ الْخُلُقِ بِعَظِيمَةٍ وَشَفَاعَتُهُ

اس نے بار بار اپنا سوال دہرایا تو آپ نے ہر بار یہی فرمایا غضب ناک نہ ہوا اور حسن خلق عظیم نخصت ہے اور آپ کی شفاعت

مَقْبُولَةٌ بِكَرَامَتِهِ وَصَلَّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ د

مقبول ہے بوجہ آپ کی بزرگی و اکرام کے اور صلوة و رحمت نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر مطابق تعداد

كُلِّ إِسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ آدَمَ وَكُنْيَتِهِ وَأَبٍ وَابْنٍ وَمَا وُلِدَ مِنْهُمَا مِنْ أَوْلَادِ

ہر اسم کے حضرت آدم کے اسماء سے اور کنیت سے اور ہر باپ اور بیٹے اور ان سے پیدا ہونے والوں کے اسماء کے

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آغاز دنیا سے روز قیامت تک لے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكُلِّ يَوْمٍ وَكُلِّ لَيْلٍ لِيَهَيِّئَ لَنَا مَعِيشَةً بِهَيَا وَمَا وُلِدَ

آل محمد پر مطابق تعداد ہر دن کے اور ان کی راتوں کے اور جو ان میں زندہ ہے اور

فِيهِنَّ وَمَا مَاتَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى آخِرِهَا مِنْ عَامِرِهَا وَ

پیدا ہوا ان میں اور جو مرا جس دن سے تو نے دنیا کو پیدا کیا اس سے آخری دن تک خواہ اس کے آباؤ اجداد کے

عَامِرِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ د

ہوں یا پانی میں غرق ہونے والے کے لے اللہ صلوة و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

كُلِّ أَرْبَعٍ وَأَبٍ وَأَدِيبٍ وَأَدَابٍ وَأَحْبَابٍ وَأَدَابِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلِّمْ

ہر بھائے ہوئے غلام اور ہر باپ اور ہر ادب اور جملہ آداب اور تمام احباب کے اور ہر نخصت کے لے اللہ صلوة

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكُلِّ أَجْرٍ وَأَثَابٍ وَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر کھاری پانی اور نوحش ذائقہ اور ہر حاجت اور

أَرْبٍ وَأَرْبٍ وَأَجْرٍ وَأَجْرٍ وَأَمْرًا جَدَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مہم کے اور صاحب مجد اور تمام ارباب مجد اور بزرگوں کے لے اللہ صلوة و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكُلِّ أَشْجَارٍ وَأَشْجَارٍ وَأَزْهَارٍ وَأَشْجَارٍ وَأَطْهَارٍ

اور آل محمد پر مطابق تعداد تمام درختوں اور پتھروں اور کھیلوں اور پھولوں اور ارباب طہارت اور



وَأَطْرَادٍ وَاعْتِمَارٍ وَأَبْرَارٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

ہاتھنے والوں اور عمرہ کرنے والوں اور تمام نیک لوگوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كَثِيْرَةٍ وَقَلِيْلَةٍ وَغَيْرِهِ مَا سِوَى اللّٰهِ كُلِّ شَيْءٍ
کی آل اطہار پر مطابق تعداد ہر کثیر و قلیل چیز کے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر شے کے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد تمام

اَبَاہِرٍ وَاَبَارِدٍ فِى كُلِّ نَفْحَاتٍ اَبْرَارٍ وَّفِى عَرَافَاتٍ وَّرَاہِرٍ وَاَعْدَاہِرٍ وَّ

پیہونہ کاروں اور کنوؤں کے اور نیک لوگوں کے ہر ہر سانس کے اور عرفات کے ہر حصہ کے اور ہر قسم پوری کرنے اور مغزت

اِعْتِمَارٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

کرنے اور دھوکہ کھانے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

كُلِّ يَتْرُوبٍ وَّبَثْرٍ وَّبَحْرٍ وَّبَادِلَةٍ وَّفَاضِلَةٍ وَّنَاظِرَةٍ وَّبَاصِرَةٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَّ

ہر اقطاع اور ابلہ اور سمندر اور ہر اس گوشت کے جو نفل اور پستان کے درمیان ہوتا ہے اور ہر فضیلت والی نصبت اور صاحب نظر اور صاحب لہجے

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ بَجَلٍ وَّوَبْحَلٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر عظمت والے کے اور گھٹیا کے

وَّبِيْاضٍ وَّوَبْحَتْرٍ وَّبَادِمَاتٍ وَّطَلْعَةٍ وَّطَلَاوَةٍ وَّطَيِّبَةٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور سفیدی اور پستہ قامت اور کندھوں والے گوشت اور ظہور و طلوع اور رونق و آرائش اور پاکیزہ نصبت کے۔ اے اللہ

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ بَدَاہِرٍ وَّبَرٍّ وَّبَحْرٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر فضول خرمی اور ہر نیش اور تری

وَّيَضِيْعٍ وَّوَبْدَلٍ وَّوَبَاذِلٍ وَّوَبَارِعٍ وَّوَبْزَاعٍ وَّوَبْزِيْعٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَّ

اور کاٹے ہوئے اور عومق اور جاننشین اور جرجان و قری اور عمدہ اور ہر بے جھجک اور شریف آدمی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ بَصِرٍ وَّوَبْطَرٍ وَّ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد ہر نگاہ اور تکبر و غرور کے اور

يَعْتَرُ وَبُكْرَةً وَبُيُوتَهَا وَبَلْهَوَهَا وَبَاهِرًا وَبَلْغَيْرٍ وَفَاتُورًا اللَّهُمَّ صَلِّ

ہر اہمق و بیوقوف کے اور ہر صبح سویرے اور شفاتِ نیشے اور وسیع مکان اور غالب و ظاہر اور دروازہ شہر کے اور ہر جاسوس کے

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ بَاطِلٍ وَ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد ہر باطل و

بِنْتٍ وَبَيْتٍ وَبَرْدٍ وَفَرَصِدٍ وَفَرَصَادٍ وَفَرُهْدٍ وَفَرُهْدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

زائل کے اور لڑکی و دختر اور پھیلائے اور ٹھنڈک اور انگوڑے کی بیج اور توت کے درخت اور فرخ حسین لڑکے اور پہاڑی بچی کے بچے کے لے اللہ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ بُهْتَرٍ وَبُهْتَرٍ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر کوتاہ قامت اور ہر جھوٹے کے

وَبُهْرٍ وَبُسْلٍ وَبَرْقِلٍ وَبَقِلٍ وَسَامِلٍ وَسَمِلٍ وَسَبَّالٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور ہر ہلاکت اور ہر سختی اور ہر جھوٹے اور ہر سبزی اور پھوٹنے والے کے اور پھوٹنے اور چتر کے کیڑے کے لے اللہ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ بُهْزَرٍ وَبُكْلٍ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد ہر کاشتکار اور تمام

وَيَلِكٍ وَبُهْلٍ وَبُهْلُولٍ وَنَبَلٍ وَنَبَالٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

حالات و کیفیات اور ہرنزی اور لعنت اور ہر کامل رئیس کے اور ہر تیر اور تیر بنانے کے لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ تَيْبٍ وَتَرْبٍ وَتَغْبٍ وَتَائِبٍ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر ہلاکت اور خاک آلودگی کے اور ہر ہلاکت کے اور توبہ کرنے والے کے

يَتُوبُ اِلَيْهِ مَتَابًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

جو کما حقہ رجوع کرے طرف اللہ کے لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ تَحْتٍ وَتَرْجٍ وَتَحْتِجٍ وَتَشِجٍ وَمَتِيحٍ وَنَخِيحٍ

آل اطہار پر مطابق تعداد ہر نیشب و پستی کے اور ہر مضبوط اعصاب والے اور تخرک اور کشادہ اور ہر مبتلائے بیات کے اور ہر گرنے اور

وَنَصَاخٍ وَفَرَاخٍ وَفَرُوخٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

مغز کے اور اپنے والے چتر کے اور چوڑے پیل والے نیزے کے اور چھوٹے بچوں کے لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل



اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ تَخٍّ وَ تَوْبَةٍ وَ تَيْهٍ وَ تَيَّارٍ وَ فَخَّارٍ وَ فَاخِرٍ

محمد پر مطابق تعداد ہر خمیر اور قاصد اور جو شیلے اور مغرور اور ٹھیکری اور عمدہ اور

وَ فَخَّرَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مخزن ناز کے لئے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

بَعْدَ كُلِّ تَارِيخٍ وَ تَرِيخٍ وَ تَوْبَةٍ وَ فَاخِرٍ وَ فَاخِرٍ وَ فَاخِرٍ وَ فَاخِرٍ

مطابق تعداد ہر خشک اور سوکھی اور مضبوط شئی اور سخت شئی کے اور صلوسے کے اور کلیجے اور عطیات کے لئے اللہ

صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ حَارَ جَمِيعَ الْكَمَالَاتِ دُونَ الْأُلُوْهِيَّةِ وَ اسْتَوْعَبَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوبے جمع کر لیا تمام کمالات کو سوائے الوہیت کے اور احاطہ کر لیا

كَأَفَّةً أَصْنَافِ الشَّرَفِ بَعْدَ الرَّبُّوبِيَّةِ مُحَمَّدٍ الْحَامِدِ لِلْحَقِّ بِلِسَانِ كُلِّ

تمام اقسام کے شرف و فضل کا ربوبیت کے سوا جو آپ بار بار حمد کئے ہوئے ہیں اللہ کی حمد کرنے والے ہیں ساتھ زبان ہر

ذِي لِسَانٍ وَ بِلِسَانِهِ الْخَاصَّةِ بِهِ وَ الْمَحْمُودِ لِلْحَقِّ أَيْضًا بِلِسَانِ كُلِّ ذِي

اہل زبان کے اور ساتھ اپنی خاص زبان کے اور اللہ تعالیٰ کے محمود ہیں تمام اہل عقول کی

عُقُولٍ وَ يَقُولُهُ الْخَاصِّ بِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُتَوَسِّلًا بِهَذَا الْحَامِدِ

زبان کے ساتھ اور اپنے قول خاص کے ساتھ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وسیلہ پڑتے ہوئے ساتھ اس حامد

الْحَمْدِ الْمَحْمُودِ مُحَمَّدٍ أَنْ تَخْلُقَنِي بِأَخْلَاقِهِ لِسَانِيًا وَقَلْبِيًّا وَقُوَّةَ

حمد اور محمود و محمد کے کہ منصف فرمائے مجھے ان کے اخلاق عالیہ کے ساتھ از روئے زبان و قول اور قلب کے اور اخلاق قوت کے

الْأَخْلَاقِ ظَاهِرِيَّةٍ وَ بَاطِنِيَّةٍ وَ تَجْعَلَنِي حَسَنَ الْأَخْلَاقِ مَعَ اللَّهِ وَ

ظاہری ہو یا باطنی اور بنائے مجھے حسین اخلاق والا اپنے ساتھ اور اپنے

بِعِبَادِ اللَّهِ فِي عِبَادَتِكَ وَ عِبُودِيَّتِكَ وَ عِبُودَتِكَ وَ تَشَبَّهْتَنِي عَلَى طَرِيقَةِ

بندوں کے ساتھ اپنی عبادت اور اطاعت گزار اور خاص بندگی میں اور مجھے ثابت قدم رکھے خاص طریقہ

الْخَاصَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَ الْمَعْرِفَةِ التَّوْحِيدِيَّةِ الْكَامِلِيَّةِ

انسانی محمدی پر اور معرفت توحید پر جو کامل و اکمل اور



الْأَجْبَعِيَّةِ الْأَحَدِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ فِي الْعِلْمِ وَالْجَلْمِ وَالْأَخْلَاقِ صَلَّى

جامع ترین ہے اور یکتائے روزگار اور احمدی ہے علم و حلم اور اخلاق میں ، درود

اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ هُوَ الْوَسِيلَةُ وَالْفَضِيلَةُ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَى وَ

بھیجے اللہ تعالیٰ اس ذات اقدس پر جو کہ ہمارے لیے وسیلہ اور سرمایہ فضل و شرف ہیں دنیا میں اور آخرت میں

سَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُحْتَضِرِينَ

اور سلام بھیجے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محتضرون ہیں

بِمَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِّنْ رُّسُلِ اللَّهِ وَأَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَعِبَادِ اللَّهِ الصُّلَحَاءِ

ساتھ ایسے درجات و مراتب کے کہ نہیں پہنچا ان تک کوئی رسول اور نبی اور اللہ کے صلحاء

الْكَمَّلِ وَلَمْ يُدْرِكْهُ وَاحِدٌ مِّنَ الرُّوحَانِيَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ وَالْمَلَائِكَةِ

کامل ترین بندوں میں سے۔ اور نہ پایا انہیں کسی نے مقدس روحانیوں میں سے اور نہ ملائکہ

الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مقربین میں سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اتَّبَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ وَأَخْلَفْتَنِي بِحُسْنِ

اور آپ کی آل اور اصحاب پر اور نیامت تک ان کے متبعین پر اور مجھے نصف فرما ساتھ اچھے

الْخُلُقِ أَخْلَاقًا تَامًّا كَامِلًا شَامِلًا لِلظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَعَامًّا لِلصُّوَرِ

اخلاق کے جو تمام و کامل ہوں اور ظاہر و باطن کو شامل ہوں اور محیط ہوں صورتوں کو

وَالْمَعَانِي وَأَجْعَلْنِي لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَتَبَتَّنِي عَلَى طَلَبِ الطَّرِيقَةِ

اور معانی کو اور بنا مجھے متقین کا امام اور ثابت قدم رکھ مجھے محمدی طریقہ

الْمُحَمَّدِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْكَمَالُ وَفَوْقَ الْكَمَالِ وَأَوْصَلْنِي إِلَيْهَا بِحُرْمَتِهِ

کی طلب پر جو کہ سراسر کمال ہے اور ہر کمال سے فائق ہے اور واصل فرما مجھے اس طریقہ تک بطریق ان کی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً لَا تَرْتَمِلُهُ الْحِكْمُ وَ

عزت و حرمت کے درود بھیجے اللہ تعالیٰ ان پر اور سلام جو دائمی ہو اور دائمی اثرات والا ہو ، تمام حکمتوں کو محیط ہو اور



عَلَى كَافَّةِ الْخَلَائِقِ لَا سِيَّيَا أُمَّتِهِ خَيْرَ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور تمام مخلوقات پر علی الخصوص آپ کی امت پر جو تمام امتوں سے بہتر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلِّ الْكُلِّ وَقَبْلَ كُلِّ كَلْبِي الْكَلِّيَّاتِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کل الکل ہیں اور تمام کلیات کی کلی سے بھی پیسے ہیں

أَجْمَعِينَ وَعَلَى إِلِهِ الَّذِينَ لَهُمْ شَرَفٌ وَفَضْلٌ وَعَلَى كُلِّ آلٍ وَعَلَى

اور آپ کی آل پر کہ جن کے لیے شرف و فضل عظیم ہے اور ہر آل پر۔ اور آپ کے

أَصْحَابِهِ الَّذِينَ لَهُمْ شَرَفٌ عِنْدَ غَيْرِهِمْ مِّنْ أَصْحَابِ اللَّهِ عَطِيئِي

اصحاب کرام پر جن کو شرف عظیم حاصل ہے نسبت دیگر انبیاء علیہم السلام کے اصحاب کے۔ اے اللہ مجھے عطا

خُلُقًا عَظِيمًا حَسَنًا بِحُرْمَةٍ وَعِزَّةٍ وَعَظْمَةٍ وَيَوْمَ آثَةِ إِنَّكَ لَعَلِي

فرما عظیم و حسین خلق بظہیل حرمت و عزت اور عظمت و وراثت اپنے اس قول کے "بیشک تم غالب

خُلُقٍ عَظِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْمَحَبِّينَ وَخَيْرِ

ہو خلق عظیم پر" اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد کریم پر جو تمام محبوں سے افضل ہیں اور

الْمَحْبُوبِينَ وَخَيْرِ الزَّاهِدِينَ وَخَيْرِ الْعَابِدِينَ وَخَيْرِ الْعَارِفِينَ

تمام محبوبوں سے بھی افضل ہیں اور سب زاہدوں سے افضل اور سب عابدین اور تمام عارفین سے

وَخَيْرِ الْوَاصِلِينَ وَخَيْرِ الْكَامِلِينَ وَخَيْرِ الْبَكِيدِينَ وَخَيْرِ الصَّابِرِينَ

اور واصلین سے افضل ہیں تمام اہل کمال اور ارباب تکمیل سے افضل ہیں اور تمام صابریں

وَخَيْرِ الْقَانِعِينَ وَخَيْرِ الشَّاكِرِينَ وَخَيْرِ الْمَشَاهِدِينَ وَخَيْرِ الْمُرَاقِبِينَ

اور اہل قناعت سے افضل ہیں تمام شکر گزاروں سے افضل اور تمام اہل مشاہدہ اور اہل مراقبہ سے

وَخَيْرِ الْمُتَّقِينَ وَخَيْرِ أَهْلِ الرَّضَى وَالتَّسْلِيمِ وَخَيْرِ أَهْلِ الْوَرَعِ

بہتر و برتر ہیں اور تمام اہل تقویٰ اور ارباب تسلیم و رضا سے بہتر و برتر ہیں اور تمام پرہیزگاروں

وَخَيْرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَخَيْرِ أَهْلِ الْحِلْمِ وَخَيْرِ أَهْلِ الْعَقْلِ وَخَيْرِ

اور اہل علم اور اہل علم سے افضل و اعلیٰ ہیں اور تمام اہل عقل سے افضل اور تمام اہل محبت سے

أَهْلِ الْحَبِّ وَخَيْرِ أَهْلِ الْفَنَاءِ وَخَيْرِ أَهْلِ الْبَقَاءِ وَخَيْرِ أَهْلِ

برتر اور تمام فناء فی اللہ اور بقاء باللہ کے مراتب والوں سے افضل ہیں اور بہتر ہیں تمام اہل

الْمُكَاشَفَةِ وَخَيْرِ أَرْبَابِ الْبُعَايِنَةِ وَخَيْرِ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ وَخَيْرِ أَسْتَاذِ

کشف اور ارباب معائنہ سے اور افضل ہیں تمام سے تمام کائنات اور تمام زمانوں میں اور بہترین استاد ہیں

الْكُلِّ فِي الْكُلِّ وَخَيْرِ عَارِفِ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ وَخَيْرِ مُعَلِّمِ الْعُلُومِ الَّتِي لَا

تمام کے تمام اقوام و زمان میں - اور بہترین عارف ہیں تمام سے تمام میں اور بہترین معلم ہیں ان علوم کے جنہیں

يَعْلَمُهَا مَلَكٌ وَخَيْرِ مَتَبِعِ الْفَيُوضِ الْوُجُودِيَّةِ وَالشُّهُودِيَّةِ اللَّهُمَّ

کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا اور بہترین سرچشمہ ہیں وجودی اور شہودی فیوض کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ تَشْرُدْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتینا محمد پر اور آل محمد پر کہ جب آپ کا اونٹ بھاگ گیا

لَهُ الْبُعَيْرُ وَانْتَظَرَهُ حَبْسَتَهُ لَهُ بِخَطَامِهِ الشَّجَرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ نے اس کا انتظار کیا تو درخت نے اس کی مہار کے ذریعے اسے آپ کے لیے روک لیا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا وَضَعَتْ يَدَهُ بِطَعَامِ

فرما سیتینا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب نے اپنے ہاتھ مبارک کو پیالہ والے تھوڑے کھانے

الْجَفْنَةِ وَهُوَ قَلِيلٌ كَانَ النَّاسُ يَتَعَاقَبُونَ عَلَيْهِ إِلَى اللَّيْلِ اللَّهُمَّ

میں رکھا تو لوگ یکے بعد دیگرے اس سے رات تک کھاتے رہے (اور وہ ختم نہ ہوا)۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا آتَتْهُ

صلوات و سلام نازل فرما سیتینا محمد پر اور آل محمد پر جن کے پیاس حاضر ہوئی

الْبُعَيْرُ تَشَكُّوا الظِّمَاءَ وَضُرَّةَ أَسْرَواهَا مِنْ تَدْبِيرِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ

اونٹنی جبکہ شکایت کرتی تھی پیاس اور شدت و سختی کی تو آپ نے اس کو سیراب فرما دیا اسی کے پستانوں سے حالانکہ اس سے پہلے

لَهَا فِيهِ قَطْرَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُحَسِّنُ بِهَا أَخْلَاقَنَا وَ

ان میں قطرہ بھر دو وہ نہیں تھا۔ اے اللہ صلوات و رحمت نازل فرما محمد کریم پر جس صلوات کے طفیل ہمارے اخلاق کو حسین بنائے اور



زِدْ بِهَا أَرْزَاقَنَا وَتَوَسَّعْ بِهَا أَشْوَاقَنَا وَتَزَكِّ بِهَا أَعْمَالََنَا وَتَغْفِرْ بِهَا

ہمارے رزق بڑھائے اور ہمارے شوق و ذوق کو وسیع فرمائے اور ہمارے اعمال کو پاکیزہ بنائے اور ہمارے گناہوں کو بخشنے

ذُنُوبَنَا وَتَشْرَحْ بِهَا صُدُورَنَا وَتُطَهِّرْ بِهَا قُلُوبَنَا وَتَيْسِّرْ بِهَا أُمُورَنَا

اور ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے اور ہمارے دلوں کو پاک فرمائے اور ہمارے معاملات کو آسان فرمائے

وَتُرْوِحْ بِهَا أَرْوَاحَنَا وَتُقَدِّسْ بِهَا أَسْرَارَنَا وَتُنَزِّهْ بِهَا خَوَاطِرَنَا

اور ہماری روحوں کو راحت بخشنے اور پاکیزہ فرمائے ہمارے اندروں کو اور منزہ فرمائے ہمارے خیالات کو

وَأَفْكَارَنَا وَتُصَفِّيْ بِهَا كُدُورَاتِ مَا فِي أَسْرَارِنَا وَتُبَيِّنْ بِهَا بَصَرَنَا

اور افکار کو اور صاف فرمائے بطفیل اس کے وہ کدورتیں جو ہمارے باطنوں میں ہیں اور منور فرمائے ہماری بصیرتوں

وَأَبْصَارَنَا وَتُعَبِّرْ بِهَا أَوْطَانَنَا وَدِيَارَنَا وَتَشْفِيْ بِهَا مَرَضَانَا وَتَكْثِرْ

اور بصراتوں کو اور آباد فرمائے ہمارے وطنوں کو اور علاقوں کو اور شفا دے ہماری بیماریوں کو اور زیادہ فرمائے

بِهَاءِ أَمْصَارِنَا وَتَفْتَحْ بِهَا أَقْفَالَ قُلُوبِنَا بِنُورِ الْفَتْحِ الْمُبِينِ وَ

ہمارے شہروں کو اور کھولے بطفیل اس کے ہمارے دلوں کے تالے اپنی فتح مبین کے نور کے ساتھ اور

تَنْقِمْ لَنَا بِهَا طَهَارَةً ظَاهِرًا وَبَاطِنًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خاص کرے بطفیل اس کے ہماری ظاہری و باطنی طہارت کو۔ اے اللہ صلوات و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَاةً تُنَجِّنُنَا بِهَا مِنْ هَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَزَلْزَلِهِ وَتَعْبِهِ يَا وَدُودِيَا

جس صلوات کے بطفیل ہمیں سحابت دے قیامت کی ہولناکیوں سے اور اس کے زلزلوں اور مشقتوں سے اے ودود اے

جَوَادِيَا سَرِيعَ الرَّحْمَةِ صَلَاةً تَسْتَجِيبُ بِهَا دُعَائَنَا وَتَزَكِّيْ بِهَا نَفُوسَنَا

صاحب جوو و کرم۔ اے جلدی پہنچنے والی رحمت کے مالک ایسی صلوات بھیج جس کے بطفیل قبول فرمائے ہماری دعا کو اور پاک فرمائے

وَ تَحْيِيْ بِهَا قُلُوبَنَا وَ تَحِلُّ بِهَا الْعُقَدَ وَ تَفْرِجُ بِهَا الْكُرْبَ وَ بَجْرِيْ بِهَا

ہمارے نفوس کو اور زندہ فرمائے ہمارے قلوب کو اور کھولے اس کے بطفیل بندشیں اور دور کرے شدتیں اور جاری ہو بطفیل اس کے

لُطْفِكَ فِيْ أَمْرِيْ وَأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَ بَارِكْ لَنَا عَلَى الدَّوَامِ وَعَافِنَا

نیرا لطف و کرم میرے اور تمام اہل اسلام کے امور میں اور ہمیں برکت عطا فرما ہمیشہ کے لیے اور عافیت عطا فرما

وَاهْدِنَا وَامْدُدْنَا وَاجْعَلْنَا امْنِينَ وَيَسِّرْ لَنَا امُورَنَا مَعَ الرَّاحَةِ

اور ہدایت نصیب فرما اور دور فرما اور بنا ہمیں امن و طمانیت والے اور آسان فرما ہمارے لیے ہمارے امور کو

لِقُلُوبِنَا وَاَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَآخِرَتِنَا

جمع قلوب اور ابدان کی راحتوں کے اور دین و دنیا اور آخرت میں سلامت و عافیت کے

وَتَوَفَّنَا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاجْمَعْنَا مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ

اور ہمیں وفات دینا کتاب و سنت پر اور ہمیں ان کے ساتھ جمع فرمانا جنت میں بغیر

حِسَابٍ وَعَذَابٍ بَعِيْسٍ يَسْبِقُ وَاَنْتَ رَاحٍ عَنَّا غَيْرَ غَضَبَانَ وَ

حساب اور شدید عذاب کے جو سبقت لے جانے والا ہو دخول جنت سے در آنجا لیکر تو ہم سے راضی ہو غصبتناک اور

لَا تَتَكْرَبْنَا وَاخْتِمُ لَنَا مِنْكَ بِخَيْرٍ وَعَافِيَةً بِلَا مِحْنَةٍ اَجْمَعِينَ ط

نتدیر فرماتے ہمارے خلاف اور خاتمہ فرما ہمارا اپنی طرف سے خیر و عافیت کے ساتھ بغیر محنت و مشقت کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً تُزِيلُ بِهَا مَصَارِعَ الْهُمُومِ

اے اللہ صلوات و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل زائل فرمائے ہلاکتیں عمول اور

وَالْغُمُومِ وَالْاَحْزَانَ وَتُبَلِّغْ بِهَا الطَّالِبَ غَايَةَ مَا طَلَبَ اللَّهُمَّ صَلِّ

المول کی اور ملاحتوں کی اور پہنچائے بطیفیل اس کے اہل طلب کو ان کے غایت مطلوب تک۔ اے اللہ صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً تَكْتُبُ بِهَا السُّطُومَ وَتَشْرَحُ بِهَا الصُّدُورَ

و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل لکھے تو سطریں (ہمارے نامائے اعمال کی) اور کھولے ہمارے سینوں کو

وَتَهْوِنُ بِهَا الْأُمُومَ بِرَحْمَةٍ مِنْكَ يَا عَزِيزُ يَا غَفُورُ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آسان فرمائے تمام امور ساتھ اپنی رحمت کے اے عزیز۔ اے غفور۔ اے اللہ صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً تُصَفِّينَا بِهَا مِنْ كَدِّهَا شَوْبِ الطَّبِيعَةِ

و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ہمیں صاف فرمائے طبیعت انسانیہ کی

الْأَدْمِيَّةَ بِالسَّحْقِ وَالْمَحْقِ وَتَطْبِسُ بِهَا أَثَارَ الْغَيْرِيَّةِ مِنَّا

میل کچیل سے خوب رگڑا کر اور نابود فرما کر اور مٹا دے ہم سے بطیفیل اس کے غیریت کے آثار وجود کو

فِي غَيْبٍ غَيْبِ الْهُيُوبَةِ فَيَبْقَى الْكُلُّ لِذِخْرِ فِي الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَتَرْقِينَا

اپنی غیب الغیب ہو یہ وحقیقت میں پس رہ جائے سب کچھ واسطے حق تعالیٰ کے حق میں ساتھ حق کے اور ترقی بخشے ہیں

بِهَائِي مَعَارِجَ شُهُودٍ وَجُودٍ سَدْرِيهِمْ أَيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ

بطیفیل اس کے اس کے اس فرمان کے شہودی وجود درجات تک "عنقریب دکھلائیں گے ہم انہیں اپنی آیات آفاقہ اور انفسیہ

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ يَا رَبُّ يَا اللَّهُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

حتیٰ کہ عیاں ہو جانے گا ان پر کہ بیشک وہی ہے حق" اے رب۔ اے اللہ۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے موجد۔

يَا رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

اے بلند مراتب والے۔ نہیں معبود برحق مگر تو، تو پاک ہے۔ بیشک میں ظالمین میں سے تھا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً تُسْعِدُنَا بِهَا سَعَادَةً لَا شِقَاوَةَ

اے اللہ صلوات ورحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل ایسی سعادت بخشنے کہ جس کے بعد شقاوت نہ ہو

بَعْدَهَا وَتُغْنِينَا بِهَا غِنَى لَا فَاقَةَ بَعْدَهَا صَلَوَةً تَذْهَبُ بِهَا عَنَّا كُلَّ

اور ہمیں ایسی غنا بخشنے کہ جس کے بعد فاقہ نہ ہو، ایسی صلوات کہ جس کے طفیل اے جائے ہم سے ہر

هَيْمٍ وَغَمٍّ وَسَوْءٍ وَحُزْنٍ صَلَوَةً تَرْفَعُنَا بِهَا الدَّرَجَاتِ وَتَحْوِبُهَا

اندوہ اور غم اور شدت و سختی اور حزن و ملال ایسی صلوات کہ بلند فرمائے بطیفیل اس کے ہمارے درجات اور محبوب فرمائے

السَّيِّئَاتِ وَتَضَاعِفُ بِهَا الْحَسَنَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَعْلَى الْمَقَامَاتِ

ہمارے گناہ اور بڑھائے بطیفیل اس کے نیکیاں اور پہنچائے ہمیں اس کی بدولت اعلیٰ ترین مقام پر

بِحَوْلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمُعْجَزَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سیدنا محمد صاحب معجزات صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس اور پناہ میں

لِنَقُوسَ بِبَرَكَتِهِ بِلَدَائِدِ الْمَشَاهِدَاتِ وَالْمَنَاجَاتِ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

تا کہ ہم آپ کی برکت سے کامیاب ہو جائیں لذیذ ترین مشاہدہ اور مناجات کے حصول میں ساتھ ان کے جن برکتوں نے

عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

انعام فرمایا یعنی انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُحِلُّ بِهَا عُقْدَتِي وَتُقَرِّبُ بِهَا كُرْبَتِي وَ

ورحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جس صلوات کے طفیل کھولے عقدے اور دور فرمائے میری شدت و سختی اور

تُنْقِذُنِي بِهَا مِنْ وَّحَلَّتِي وَتَقِيلُ بِهَا عَثْرَتِي وَتَقْضِي بِهَا حَاجَاتِي

بچائے مجھے بطفیل اس کے کچھ میں لٹھڑنے سے اور درگزر فرمائے میری لغزش سے اور میری حاجتوں کو پورا کرے،

صَلَوةٌ أَدْخُلُ بِهَا رِيَاضَ الْمَطَالِبِ وَأَجْنِي بِهَا ثَمَرَ الْمَوَاهِبِ اللَّهُمَّ

ایسی صلوات کہ میں داخل ہو جاؤں اس کے طفیل مطالب کے باغات میں اور جن سکون بسبب اس کے عطیات و مواہب والے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ تُدْنِي بِهَا بَعِيدَنَا إِلَى الْحَضْرَاتِ

پہلے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر کہ قریب کرے بسبب اس کے ہم میں سے بعید کو اپنی ربانی بارگاہوں

الرَّبَّانِيَّةِ وَتَذْهَبُ بِهَا بِقَرِيْبِنَا إِلَى مَا لَا نَهَيَاةَ لَهُ مِنَ الْمَقَامَاتِ

کے اور لے جائے ہم میں سے قریب کو بے انتہاء احسن ترین مقام تک

الْأَحْسِنِيَّةِ فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَوةٌ تَنْشِرُ بِهَا الصُّدُورَ وَتَهَوِّنُ

پس صلوات و سلام نازل فرما ان پر جس صلوات کے طفیل سینے کشادہ ہو جائیں اور تمام امور

بِهَا الْأُمُورَ وَتَنْكَشِفُ بِهَا السُّوْمَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

سہل ہو جائیں اور پردے کھل جائیں اور سلام بھیج بہت زیادہ سلام تا قیام قیامت۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّكَ وَحَبِيبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِخْوَانِهِ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما اپنے نبی و حبیب سیدنا محمد پر اور آپ کے بھائیوں پر

وَأَلِهِ صَلَوةٌ وَسَلَامٌ مَا نَقْرَعُ بِهِمَا أَبْوَابَ جَنَانِكَ وَنَسْتَجِدُّ بِبِهِمَا

اور آل پر ایسی صلوات و سلام کہ کھٹکھٹائیں بطفیل ان کے تیری جنٹوں کے دروازے اور حاصل کر لیں بسبب ان کے

أَسْبَابَ رِضْوَانِكَ وَتُوَدِّي بِبِهِمَا بَعْضَ حَقِّهِ عَلَيْنَا بِفَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ

تیری رضامندی کے اسباب اور ادا فرمائے تو بطفیل ان کے کچھ حقوق واجبہ ان کے جو ہم پر ہیں اپنے فضل و احسان سے

أَمِينَ صَلَوةٌ أَنَالَ بِبَرَكَتِهَا التَّسْلِيمَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَأُدْرِكَ

آمین۔ ایسی صلوات کہ پاؤں اس کی برکت سے تسلیم و رضا تمام احوال میں اور پاؤں

بِرَّكَيْتِهَا الْإِخْلَاصَ فِي سَائِرِ الْأَعْمَالِ وَتُصَلِّحُ بِبِرَّكَيْتِهَا الْأَقْوَالَ وَ
بِطَفِيلِ اس کی برکت کے اخلاص تمام اعمال میں اور اصلاح فرمائے بطفیل اس کی برکت کے میرے اقوال

الْأَفْعَالَ وَأَحْفَظُ بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَأَعْصِمُ بِهَا مِنْ جَمِيعِ
افعال کی اور محفوظ رہوں بطفیل اس کے تمام برائیوں سے اور بچا رہا ہوں تمام

الشَّهَوَاتِ وَأُعَاذُ بِهَا مِنْ كُلِّ الْغَفَلَاتِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ لِسَانًا
خواہشات نفسانیہ سے اور پناہ دیا جاؤں بطفیل اس کے تمام غفلتوں سے۔ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے نیسے

رَطْبًا بِذِكْرِكَ وَقَلْبًا مُنْتَعِمًا بِشُكْرِكَ وَيَدَنَا هَيِّئْنَا لِيَتَنَا لَطَاعَتِكَ وَ
ذکر سے تروتازہ زبان کا اور تیرے شکر کی نعمت سے مشرف قلب کا اور تیری طاعت کیلئے آہستہ روش اور نرم خودیوں کا

أَعْطِنَا مَعَ ذَلِكَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَيَّ
اور اس کے ساتھ ساتھ عطا فرما ہمیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی بشر کے دل پر

قَلْبٌ كَلَّ بِشَرِّكَمَا أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبَمَا
کھٹکا جیسے کہ خبر دی اس کی تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ

عَلَّمْتَهُ يَعْلَمُكَ وَأَعْنَيْنَا بِمَا سَبَبْنَا وَاجْعَلْنَا سَبَبَ الْغِنَى لِأَوْلِيَائِكَ
سکھلایا تو نے انہیں اپنے علم سے اور غنی فرما ہمیں بغیر کسی سبب ظاہری کے اور ہمیں بنا کے سبب غنا کا اپنے

وَبَرِّئْنَا خَابِيَتَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ
دوستوں کے لیے اور برزخ و حجاب ان کے اور تیرے اعداء کے درمیان بیشک تو ہر شئی پر کامل قدرت والا ہے۔ اے اللہ

إِنَّا نَسْأَلُكَ إِيمَانًا دَائِمًا وَنَسْأَلُكَ قَلْبًا خَاشِعًا وَنَسْأَلُكَ عِلْمًا
ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں دائمی ایمان کا اور سوال کرتے ہیں خشوع والے دن کا۔ اور سوال کرتے ہیں

نَافِعًا وَنَسْأَلُكَ يَقِينًا صَادِقًا وَنَسْأَلُكَ دِينًا قَيِّمًا وَنَسْأَلُكَ
نفع دینے والے علم کا اور سوال کرتے ہیں سچے یقین کا اور سوال کرتے ہیں پائیدار دین کا اور سوال کرتے ہیں

الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَنَسْأَلُكَ تَهَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْأَلُكَ دَوَامَ
ہر مضمیت سے عافیت کا اور سوال کرتے ہیں تجھ سے کامل عافیت کا اور سوال کرتے ہیں تجھ سے

العَافِيَةِ وَتَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَتَسْأَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ اللَّهُمَّ

عافیت کے دوام کا اور سوال کرتے ہیں تجھ سے عافیت پر شکر کی ترفیق کا اور سوال کرتے ہیں تجھ سے لوگوں کے متفقہ کلمہ اللہ

إِنَّا نَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ الْكَامِلَةَ وَالْمَغْفِرَةَ الشَّامِلَةَ وَالْمَحَبَّةَ الْجَامِعَةَ

ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے کامل توبہ کا اور عام بخشش کا اور جامع محبت کا

وَالْخُلَّةَ الصَّرَافِيَةَ وَالْمَعْرِفَةَ الْوَاسِعَةَ وَالْأَنْوَارَ السَّاطِعَةَ وَالشَّفَاعَةَ

اور خالص دوستی کا اور وسیع معرفت کا اور غالب انوار کا اور پائیدار شفاعت کا

الْقَائِمَةَ وَالْحُجَّةَ الْبَالِغَةَ وَالذَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ وَفَكَ وَثَاقِنَا مِنَ الْمُعْصِيَةِ

اور محبت بالغہ کاملہ اور بلند درجہ کا اور چھڑا ہمیں معصیتوں کی قید سے

وَأَرْهِنَا مِنَ النِّعْمَةِ بِمَوَاهِبِ الْمِنَّةِ اللَّهُمَّ أَصْلِحْنَا وَاصْلِحْ بِنَا وَاهْدِنَا

اور گمروی رکھ ہمارے پاس یعنی نعمتوں سے منت و احسان کے عطیات۔ لے لے اللہ ہماری اصلاح فرما اور ہمارے ذریعے اصلاح فرما اور

وَاهْدِ بِنَا وَأَرْشِدْنَا وَأَرْشِدْ بِنَا وَأَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَابْتِغَاءَ تَبَاعَةٍ وَ

ہمیں ہدایت دے اور ہمارے ذریعے دوسروں کو ہدایت دے اور بھلائی کا راستہ ہمیں دکھا اور ہمارے ذریعے دوسروں کو دکھا اور دکھلا ہمیں حق صورت

أَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَأَرْزُقْنَا امْتِنَاعَهُ اللَّهُمَّ اقْطَعْ عَنَّا كُلَّ قَاطِعٍ

حق میں اور الگ فرما اس کی اتباع کا اور دکھلا ہمیں باطل صورت باطل میں اور ہمیں نصیب فرما اس سے باز رہنا۔ لے اللہ منقطع فرما ہم سے ہر وہ مانع

يَقْطَعُنَا عَنْكَ وَلَا تَقْطَعْنَا بِالْأَغْيَابِ عَنْكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

جو منقطع کرے ہیں تجھ سے اور نہ منقطع فرما ہمیں اپنی ذات سے اپنے غیروں کے ذریعے بطیفیل اپنی رحمت کے۔ لے سب سے

الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجَلَّةً وَأَوَّلَهُ وَ

زیادہ مہربان۔ لے اللہ بخش دے میرے تمام گناہ چھوٹے اور بڑے، پہلے اور

آخِرَهُ وَعَدْلَانِيَّتَهُ وَسِرَّةَ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا

پچھلے اور ظاہری و باطنی۔ لے اللہ اچھی فرما ہماری عاقبت کو تمام امور میں

وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اور ہمیں بچا دینیوی رسوائی اور اخروی عذاب سے۔ لے اللہ صلوات نازل فرما محمد کریم پر

صَلَاةً تَهْدِيَنَا بِهَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَجِيرُنَا بِهَا مِنْ عَذَابِ

جس صلوٰۃ کے طفیل ہمیں چلائے صراطِ مستقیم پر اور پناہ دے ہمیں دوزخ کے عذاب

الْجَحِيمِ وَتُنْعِمْنَا بِهَا جَنَّتِ الْفِرْدَوْسِ النَّعِيمِ وَتُخَلِّقُنَا بِهَا

سے اور نعمت عطا فرمائے جنتِ الفردوس کی ابدی نعمتوں والی اور ہمیں موصوفت فرمائے بطفیل اس کے

بِاخْلَاقِ الْحَسَنِ وَارْخُلَاصِ الْعَمِيمِ بِفَضْلِ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ اعْطِنِي

اچھے اخلاق کے ساتھ اور کامل اخلاص کے ساتھ بسبب اپنے فضلِ کریم کے ۔ اے اللہ مجھے عطا فرما

وَرِاثَةَ خُلُقِ عَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِنَّ

خلقِ عظیم کی وراثت ۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا ہے

أَوَّلَ مَا يَوْضَعُ فِي الْمِيزَانِ الْخُلُقُ الْحَسَنُ اللَّهُمَّ اعْطِنِي خُلُقًا

پہلی چیز جو میزان میں رکھی جائے گی ۔ وہ اچھا خلق ہے ۔ اے اللہ مجھے خلق

عَظِيمًا بِاخْلَاقِ اللَّهِ وَوَصْفًا كَرِيمًا بِأَوْصَافِ اللَّهِ وَحُسْنًا حَسَنًا

عظیم عطا فرما بطفیل اپنے اخلاق کے اور وصفِ کرامت بطفیل اپنے اوصاف کے اور حُسن و خوبی

مِنْ جَمِيعِ الْمَحَاسِنِ فِي رِضَا اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو تمام محاسن سے حسین ہو اپنی رضا میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يُتَجَلَّى بِحُسْنِ مَعَانِيهِ عَلَى

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب جلوہ گر ہوں گے بسبب حقائقِ باطنہ کے حسن کے

قُبَابِ الْفِرْدَوْسِ وَعُلُومِ مَبَانِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فردوس کے قبول پر اور مکاناتِ عالیہ پر ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يُتَادِمُ عِنْدَ ضَيْقِ الْخَلَائِقِ أَعْتِنَا يَا

اور آپ کی آل پر جس محبوب کو پکارا جائے گا وقتِ مخلوقات کی تنگی اور پریشانی کے ہماری فریاد کو پہنچائے

مَلَاذَ الْخَلَائِقِ كَالطَّارِقِ لِلطَّبَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ساری مخلوق کی جانے پناہ مانند راستہ بنانے والے کے واسطے اجتماع کے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَظَرَ بِنَظَارَتِهِ وَجْهَ الزَّمَانِ وَأُورِدَ

اور آل محمد پر جس محبوب کے نظارہ میں محبوبے زمانہ کا رخ اور جنہوں نے وارد فرمایا

مُورِدَ كَرَمِهِ الْقَاصِي وَالذَّانِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنے جو دو کرم کے گھاٹ میں ہر قریب و بعید کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَظَرَتْ عَيُونُ السَّعَادَةِ إِلَيْهِ وَنَالَ مِنَ

اور آل محمد پر کہ جس محبوب کی طرف مکی ہیں سعادت مندی کی نگاہیں اور جنہوں نے پالی

الْعِزِّ الدَّائِمِ مَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دائمی عزت اس قدر کہ اس پر زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَجَلَّى الدَّهْرُ وَجْهَهُ الطَّالِعُ وَذُلَّ جَوَادُ

اور آل محمد پر جس محبوب کے آفتاب جیسے روشن چہرے نے زمانے کو روشن کر دیا اور جن کیلئے فرمانبردار کیا

الْمُعَالِي فَا مَتَطَاهَا وَكَدَّرَ بِشِدَّتِهِ عَيْشَ أَعْدَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

گیا سر بلندوں کا پس وہ سوار ہو گئے اس پر اور مکدر فرما دیا اپنی شدت و قوت اعداء کی زندگیوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلَا عَلَىٰ فَنَنِ الْعَالِي

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب بلند و غالب ہوئے مختلف النوع مراتب عالیہ پر

وَتَبَوَّأَ دَرُوتَ الشَّرَفِ الرَّفِيعِ الْعَالِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

اور جنہوں نے مسکن بنایا بلند و بالا شرف کی چوٹی کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمَا شَرَفُهُ عَلَيَّ كُلِّ شَرَفٍ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ بلند ہوا اس محبوب کا فضل و شرف ہر بلند شرف پر

مَنْيْفٍ وَرَبِّي قَدْرُهُ عَلَيَّ كُلِّ ذِي قَدْرٍ شَرِيفٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اور بڑھ گیا ان کا قدر و فضل ہر شریف قدر والے پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَشْرَقَ نُورُهُ الشَّرِيفِ وَجْهَهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ روشن کر دیا ان کے نور شریف نے ان کے چہرہ مبارک



وَمُحِبَّاهُ وَكَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَنَوَّرَ مَرَاةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اور روئے نور کو اور تحریم وال بنا دیا ان کے چہرہ نور کو اور متور کیا ان کے منظر کو سارے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَزَيَّنَتْ بِهِ أَرْضُ الْحِجَازِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت مزین ہوئی سرزمین حجاز

وَفَانَتْ بِهِ مِنْ فَاثِرٍ وَتَرَّءِ عَلَى حُلَّةٍ فَخْرَةٍ قَرِيْشٍ كَالظَّرَائِرِ

اور کامیاب و کامران ہوئے ان کی بدولت جو کامیاب ہوئے اور آنکھ کی پتلی پھیر پھیر کر دیکھا ان کے فخر و ناز وال پوشاک کو قریش

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

نے مانند نقش و نگار کے سارے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کے لیے

خَفِقَ لَهُ الْعَرْشُ بِكَمَالِهِ وَعَظُمَ لَهَا وَطْئُهُ بِأَقْدَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جھوما عرش اعظم باوجود اپنے کمال و عظمت کے جبکہ آپ نے اسے پا مال کیا اپنے قدموں کے ساتھ۔ سارے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَصَدَهُ الْفَخْرُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کا قصد اور ارادہ کیا عظیم فخر نے

الْعَظِيمُ وَرَامَهُ وَنَوَّرَ اللَّهُ بِهِ أَكْنَانَ تَهَامَةَ وَدَامَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

اور متور کیا ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام کے نشیبوں کو اور دائمی بنا یا۔ سارے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

أَنَّ تُبَارِكَ لِي فِي سَمْعِي وَفِي بَصَرِي وَفِي رُوحِي وَفِي خَلْقِي وَفِي خَلْقِي

کہ برکت عطا فرما میرے کانوں اور آنکھوں میں اور روح و باطن اور صورت و سیرت میں

وَفِي أَهْلِي وَفِي مَالِي وَفِي مَحْيَايَ وَفِي مَمَاتِي وَفِي عَمَلِي وَأَسْأَلُكَ

اور میرے اہل و مال میں اور حیات و ممات اور عمل میں اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے

الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ أَمِينُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَغِنَا

جنت میں بلند درجات کا آمین۔ سارے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنی غنا کا اور اپنے مولیٰ

مَوْلَايَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ وَ

کی غنا کا اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل و رحمت کا کیونکہ ان کا مالک ان کا مالک نہیں مگر تو ہی اور

أَسْأَلُكَ مِنْ فُجَاءَةِ الْخَيْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ فِي الْقَضَاءِ وَنُزُلَ

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے فوری نیکو بھلائی کا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کامیابی کا تیری قضاء میں اور

الشُّهُدَاءِ وَعَيْشِ السُّعْدَاءِ وَمُرَافَقَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالتَّصَرُّعِ عَلَى الْأَعْدَاءِ

شہداء کی مہمانی کا اور سعادت مندوں والی گزران کا اور انبیاء علیہم السلام کی رفاقت کا اور اعداء پر نصرت کا

إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا تَجِيءُ بِهِ

بیشک تو ہی دعا کا سنتے والا ہے اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہر طرح کی خیر کا اور میں طلب کرتا ہوں تجھ سے اس کی

الرِّيَاحِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحَسْنَ الْخَلْقِ

خیر کا جو بارانی ہوائیں لاتی ہیں اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے صحت و پاکیزگی اور امانت و حسن خلق کا

وَعَهْدًا تُوفِّيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْبِعَادَ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَاحِدٌ

اور ایسے عہد و پیمان کا جسے پورا فرماتے ہوئے میرے ساتھ قیامت کے دن بیشک تو وعدہ کا خلاف نہیں کرتا اور میں گواہی دیتا ہوں

لَا شَرِيكَ لَكَ كَمَا شَهِدَ رَبُّنَا لِنَفْسِهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَأَشْهَدُ أَنَّ كُلَّ

کو وہ وحدہ لا شریک لہ ہے جیسے کہ شہادت دی ہمارے رب نے اپنی ذات کے لیے وحدانیت کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر

مَعْبُودٍ مِنْ دُونِ عَرْشِكَ إِلَى قَرَارِ الْأَرْضَيْنِ بَاطِلٌ سِوَى وَجْهِكَ

معبود تیرے عرش کے نیچے سے زمینوں کی قرار گاہ تک باطل ہے سوائے تیری

الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ رَغْبَتِي إِلَيْكَ وَاجْعَلْ غِنَايَ فِي صَدْرِي وَ

ذات کریم کے۔ اے اللہ پس مخصوص فرما میری رغبت کو اپنی طرف اور پیدا فرما میرا استغناء میرے سینہ میں اور

بَارِكْ لِي فِي مَارَاتِنِي وَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ رَبِّي يَا مَنْ أَظْهَرَ

میرے لیے برکت دے اس میں جو تو نے عطا فرمایا ہے مجھے اور مجھ سے قبول فرما۔ بیشک تو میرا پروردگار ہے ایک ہی نے

الْجَمِيلِ وَسَتَرَ عَلَيَّ الْقَبِيحَ يَا مَنْ لَا يُؤَاخِذُ بِالْجَرِيرَةِ وَلَا يَهْتِكُ

ظاہر فرمایا میرے جمیل کو اور چھپایا مجھ پر میرے قبیح عمل کو ایک ہی مواخذہ نہیں فرماتا جرم و گناہ پر (فوری طور پر) اور پردہ نہیں

السِّتْرِ يَا عَظِيمَ الْعَفْوِ يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ

پھاٹکا اے عظیم عفو والے، اے اچھی درگزر والے۔ اے وسیع مغفرت والے۔ اے کشادہ

الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى وَيَا مُنْتَهَى كُلِّ شَكْوَى وَ

ہاتھوں والے ساتھ رحمت کے، اے صاحب ہر سرگوشی کے اور اے منتہی ہر شکایت کے اور

يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ يَا عَظِيمَ الْمَنِّ يَا مُبْدِئَ النِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا

اے درگزر میں کرم سے کام لینے والے۔ اے عظیم احسان والے۔ اے نعمتوں کی ابتداء کرنے والے ان کی تقصیری سے قبل

يَا رَبَّنَا وَيَا سَيِّدَنَا وَيَا مَوْلَانَا وَيَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا اسْأَلُكَ يَا اللَّهُ أَنْ

اے ہمارے رب اور اے ہمارے سردار اور اے ہمارے مولیٰ اور اے ہماری رغبت کی غایت، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ کہ

لَا تَشْوِي خَلْقِي بِالتَّارِبِ اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِينَ يُكذِّبُونَ رُسُلَكَ

نہ بھونے میرے جنم کو ساتھ آگ کے۔ اے اللہ ہلاک فرما کافروں کو جو جھٹلاتے ہیں تیرے رسولوں کو

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ بِرَجْزِكَ وَعَذَابِكَ يَا إِلَهَ

اور روکتے ہیں تیرے راستے سے اور بنا ان پر اپنا طاعون اور عذاب اے

الْحَقِّ آمِينَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِي السَّحَابِ وَهَائِلِ

برحق مبعود آمین۔ اے اللہ نازل کرنے والے کتاب کے اور جاری کرنیوالے بادلوں کے اور ٹنکت دینے والے

الْأَحْزَابِ اهْزِمُهُمْ وَانصُرْنَا عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعُدُكَ فِي

شکر ہائے کفار کے انہیں ٹنکت دے اور ہماری مدد فرما ان کے خلاف۔ اے اللہ ہم بتاتے ہیں تجھے

نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُوبِهِمْ اللَّهُمَّ رَحْمَتِكَ أَرْجُو فَلَ

ان کفار کے مد مقابل اور پناہ طلب کرتے ہیں تیری ان کے شرور سے۔ اے اللہ میں تیری ہی رحمت کی امید کرتا ہوں پس نہ

تَكَلِّبْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

حوالے فرما مجھے میرے نفس کے آنکھ جھپکنے کی دیر اور اصلاح فرما میرے تمام احوال کی نہیں مبعود برحق مگر

أَنْتَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اسْتَعِيْثُ اللَّهُمَّ اقْذِفْ فِي قَلْبِي

تو ہی اے حئی اے قیوم تیری رحمت کے ساتھ ہی میں استغاثہ کرتا ہوں۔ اے اللہ ڈال دے میرے دل میں

رَجَائِكَ واقْطَعْ مَا جَاءَنِي عَنِ سِوَاكَ حَتَّى لَا أَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ

اپنی امید اور کاٹ دے میری امید اپنے ماسوا سے حتی کہ میں نہ امید کروں کسی سے تیرے علاوہ



اللَّهُمَّ وَمَا ضَعُفَتْ عَنْهُ قُوَّتِي وَقَصُرَتْ عَنْهُ عَمَلِي وَلَمْ تَنْتَه إِلَيْهِ

اے اللہ وہ یقین کہ جس سے ضعیف ہے میری قوت اور قاصر ہے اس سے میرا عمل اور نہیں پہنچی اس تک

رَغْبَتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْئَلَتِي وَلَمْ يَجِرْ عَلَي لِسَانِي مِمَّا أُعْطِيتَ أَحَدًا

میری رغبت اور نہیں پہنچی اس تک میرا سوال اور نہ جاری ہوا میری زبان پر جو تو نے عطا فرمائی کسی کو بھی

مَنْ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنَ الْيَقِينِ فَحَصِّلْنِي بِهِ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ

اولین و آخرین سے پس موجود فرما میرے لیے اے رب العالمین

اللَّهُمَّ نَوِّمُ بِالْعِلْمِ قَلْبِي وَاسْتَعْمِلْ بِطَاعَتِكَ بَدَنِي وَخَلِّصْ مِنْ

اے اللہ منور فرما علم کے ساتھ میرا دل اور عامل بنا اپنی طاعت کا میرے بدن کو اور خلاصی دے فتنوں سے

الْفِتَنِ سِرِّي وَأَشْغَلْ بِالْإِعْتِبَارِ فِكْرِي وَفِي شَرِّ وَسَاوِسِ

میرے باطن کو اور مشغول فرما ساتھ عبرت حاصل کرنے کے میرے فکر کو اور مجھے بچا شیطان و وساوس کے

الشَّيْطَانِ وَأَجِرْنِي مِنْهُ يَا رَحْمَنُ حَتَّى لَا يَكُونَ لِي عَلَى سُلْطَانٍ

کے شر سے اور مجھے بچا اس سے اے رحمن حتی کہ نہ اسے مجھ پر غلبہ و تسلط

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس خیر کی جسے تو جانتا ہے اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری اس شر سے

تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ وَأَنْتَ

جو تو جانتا ہے اور استغفار کرتا ہوں تجھ سے ہر اس شے سے جو تجھے معلوم ہے بیشک تو جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے اور نہ ہی

عَلَامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

تمام غیب کو اچھی طرح جانتے والا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَظَرَتْ عِيُونُ السَّعَادَةِ إِلَيْهِ وَاتَّحَفَهُ الْحَقُّ

آل اطہار پر کہ جس محبوب پر لگی ہیں سعادت کی نظریں اور تحفہ دیا انہیں حق تعالیٰ نے

مِنَ الْعِلْمِ الَّذِي مِمَّا لَدَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنے پاس سے علم لدنی کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَلْهَمَهُ اللَّهُ بِفَضْلِهِ لِمَا أَحَبَّهُ وَارْتَضَاهُ

اور آل محمد پر جس محبوب کو تو نے الہام فرمایا اپنے فضل سے اس امر کا محبوب بنایا اور تمہیں رضی فرمایا

أَنْ قَالَ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَةُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

یہاں تک کہ انہوں نے کہا تمام بابرکت تحفے، نمازیں، پاکیزہ کلمات حمد اللہ کے لیے ہیں۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَيَّاهُ مَوْلَاهُ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں تحفہ دیا ان کے مولیٰ نے

حَدَّثَ ذَاتَهُ وَصِفَاتُهُ بِقَوْلِ السَّلَامِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

جس کی ذات و صفات جلیل ہیں ساتھ اپنے اس قول کے "سلام ہو تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمت

وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اور برکات۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَنْسَ بِفَضْلِهِ إِخْوَانَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ قَالَ السَّلَامُ

پر کہ جو محبوب نہ بھولے اپنے فضل و کرم سے اپنے مومن بھائیوں کو حتیٰ کہ کہا سلام ہو

عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ قَرَّتْ أَعْيُنُهُمْ بِالصَّلَاةِ

ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر جن کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں نماز کی وجہ سے

فَصَارَتْ قُرَّةَ أَعْيُنِهِمْ فِيهَا وَبَلَغَ اللَّهُ أَنْفُسَهُمْ فِيهَا أَمَانِيهَا اللَّهُمَّ

پس ہو گئی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اسی میں اور پہنچایا اللہ تعالیٰ نے ان کے نفوس کو نماز میں اپنی آرزوں تک۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لَهُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل محمد پر جن سے کہا

جِبْرَائِيلُ سَلِّ رَبُّكَ فِي وَجْهِكَ أَنْ أَبْطَ جَنَاحِي عَلَى الصِّرَاطِ

جبریل امین نے کہ اپنے رب تعالیٰ سے سوال کرنا اپنی اس حاضری میں کہ میں پھیلاؤں اپنے پر کو بل صراط پر

يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجُوزُ عَلَيْهِ صِدْحَاءُ فَقَرَأَ أُمَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

قیامت کے دن کہ گزریں اس پر سے آپ کی امت کے صلحاء و فقراء۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَأَلَ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جنہوں نے اس سوال کیا اپنے رب عزوجل سے

ذَلِكَ فَأَعْطَاهُ وَبَلَّغَهُ فِي ذَلِكَ سُؤْلَهُ وَرِضَاةَ اللَّهِ مَصْلٌ وَسَلَّمٌ

اس کا پس اس نے عطا کیا انہیں اور پہنچایا انہیں اس بارے میں اپنے مطلوب اور مرضی تک۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَأَلَ رَبَّهُ مَا يَسْأَلُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جنہوں نے سوال کیا اپنے رب تعالیٰ سے جو سوال کرتے

الْمُحِبُّ مِنْ مَّحْبُوبِهِ فَبَلَّغَهُ فِي ذَلِكَ غَايَةَ مَطْلُوبِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ہیں محبین اپنے محبوبین سے پس پہنچایا انہیں اللہ نے مطلوب کی غایت تک۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَجَعَلَ لِقَائِهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب لوٹے اپنی امت کی طرف

يَسْأَلُ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ وَسَأَلَ فَبَلَّغَهُ اللَّهُ فِيهِ غَايَةَ الْأَمَلِ اللَّهُمَّ

اللہ کے پاس سے ان کی مرغوب شئی کے ساتھ اور اللہ سے سوال کیا پس اللہ نے انہیں پہنچایا امیدواروں کی انتہا تک۔

يَا رَجَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُخَيِّبْ رَجَاءَنَا وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ

اے اللہ اہل ایمان کی امید ورجاء ہماری امیدوں کو ناکام نہ فرما اور فریادوں کی فریاد کو پہنچنے والے

أَعْنَانَا وَيَا عَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْنَانَا وَيَا حَبِيبَ التَّوَّابِينَ تَبُّ

ہماری امداد و اعانت فرما اور مومنین کے معین و مددگار ہماری اعانت فرما اور اہل توبہ کے حبیب

عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِكَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ يَا مَالِكَ مَلُوكِ الْعَوَالِمِ كُلِّهَا

ہم پر نظر رحمت فرما اور اپنے اطاعت گزار بندوں پر۔ لے اللہ، لے جہان کے تمام بادشاہوں کے مالک

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ رَبِّ تَدَارَكْنَا

نہیں کوئی معبود برحق مگر تو، میں تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتا ہوں بیشک میں ظالمین سے تھا۔ لے اللہ ہمارا احاطہ فرما

بِرَحْمَتِكَ وَنَجِّنَا مِنَ الْغَمِّ يَا مُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ يَا

اپنی رحمت کے ساتھ اور ہمیں غم سے نجات عطا فرما لے مومنین کو نجات دینے والے اور دور فرما ہم سے جس پریشانی میں ہم پھنسے

غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اَعْتَنَّا اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَاَنْتَ رَبِّي اِلَى

فربادوں کی فریاد کو پہنچنے والے ہماری امداد فرما تو ضعیفوں، ناتوانوں کا رب ہے اور تو میرا رب ہے
مَنْ تَكَلَّمَنِي اِلَى عَبْدٍ يَتَجَهَّمَنِي اَمْرًا اِلَى عَدُوٍّ مَلَكَتْهُ اَمْرِي اِنْ لَمْ يَكُنْ
تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ ایسے بندے کے سپرد کرتا ہے جو مجھ پر تشدد و ظلم کرے یا ایسے دشمن کے جسے تو نے میرے

عَلَى غَضَبٍ مِّنْكَ فَلَا اَبَالَيْ وَلٰكِنْ عَافِيَتِكَ هِيَ اَوْسَعُ لِيْ رَاحَةٍ

امور کا مالک بنا دیا ہے۔ اگر مجھ پر تیرا غضب نہ ہو تو مجھے کوئی پروا نہیں لیکن تیری عافیت بہت وسیع ہے میرے لیے

فَلَا تَحْبِبْ دَعْوَتِيْ وَلَا تَرُدَّ مَسْئَلَتِيْ وَلَا تَدْعُنِيْ بِحَسْرَتِيْ وَلَا

پس نہ روک میری دعا کو اور نہ رد فرما میرے سوال کو اور نہ چھوڑ مجھے میری حسرت میں اور نہ

تَكَلَّمَنِيْ اِلَى حَوْلِيْ وَقُوَّتِيْ وَاَرْحَمَ عَجْزِيْ وَفَقْرِيْ وَفَاقَتِيْ وَاَجْبُرْ

سوچ مجھے میری قوت و طاقت کی طرف اور رُحِمِ میرے عجز و فقر اور فاقہ پر اور درست فرما

كُسْرِيْ وَذَلَّتِيْ وَحَالَتِيْ يَا ذَا الرَّحْمَةِ وَالْغُفْرَانِ يَا ذَا الْعُظْمَةِ وَ

میري شکست و ریخت اور ضعف و ناتوانی اور حالت کو اے رحمت و مغفرت والے۔ اے عظمت و

السُّلْطَانِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْبُرْهَانَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

تسلط والے۔ اے عزت و برہان والے، اے جلال و اکرام والے

وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا وَجُودًا بِفَضْلِكَ وَاِحْسَانِكَ

تو ہر چیز کو محیط ہے از روئے رحمت اور علم اور جود و نوال کے ساتھ اپنے فضل و احسان کے

عَلَيْنَا مَنَّةً وَجِلْمًا يَا مُحْسِنُ يَا مُجِبِّدُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ يَا

ہم پر از روئے منت اور حلم کے اے احسان والے۔ اے اچھا سلوک کرنے والے۔ اے انعام فرمانے والے۔ اے فضل و جود والے

ذَا التَّوَالٍ وَالنِّعَمِ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ يَا ذَا الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

اے عطا و انعام والے۔ اے جود و کرم والے۔ اے عرش عظیم والے

اللَّهُمَّ يَا رَجَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَخَيِّبْ رَجَائِيْ وَدُعَائِيْ اللَّهُمَّ يَا

اے اللہ! اے مومنین کی امید و رجاء نہ محروم التفات رکھ میری امید اور دعا کو۔ اے اللہ! اے



غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اَعْتَنِي اللَّهُمَّ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اِرْحَمْنِي

فریادوں کی فریاد کو پہنچنے والے میری امداد فرما۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین مجھ پر رحم فرما

اللَّهُمَّ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِينَ اَكْرِمْنِي اللَّهُمَّ يَا اَمَانَ الْخَائِفِينَ اَمِّئِنِّي

اے اللہ۔ اے سب عزت والوں سے زیادہ عزت والے مجھے عزت دے۔ اے اللہ اے خوفزدگان کی امان بچھ امن عطا فرما

اللَّهُمَّ يَا دَلِيلَ الْمُسْتَحِيرِينَ دُلِّنِي اللَّهُمَّ يَا هَادِيَ الْمَضِلِّينَ

اے اللہ۔ اے حیران لوگوں کے رہنما میری رہنمائی فرما۔ اے اللہ۔ اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے

اهْدِنِي اللَّهُمَّ يَا مُغْنِيَ الْمُقْدِلِينَ اَغْنِنِي اللَّهُمَّ يَا وَاوِلَّ

مجھے ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اے فقروں کو غنی کرنے والے مجھے غنی فرما۔ اے اللہ۔ اے ٹوٹے ہوؤں

الْمُنْقَطِعِينَ اَوْصِلْنِي اللَّهُمَّ يَا سُرُورَ الْعَابِدِينَ سُرِّرْنِي

کو جوڑنے والے مجھے بھی وصل عطا فرما۔ اے اللہ اے عبادت گزاروں کے سرور مجھے سرور عطا فرما

اللَّهُمَّ يَا عَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ اَعِنِّي اللَّهُمَّ يَا حَبِيبَ التَّوَابِينَ تَبِّ

اے اللہ۔ اے مومنین کے معاون میری اعانت فرما۔ اے اللہ اے اہل توبہ کے حبیب مجھ پر نگاہ رحمت

عَلَيْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ط اللَّهُمَّ اِنَّكَ طَالِبِي اِنْ اَنَا

فرما۔ بیشک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمائے والا ہے اے اللہ تو مجھے طلب کرنے والا ہے اگر میں

هَرَبْتُ وَمُدْرِكِي اِنْ اَنَا فَدَرَسْتُ فَهَآ اَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ خَاصِعٌ

بھاگوں اور پالینے والا ہے اگر مغرور بنوں تو ہاں میں تیرے حضور حاضر ہوں عاجز

ذَلِيلٌ رَاغِمٌ اِنْ تُعَذِّبْنِي فَاِنِّي لِنَذَلِكْ اَهْلٌ وَهُوَ يَا رَبِّ مِنْكَ

و حقیر ہوں ناک رگڑانے والا ہوں، اگر تو مجھے عذاب دے تو بیشک میں اس کا حقدار ہوں اور وہ اے میرے رب تیری طرف

عَدَلٌ وَاِنْ تَعْفُ عَنِّي فَقَدِيهَا شَمَلْتَنِي عَفْوُكَ وَابْسَلْتَنِي عَافِيَتَكَ

سے سراسر عدل ہے اور اگر تو مجھ سے عفو و درگزر فرمائے تو قدیم ایام سے تیری عفو میرے شامل حال رہی ہے اور تو نے مجھے اپنا لباس عافیت

فَاَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْمَحْزُونِ مِنْ اَسْمَائِكَ وَبِمَا وَاَرْتَهُ الْحُجْبُ مِنْ

پہنا ہے تو میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ ساتھ تیرے پوشیدہ نام کے اور پردوں میں چھپی تیری نورانیت کے،

بِهَاتِكَ إِلَّا تَرْحَمْ هَذِهِ النَّفْسَ الْجَزُوعَةَ وَهَذِهِ الرُّمَّةَ الْهَلُوعَةَ

کیا رحم نہیں فرمائے گا تو اس بیصبر نفس پر اور اس حریص و لالچی خالی مجسمہ پر

الَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ حَرَّ شَيْسِكَ فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ حَرَّ نَارِكَ وَالَّتِي لَا

جو نہیں طاقت رکھتا تیرے آفتاب کی تپش کی تو کیسے تاب لائے گا تیری آتش دوزخ کی حرارت کی اور جو

تَسْتَطِيعُ صَوْتَ رَعْدِكَ فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ صَوْتَ غَضَبِكَ فَا رَحْمَنِي

نہیں تاب لاسکتا تیرے بادلوں کی گرج کی تو کس طرح تاب لائے گا تیری غضب والی آواز کی - پس مجھ پر رحم فرما

اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَمْرٌ حَقِيرٌ وَخَطِرٌ يُسِيرٌ وَلَيْسَ عَدَايُ مِمَّا يَزِيدُ

اے اللہ کیونکہ میں حقیر آدمی ہوں اور میری حیثیت معمولی ہے اور مجھے عذاب دینا نہیں اضافہ کرے گا

فِي مُلْكِكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَلَوْ أَنَّ عَدَايُ مِمَّا يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ

تیرے ملک و سلطنت میں ذرہ بھر اور اگر میرا عذاب تیرے ملک میں کچھ بھی اضافہ کرنا

لَسَأَلْتُكَ الصَّبْرَ وَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَكَ وَلَكِنْ سُلْطَانِكَ

تو البتہ میں تجھ سے صبر کا مطالبہ کرتا اور پسند کرتا کہ یہ اضافہ ترقی تجھے حاصل ہو لیکن تیری سلطنت اور علیہ

لَكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْظَمُ وَمُلْكُكَ أَدْوَمُ أَنْ تَزِيدَ فِيهِ طَاعَةَ

ہمیشہ کے لیے ہے۔ اے اللہ تو عظیم تر ہے اور تیرا ملک دائمی ہے، مزہ ہے اس سے کہ اس میں ترقی پیدا کرے اہل

الْمُطِيعِينَ أَوْ تَنْقُصَ مِنْهُ مَعْصِيَةُ الْمُنْذَرِينَ وَارْحَمْنِي وَتَجَاوَزْ

طاعت کی طاعت یا نقصان پیدا کرے گناہگاروں کی معصیت اور مجھ پر رحم فرما اور درگزر

عَنِّي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا عَظِيمَ الْمَنِّ يَا مُبْدِي النِّعَمِ قَبْلَ

فرما اے جلال و اکرام والے، اے عظیم احسان والے اے عطا کرنے والے نعمتوں کے اپنی طرف سے پہل کرنے

اسْتِحْقَاقِهَا يَا رَبَّنَا وَيَا سَيِّدَنَا وَيَا مَوْلَانَا وَيَا غَايَةَ رَاغِبَتِنَا

ہوئے بغیر ان کے استحقاق کے، اے ہمارے رب۔ اے ہمارے آقا، اے مولیٰ۔ اے ہمارے منتہائے رغبت

أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ أَنْ لَا تَشْوِي خَلْقِي بِالنَّارِ تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ

میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ نہ جلانے مجھے ساتھ آگ کے۔ تیرا نور کامل ہوا پس تو نے ہدایت دی

فَلَكَ الْحَمْدُ عَظْمَ حُلْمِكَ فَعَفَوْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ بَسَطْتَ يَدَكَ

پس تیرے لیے حمد ہے۔ تیرا علم عظیم ہوا پس تو نے درگزر فرمائی پس تو ہی لائق حمد ہے، تو نے اپنا دست کرم پھیلا یا

فَأَعْطَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا وَجْهَكَ أَكْرَمُ الْوُجُوهِ وَجَاهُكَ أَعْظَمُ

پس عطا کیا۔ پس تو ہی مستحق حمد ہے۔ اے ہمارے چہرہ سب چہروں سے عزت والا ہے اور تیری عزت و جاہ تمام عزت و جاہ سے عظیم تر

الْجَاهُ وَعَظِيمَتِكَ أَفْضَلُ الْعَطِيَّةِ وَأَهْنَأُ نَهَاتُ طَاعٍ رَبَّنَا فَتَشْكُرُ

ہے اور تیرا عطیہ تمام عطیات سے افضل اور جو ننگوار ہے، اے رب ہمارے تیری اطاعت کی جاتی پس تو جزا دیتا ہے

وَتُعْطَى رَبَّنَا فَتَغْفِرُ وَتَجِيبُ الْمُضْطَرَّ وَتَكْشِفُ الضَّرَّ وَتَشْفِي

اور نافرمانی کی جاتی ہے پس بخش دیتا ہے تو پریشان حال کی دعا قبول فرماتا ہے اور ضرر دور کرتا ہے، بیمار کو شفا دیتا

السَّقِيمَ وَتَغْفِرُ الذَّنْبَ وَتَقْبِلُ التَّوْبَةَ وَلَا يَجْزِي بِأَلَائِكَ أَحَدٌ

ہے اور گناہ بخشتا ہے تو پر قبول کرتا ہے اور نہیں بدلہ دے سکتا تیری نعمتوں کا کوئی شخص

وَلَا يَبْلُغُ مَدْحَتِكَ قَوْلٌ قَائِلٍ فَاغْفِرْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا

اور نہیں پہنچتا تیری مدحت کو کسی کا قول و بیان پس تو بخش۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے ایمان کا

لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةً نَبِيِّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جو نہ بدلے اور نعمتوں کا جو ختم نہ ہوں اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْدِ فِي بُحْبُوحَةِ الْجَنَّةِ

و سلم کی رفاقت کا جنت کے اعلیٰ درجات میں، جنت خلد میں جو تمام جنتوں کے وسط میں ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي تَوَسَّلْتُ إِلَيْكَ بِمَنْ سِوَاكَ فَأَنْتَ الْوَسِيلَةُ فِي

اے اللہ میں نے تیری طرف وسیلہ بنایا تیرے ماسوا کو پس تو ہی وسیلہ ہے

الْحَقِيقَةِ فَإِنَّ مَنْ سِوَاكَ لَمْ يَطْهَرِيهِ صِفَاتِكَ حَقِيقَةً بِأَنَّ

حقیقت میں کیونکہ تیرا ماسوا بسبب تیرا مظہر صفات ہونے کے اس لائق ہے

يُتَوَسَّلُ بِهِ فَأَنْتَ السَّائِلُ وَأَنْتَ الْمَسْئُولُ وَأَنْتَ الْوَسِيلَةُ

کہ اس سے توسل کیا جائے پس تو ہی سوال کرنے والا ہے اور تو ہی سوال کیا ہوا ہے اور تو ہی وسیلہ ہے

فَاقْضِ حَاجَتِي الَّتِي تَعْلَمُهَا بِحُرْمَةِ سِرِّكَ الَّذِي يَبْنِيكَ وَيَبْنِي

پس پوری فرما میری حاجت جسے تو جانتا ہے بطیفہ حرمت اپنے اس مخفی راز کے جو تیرے اور تیرے

حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ الَّذِي الْإِشَارَاتُ وَالْكِنَايَاتُ وَالصَّرَاحَاتُ هُوَ عَيْنُ

حبیب محمد کے درمیان ہے جب کہ اشارات و کنایات اور تصریحات بعینہ

مَقْصُودِ الْحُبِّ وَحُبِّ الْمَقْصُودِ عَيْنٌ وَلِمَقْصُودِ عَيْنِ الْحُبِّ عَيْنٌ

مقصود محبت ہیں اور حب مقصود و مطمح نظر ہے۔ اور واسطے نگاہ محبت کے مطلوب و مقصود کے وجود حقیقت

وَهُوَ عَيْنٌ وَعَيْنُ الْعَيْنِ عَيْنٌ وَعَلَى مُحَمَّدٍ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمَاتُ وَ

ہے اور وہی حقیقت ہے اور حقیقت کی حقیقت و تحقق برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و تسلیات اور

الْبَرَكَاتُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ وَبَعْدَ كُلِّ أَحَدٍ وَمَعَ كُلِّ أَحَدٍ صَلَاةٌ لَهَا أَهْلِيَّةٌ

برکات نازل فرما ہر ایک سے پہلے، ہر ایک کے بعد اور ہر ایک کے ساتھ ایسی صلوات جس کے وہ

كَامِلَةٌ تَامَةٌ بِجَسْمِهِ وَسُرُوحِهِ وَقَلْبِهِ وَجَمِيعِ لَطَائِفِهِ وَحَقَائِقِهِ

کامل مقدار ہیں اپنے جسم و روح اور قلب اور تمام لطائف و حقائق کے ساتھ

أَحْفَى الْعِبَادَاتِ أَزْكَى الْأَرَادَاتِ أَمْرًا لِإِشَادَاتِ نَاهِي الْمُنْهِيَّاتِ

در آنجا لیکہ عبادات میں بہت مشقت اٹھانے والے، بہت پاکیزہ ارادوں والے، ارشادات عالیہ کا حکم دینے والے اور ممنوعیت کے لائق ایشائے نوح

اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا شَاهِدَ إِلَّا أَنْتَ صَلَوَاتُكَ وَتَسْلِيمَاتُكَ وَتَعْظِيمَاتُكَ

کرنے والے ہیں۔ اے اللہ اے کہ نہیں شاہد مگر تو ہی، تیری صلوات و تسلیات اور تعظیمات

وَتَكْرِيمَاتُكَ وَتَمْجِيدَاتُكَ وَمُكَارِمَاتُكَ عَلَى مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ

و تکریمات اور بزرگیوں اور برتریوں کی عطائیں اور کرمنازیاں ہوں اپنے حبیب محمد پر

الَّذِي مَا أَحْبَبْتَ أَحَدًا إِلَّا ابْتِوَاسِطِ حُبِّهِ إِيَّاهُ فَإِنَّهُ الْمَحْبُوبُ

کہ نہیں محبوب بنایا تو نے کسی کو مگر بوجہ محبت رکھنے اس کے تیرے حبیب کے ساتھ کیونکہ وہی محبوب

الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ مِنَ الْمَحْبُوبِينَ وَالْمَطْلُوبُ الْأَصْلِيُّ مِنَ الْمَطْلُوبِينَ

مراد و مقصود ہیں تجھے تمام محبوبین اور مطلوب اصل ہیں تمام مطلوبین سے

عَلَى وَجْهِهِ لَا يَبْقَى لِي أَوْ لِأَحَدٍ غَيْرِي مَطْنَةٌ فِي اسْتِقَامَةٍ مَحْبُوبِيَّتِهِ

ایسی وجہ پر کہ نہ باقی رہے میرے لیے اور نہ کسی دوسرے شخص کے لیے جگہ گمان کی ان کی محبوبیت کے راست اور راسخ ہونے میں

يَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَهْرَ الْمُبِيرَ وَيَا عَصَةَ الْبَائِسِ الْخَالِفِ الْمُسْتَجِيرَ وَ

اے خالق آفتاب کے اور روشن باندگے اور شترت و سختی میں مبتلا خوفزدہ طالب پناہ کی عصمت و پناہ اور

يَا ذَرَقَ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ وَيَا جَابِرَ الْعُظْمِ الْكَسِيرِ أَدْعُوكَ دُعَاءَ الْبَائِسِ

اے رزق دینے والے چھوٹے بچے کو اور اے جوڑنے والے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے میں تجھ سے دعا کرتا مانند دعا مغنیوں میں گھرے

الْفَقِيرِ كَدُعَاءِ الْمُضْطَرِّ الضَّرِيرِ أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَ

ہوئے فقیر کے، مانند پریشان حال نابینا کی دعا کے، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطریق عز و شرف والی نشست گاہوں کے تیرے عرش

بِمَفَاتِيحِ الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِالْأَسْمَاءِ الثَّمَانِيَةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى قَرْنِ

سے اور بطفیل رحمت کی چابیوں کے تیری کتاب سے اور بطفیل تیرے آٹھ اسماء کے جو لکھے ہوئے ہیں سورج کے

الشَّمْسِ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ مَرْبِيعَ قَلْبِي وَجَلَاءَ حُزْنِي رَبَّنَا إِنِّي فِي الدُّنْيَا

کنارے پر کہ بنائے تو قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار اور رونق اور میرے حزن و ملال کی دوری کا موجب۔ اے رب ہمارے

يَا مُؤْنِسَ كُلِّ وَجِيدٍ وَيَا صَاحِبَ كُلِّ فَرِيدٍ وَغَرِيبٍ وَيَا قَرِيبًا غَيْرَ

دے ہیں دنیا میں، اے مؤنس پر تنہا کے اور ساتھی ہر ایک کے اور مسافر کے اور اے قریب ترین جو بالکل

بَعِيدٍ وَيَا شَاهِدًا غَيْرَ غَائِبٍ وَيَا غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوبٍ هَيْئِي لِي مِنْ أَمْرِي

دور نہیں۔ اے حاضر و موجود جو بالکل غائب نہیں اے غالب جو مغلوب نہیں ہو سکتا تیار فرما میرے لیے میرے امر سے

رَشْدًا يَا رَشِيدًا وَيَا نُورَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَا زَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

بھلائی۔ اے رشید اور روشن کرنے والے آسمانوں اور زمین کے اور اے زینت آسمانوں کی اور زمین کی

يَا جَبَّارَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا عِمَادَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ

اے غالب آسمانوں اور زمینوں پر۔ اے سہارے اور فروغ دہ قیام آسمانوں اور زمینوں کے اے موجد آسمانوں اور

وَالْأَرْضِ يَا قَيِّمَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَدِّ وَمِنْكَ الْجَدُّ يَا صَرِيحَ

زمینوں کے۔ اے قائم رکھنے والے آسمانوں اور زمینوں کے اے بزرگی والے اور تجھی سے ہے ہر ایک کی بزرگی اے حاجت روا

الْمُسْتَصْرِحِينَ وَمُنْتَهَى الْعَائِدِينَ وَالْمَفْرَجِ عَنِ الْمَكْرُوبِينَ وَ

فرباوتوں اور منتہا و غایت پناہ لینے والوں کی اور دور کرنے والے شہائد کے اندر ہناک لوگوں سے اور

الْمُرَوِّحِ عَنِ الْمَغْمُومِينَ وَمُجِيبِ دُعَاءِ الْمَضْطَرِّينَ وَيَا كَاشِفَ

تخفیف کرنے والے غمزدگان سے اور قبول کرنے والے دعا مجبوروں کی اور اے دور کرنے والے

الْكُرْبِ يَا إِلَهَ الْأَوْلِيَيْنَ وَالْآخِرِينَ مَنْزُولٌ بِكَ كُلِّ حَاجَةٍ فِي

شہائد کے۔ اے محبوب اولیوں و آخرین کے، تیرے حضور ہی پیش کی جاتی ہے دونوں جہان کی

الدَّارَيْنِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

ہر حالت۔ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے واحد لا شریک لہ ہے

تُجْبِرُ الْكَسِيرَ وَتُغْنِي الْفَقِيرَ وَتَرْحَمُ الضَّعِيفَ وَتُغِيثُ اللَّهِيْفَ

دور کرتا ہے تنہائی شکتہ خاطر لوں کی اور غنی کرتا ہے فقیر کو اور رحم فرماتا ہے ناتواں پر اور امداد فرماتا ہے افسردگی اور حسرت والوں کی

وَتَضَعُ وَتَرْفَعُ وَتُصَلِّ وَتَقْطَعُ وَتُجِيرُ وَلَا يَجَارُ عَلَيْكَ وَتَعَزُّ مَنْ

اور سست کرتا ہے اور بلند فرماتا ہے اور وصل بچھتا ہے اور جدا کرتا ہے اور پناہ دیتا ہے اور نہیں کوئی پناہ دیا جاسکتا تیرے خلاف

تَذَلُّ بَيْنَ يَدَيْكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي فِي مَا أَنَا فِيهِ

اور تو عزت دیتا ہے اسے جو تیرے حضور عجز و نیاز سے کام لے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا کہ تو بنائے خلاصی

فَرَجًا وَمُخْرَجًا يَا جَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ وَيَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ يَا عِبَادَ

اور نکلنے کی جگہ میرے لیے اس مشکل سے جس میں میں مبتلا ہوں اے پناہ دینے والے طالبان پناہ کو اور امان خوفزدگان کی

مَنْ لَا عِبَادَ لَهُ يَا سَدَّ مَنْ لَا سَدَّ لَهُ يَا ذُخْرَ مَنْ لَا ذُخْرَ لَهُ يَا حُرَّ

اور بے سماروں کے سمارے اور بے دلیل و حجت ان کی جن کے لیے کوئی حجت و سند نہیں اور اے ذخیرے بے ذخیرہ لوگوں کے۔ اے

الضُّعْفَاءِ يَا كُنْزَ الْفُقَرَاءِ يَا عَظِيمَ الرَّجَاءِ يَا مُنْقِذَ الْهَلْكَى يَا مُنْجِي

مکزوروں کی پناہ اور فقراء کے خزانہ۔ اے عظیم امیدوں کے مرکز۔ اے بچانے والے اہل ہلاکت کے، اے نجات دینے والے

الْعَرْفَى يَا مُحْسِنٌ يَا مَجْبِلٌ يَا مُنْعَمٌ يَا مُفْضِلٌ يَا جَبَّارٌ يَا مُنِيرٌ

اہل عرفی کے۔ اے محسن۔ اے سب کو جمیل بنانے والے۔ اے منعم و محسن۔ اے فضیلت دینے والے۔ اے جبار۔ اے روشن کرنے والے

أَنْتَ الَّذِي سَجَدَ لَكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَضَوْءُ النَّهَارِ وَشُعَاعُ الشَّمْسِ وَ

تو ہی ہے جسے سجدہ کیا رات کی تاریکی اور دن کی روشنی نے سورج کی شعاع اور

نُورُ الْقَمَرِ وَخَفِيقُ الشَّجَرِ وَذَوِيُّ الْمَاءِ يَا اللَّهُ أَنْتَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ

چاند کے نور نے اور درختوں کے لہانے کی آواز اور پانی کی روانی والی آواز نے اے اللہ تو ہی اللہ ہے نہیں کوئی شریک

لَكَ يَا عِبَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ يَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ يَا ذُخْرَ مَنْ لَا

تیرے لیے۔ اے بے سہاروں کے سہارے۔ اے بے آسروں کے آسے۔ اے بے ذخیروں یعنی نفیروں کے

ذُخْرَ لَهُ يَا جَابِرَ كُلِّ كَسِيرٍ يَا صَاحِبَ كُلِّ غَرِيبٍ يَا مُؤْنِسَ كُلِّ

ذخیرہ و خزانہ۔ اے شکستہ خاطر لوں کی شکستگی دور کرنے والے، اے ہر غریب الوطن کے ساتھی، اے ہر

وَحِيدٍ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ أَنْتَ وَرَبِّي

تنہا کے مؤنس۔ نہیں معبود برحق مگر تو۔ میں تیری سبیح کرتا ہوں۔ بیشک میں ظالمین میں سے تھا، تو ہی میرا ولی ہے

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوْفَنِي مُسْلِمًا وَالحَقِّقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَأَصْلِحْ

دنیا و آخرت میں۔ مجھے وفات دے حالت اسلام میں اور لاحق فرما صالحین کے ساتھ اور اصلاح فرما

لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

میری خاطر میری اولاد کی، میں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور میں اطاعت گزاروں سے ہوں۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْأَنْوَاجِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو پاک ازواج والے

الظَّاهِرَاتِ وَالْعُلُوِّ عَلَى الدَّرَجَاتِ وَالزَّمْزَمِ وَالْمَقَامِ وَالْمَشْعَرِ

ہیں اور درجات عالیہ اور زمزم و مقام اور مشعر

الْحَرَامِ وَاجْتَنَابِ الْأَنْثَامِ وَتَرْبِيَةِ الْآيَاتِ وَالْحِجِّ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ

حرام والے ہیں اور گناہوں سے بچنے والے۔ یتیموں کی تربیت کرنے والے اور حج اور تلاوت قرآن

وَتَسْبِيحِ الرَّحْمَنِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَاللَّوَاءِ الْمَعْقُودِ وَالْكَرْمِ وَ

اور تسبیح رحمن اور صیام رمضان والے اور تیار لوہے والے۔ صاحب جرود کرم

الْجُودُ وَالْوَفَاءُ بِالْعُهُودِ صَاحِبُ الرَّغْبَةِ وَالرَّغِيبِ وَالْبَغْلَةَ

اور وعدوں ، بیمانوں کو نبھانے والے - خود حق کی طرف راغب ہیں اور دوسروں کو ترغیب دینے والے اور بھروسہ

وَالنَّجِيبِ وَالْحَوْضِ وَالْقَضِيبِ صَاحِبُ الْوَجْهِ الْجَمِيلِ وَ

اور عمدہ گھوڑوں والے اور صاحب حوض اور صاحب حوض اور صاحب عصا ہیں خوبصورت چہرہ والے اور

الطَّرْفِ الْكَحِيلِ وَالْخَدَّ الْأَسِيلِ وَالْكُوْثِرَ وَالسَّلْسَبِيلِ صَاحِبُ

سرگمین آنکھ والے اور نرم و ملائم زحمار والے اور صاحب کوثر و سلسبیل صاحب

جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاحِبُ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ وَالْبَهْجَةِ وَالْكَامِلِ

جبریل علیہ السلام ، صاحب حسن و جمال اور مالک نرانیّت و کمال

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي مِنْ نَرْمَانِي هَذَا وَارْحِدْ اِقِ الْفِتْنِ وَتَطَاوُلِ اَهْلِ

اے اللہ مجھ پر رحم فرما میرے اس (اہل) زمانہ سے اور فتنوں کے احاطہ سے اور

الْجُرَاةِ عَلَيَّ وَارْتَضِعَا فَرِهِمُ اِيَّايَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

جبری لوگوں کے مجھ پر ظلم اور دست درازی سے اور ان کے مجھے ضعیف و ناتواں سمجھنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّرَفِ وَالْمَجْدِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ شرف اور بزرگی کے مالک ہیں۔ اے اللہ

اجْعَلْنِي مِنْكَ فِي عِيَادِ مَنِيْعٍ وَحِزْنِ حَصِيْنٍ مِنْ جَمِيْعِ خَلْقِكَ

بنا مجھے اپنی طرف سے ناقابل تسخیر قلعہ میں اور مضبوط پناہ گاہ میں اپنی تمام مخلوق سے

حَتَّى تُبَلِّغَنِي اَجَلِي مُعَافَا اللَّهُمَّ اَنْتَ الْمَصُوْرُ لِلْاَشْكَالِ وَشَكْلُ

حتی کہ پہنچائے تو مجھے میری اجل تک حالت عافیت میں۔ اے اللہ تو ہی اشکال کی صورت نگری کرنے والا ہے اور نوعی

دَقَائِقُ بَدَائِعِ الْاَشْكَالِ وَمُخْتَلِفُ تَصْوِيْرِ الْمَثَالِ وَالْمُخْتَرِعُ

شکلیں موجود کرنے والا ہے اور مجسموں کی مختلف تصاویر پیدا کرنے والا ہے اور ایجاد کرنے والا ہے

تَصَاوِيْرَهَا وَتَرَ اَكْبِيْهَا اَسْأَلُكَ يَا مُبْدِعَ مَثَالِهَا وَمُصَوِّرَ الصُّوْرِ

ان کی تصویروں اور ترکیبوں کا میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے موجدان کی مثالوں اور مجسموں کے آفرینش گری کرنے والے صورتوں

الْعُلُوِّيَّةِ بِأَشْكَالِهَا وَحَقَائِقِهَا مِنْ الْمَلِيحِ وَالْقَبِيحِ وَالْجَمِيلِ وَ

کی بیچ ان کی شکلوں اور حقائق کے پرکشش ہوں یا بد صورت یا حسین و جمیل اور

الْكُلِّ مِنْ فِعْلِكَ أَنْتَ مُبْدِعُ الْأَرْوَاحِ وَمُخْتَرِعُ الْأَجْسَامِ أَسْأَلُكَ

سبھی تیری ایجاد و تخلیق سے ہیں تو ہی از سر نو پیدا کرنے والا ہے ارواح کا اور ایجاد فرمانے والا ہے اجسام کا ہیں مال

بِسِرِّ أَمْدَادِكَ فِي الْعَوَالِمِ الْعُلُوِّيَّةِ وَالسُّفْلِيَّةِ أَنْ تُزِيلَ عَنِّي

کرتا ہوں تیرے جاری سلسلے فیض کے راز مخفی کے طفیل جو علوی اور سفلی جہانوں میں ہے کہ زائل فرمائے مجھ سے

الْأَلَامَ وَالْأَسْقَامَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

درود آلام اور بیماریوں کو۔ اے اللہ تو ہی انعام فرمانے والا، کامل فضل و جود والا ہے تو نے انعام فرمایا

الْمَخْلُوقَاتِ بِنِعْمَةِ الْإِيحَادِ أَسْأَلُكَ بِسِرِّ هَذَا السِّرِّ اللَّطِيفِ أَنْ

مخلوقات ہر ساتھ نعمت ایجاد کے، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس سیر لطیف کے خفاء کے طفیل کہ

تُبَدِّلَنِي بِرَقِيْقَةٍ مِّنْ رِّقَائِكَ وَتَكْشِفَ لِي بِهَا عَنِّ حَقَائِقَ الْأَشْبَاحِ

میری امداد فرمائے ساتھ نفیس راز کے اپنے عمدہ رازوں سے اور پردہ ہٹائے میرے لیے لطیف اس کے

الصُّورِيَّةِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْجَوَادُ بِالْعَطَايَا وَالْإِنْعَامِ الْبَاذِلَةُ وَالْوَاهِبُ

صوری و محسوس جموں کے حقائق سے۔ اے اللہ تو صاحب جود و مال ہے ساتھ عطیات دینے کے اور قوی و توانا جانور عطا کرنے کے اور

لِحُلِّ مَوْجُودٍ مَوْهَبَةٌ مِّنْ خَزَائِنِكَ السَّمْلَوَّةُ لَا تَنْقُصُ بِكَثْرَةِ الْبَدَلِ

ہمہ کرنے والا ہے ہر موجود کو اپنے بھرپور خزانے سے عطیات کا جو کہ نہیں ہوتے زیادہ خرچ کرنے سے

وَبِرُوزِ أَنْفَاسِكَ بِمَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ مِمَّنْ تَخْتَارُ مِنْ فَضْلِكَ

اور نفیس اشیاء کے بروز و ظہور سے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے جنہیں اختیار کرے اپنے فضل و کرم سے

أَسْأَلُكَ يَا وَهَّابَ الْجَزِيلِ مِنَ الْعَطَايَا وَيَا دَافِعَ الْبَلَايَا أَنْ تُعْطِيَنِي

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے عظیم تر عطیات کے ہمہ کرنے والے اور بلیات کے دور کرنے والے کہ مجھے عطا فرمائے

الْجَزِيلَ مِنْ تَعْمَائِكَ وَتَدْفَعْ عَنِّي الْجَلِيلَ وَالْحَقِيرَ مِنْ بَلَائِكَ وَ

اپنی بڑی نعمتوں سے اور دور فرمائے مجھ سے اپنی بڑی اور چھوٹی مصیبتیں اور

أَنْ تُعَاجِلَنِي لِهَلَاكِ الْأَضْدَادِ الْمُعْتَدِينَ وَأَنْ تَسْرِعَ بِقَهْرِكَ الْحُسَادَ

جلدی فرمائے میرے مخالفین اور ظالمین کی ہلاکت میں اور سرعت سے قہر کا نشانہ بنائے حاسدوں

الْجَائِرِينَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَهَبَ لِي بِرِزْقًا حَلَالًا وَسِرًّا إِلَهِيًّا تَرْفَعُ بِهِ

اور ظالموں کو، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے رزق حلال بخشے اور سرائی سے محرم راز کرے جس کی بدولت

الْحُجْبَ الظُّلْمَانِيَّةَ مِنْ قَلْبِي فَاهْتَدَى بِكَ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ قَدَّرْتَكَ

اٹھائے ظلمانی پردے میرے دل پر سے پس میں ہدایت پاؤں تجھ سے تجھی تک۔ اے اللہ تیری قدرت

فِي الْأَرْضَيْنِ وَالسَّمَوَاتِ بِإِيجَادِ الْأَشْيَاءِ وَبَسْطِهَا وَبِحِكْمَتِكَ يُبَوِّئُ

تمام زمینوں اور آسمانوں میں اشیاء کی ایجاد اور ان کے پھیلانے پر ثابت ہے اور تیری حکمت کا طرکے ساتھ ہے

الْأَمْرَ وَحَفْظَ الْقَلْبِ وَبَسْطَهُ وَكَشْفَ الْأُمُورِ الْغَيْبِيَّةِ وَالثَّبَاتِ

ثبوت و دوام ہر امر کا اور قلب کی حفاظت اور اس کی وسعت و کشادگی اور امور غیبیہ کا انکشاف اور ثابت رہنا

عَلَى كَشْفِ اللَّطَائِفِ الْغَيْبِيَّةِ وَالْأُمُورِ الْعَطَائِيَّةِ فَا مَدِدْنِي بِرِيقَةِ

لطائف غیبیہ اور عطائی امور کے کشف و ایضاح پر پس میری امداد فرما جاتھ راز کے

مَنْ رَقَاتِقِ أُنْسِكَ لِتُخَاطِبَنِي كُلُّ ذَرَّةٍ مِّنْ ذُرَّاتِ الْوُجُودِ بِالْبَسِطِ

اپنے راز ہائے انس سے تاکہ کلام کرے مجھ سے ہر ذرہ وجود کے ذرات سے ساتھ وضاحت کے

أَسْأَلُكَ عَوْنًا عَلَى أُمُورِي يَا بَاسِطَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے مدد و اعانت کا اپنے تمام امور میں اے باسط۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مِنَ النَّارِ مُخْلِصُنَا رَسُولَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو ہمیں آتش دوزخ سے خلاصی دلانے والے رسول

صَاحِبِ الْحَرَابِ حَاشِرِ نَبِيِّ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

صاحب محراب اور صاحب حشر نبی ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ افضل ہیں تمام انبیاء و صدیقین سے

مَحْبُوبِنَا رَسُولٍ صَاحِبِ الْمُبْتَدِرِ خَطِيبٍ رَحْمَةِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہمارے محبوب رسول ہیں، صاحب منبر اللہ کی رحمت (بیان اور تقسیم کرنے والے خطیب ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَسْجِدِ اللَّهُمَّ صَلِّ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب صاحب مسجد ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّيْفِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مضبوط تلوار

الْمَبْتِينِ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَمُوتُ وَبِكَ النُّشُورُ

والے ہیں۔ اے اللہ تیری توفیق سے ہم نے صبح کی اور تیری توفیق سے ہی شام کی اور تیرے مارنے سے ہی مریں گے اور

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ فِي حِمَاكَ الَّذِي لَا يُسْتَبَاحُ وَبِذِمَّتِكَ الَّتِي

تیری طرف ہی اٹھتا ہے۔ اے اللہ میں تیری حمایت و پناہ میں داخل ہوا جس کو صباح و علال نہیں سمجھا جاسکتا اور ساتھ تیری ذمہ داری کے جس

لَا تُخْفَرُ وَجَوَارِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ وَبِقُدْرَتِكَ

میں خلل اندازی نہیں کی جاسکتی اور تیرے جوار و قرب میں جس کا قصد (اعداء کی طرف سے) نہیں کیا جاسکتا اور میں سوال کرتا ہوں تیری عزت و

وَقُوَّتِكَ أَنْ تَجْعَلَنِي فِي عَوْنِكَ وَجَوَارِكَ وَأَمْنِكَ وَعِيَاذِكَ وَ

قدرت اور قوت کے طفیل کہ مجھے رکھے اپنی امداد اور جوار و قرب اور امن و حفاظت اور پناہ اور

عَهْدِكَ وَمَنْهَكَ وَأَمَانِكَ وَمَنْعِيَّتِكَ الَّتِي لَا تُرَامُ وَعِزِّكَ الَّذِي

پیمان میں اور اپنی حفاظت اور امان اور حفاظت و نگرانی میں جس کا قصد نہیں کیا جاسکتا اور اپنی عزت و غلبہ کے سایہ میں

لَا يُسْتَطَاعُ مِنْ غَضَبِكَ وَسُوءِ عِقَابِكَ وَالْيَمْرِ عَذَابِكَ وَشَرِّ

جس کی تاب نہیں لائی جاسکتی اپنے غضب اور سخت عقاب اور دردناک عذاب اور بندوں کے

عِبَادِكَ وَمِنْ شَرِّ بَوَائِقِ اللَّيْلِ وَمِنْ شَرِّ أَحْدَاثِ النَّهَارِ وَطَوَارِقِ

شر سے اور راتوں کی ہلاکتوں کے شر اور دن کے حوادث کے شر اور رات میں آنے والے

اللَّيْلِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمَ الرَّاحِمِينَ ۝

شور سے ماسوائے اس کے جو خیر اور بھلائی کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹانے لے رحمان۔ اے تمام راہمیں کے رحیم۔

اللَّهُمَّ إِنَّ نَفْسِي سَفِينَةٌ سَائِرَةٌ فِي بَحَارِ طُوفَانِ الْإِرَادَةِ حَيْثُ

اے اللہ بیشک میرا نفس ایک کشتی ہے جو تیرے ارادہ کے طوفان کے سمندروں میں جاری ہے جہاں

لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ فَاجْعَلِ اللَّهُمَّ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا

نہ کوئی جائے پناہ اور نہ نجات کی جگہ ہے تجھ سے مگر ساتھ تیری ذات کے پس کر اے اللہ اپنے نام مقدس کے ساتھ ہی اس کا

وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَشْغَلْنِي اللَّهُمَّ بِكَ عَمَّنْ أْبَعْدَنِي

چلنا اور ٹھہرنا، بیشک میرا پروردگار البتہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے اور مشغول فرما لے اللہ ساتھ اپنے ان سے جو مجھے دور کریں

عَنْكَ حَتَّى لَا أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَعْصِمْنِي بِعِصْمَةِ

تجھ سے یہاں تک کہ میں نہ سوال کروں تجھ سے جس کا مجھے علم نہیں اور مجھے محفوظ فرما ساتھ اپنی حفاظت کی عصمت

حِفْظِكَ يَا وَلِيَّيَ يَا وَفِيَّ يَا عَلِيَّ يَا رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

و پناہ کے اے کار ساز اے وفائے کامل والے اے بند نشان، اے دنیا و آخرت میں غایت رحمت والے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَادَ الرِّيَّاحِ

د سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد بارانی ہواؤں کے

الْمُسَخَّرَاتِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَجُوفِهَا وَقِبْلَتِهَا

جو مسخر ہیں زمین کی مشرقی اور مغربی جانبوں میں اور اس کے وسط اور قبلہ کی جہت میں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

عِدَادَ كُلِّ ذَرَّةٍ الرَّمَالِ وَعِدَادِ كُلِّ وَابِلٍ وَطَلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ

مطابق تعداد ریت کے ہر ذرہ کے اور بارش کے ہر بڑے اور چھوٹے قطرے کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَادَ مَا فِي

د سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد اس کے جو

السَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آسمان میں ہے اور زمین میں ہے اور ان کے درمیان۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما



سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ رَوْحٍ وَرَاحَةٍ وَعَافِيَةٍ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر خوشی اور راحت و عافیت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد

دَفْعِ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالطَّاعُونَ وَالْأَسْقَامِ وَالْأَمْرَاضِ اللَّهُمَّ

دور کرنے بلاؤں اور وباؤں کے اور طاعون اور عوارض و بیماریوں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق ہر

صَلَاةٍ صَلَّيْتَهَا جَمِيعُ الْخَلَائِقِ وَالْبَشَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

صلوٰۃ کے جو بھیجی تمام مخلوقات نے (بالعموم) اور انسانوں نے (بالخصوص) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ تَبِيِّكَ وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَعَلَىٰ جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ

اپنے نبی محمد پر اور اپنے خلیل ابراہیم پر اور تمام انبیاء پر

وَأَصْفِيَائِكَ مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاكَ

اور تمام مخلصین پر اہل ارض سے ہوں یا اہل سماوات سے مطابق تعداد اپنی مخلوق کے اور رضا کے

نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهَىٰ عِلْمِكَ وَ

ذات اور مقدار عرش اور کلمات قدسیہ کی سیاہی اور منتہائے علم کے اور

زِينَةَ جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِكَ صَلَاةً مُّكْرَرَةً أَبَدًا عَدَدَ مَا أَحْصَىٰ

مطابق مقدار و اعداد تمام مخلوقات کے ایسی صلوٰۃ جس کا ہمیشہ ہمیشہ تکرار ہوتا ہے مطابق اعداد ان معلومات

عِلْمِكَ وَمِلًا مَا أَحْصَىٰ عِلْمُكَ وَأَصْعَافَ مَا أَحْصَىٰ عِلْمُكَ صَلَاةً

کے جنہیں تیرا علم احاطہ کئے ہوئے ہے اور پری اس کی جسے نیرا علم محیط ہے اور کئی گنا اس سے جسے تیرا علم محیط ہے ایسی صلوٰۃ

تَزِيدًا وَتَفُوقًا وَتَفْضُلًا صَلَاةً الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِمْ مِّنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ

جو زائد اور فائق و افضل ہو ان پر صلوٰۃ بھیجنے والی تمام مخلوق (کی صلوات) سے

كَفَضْلِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مانند تیری فضیلت و برتری کے اوپر تمام مخلوقات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ حَسَنَاتٍ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ

اور آل محمد پر مطابق تعداد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان

وَحَيْدَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور حضرت علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حسنت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ كُلِّ حَسَنَةٍ مِّنْ حَسَنَاتٍ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد ہر نیکی کے ان حضرات کی نیکیوں میں سے

مَنْ كُنْتَ سَمِعَهُ وَيَصْرَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ تو جن کے کان اور آنکھ ہو گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ مَا خَلَقْتَ وَرَزَقْتَ وَأَمَّتْ وَ

اور آل محمد پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جنہیں تو نے پیدا کیا۔ رزق دیا اور موت دی اور

أَحْيَيْتَ إِلَى يَوْمٍ تَبْعَثُ مَنْ أَفْنَيْتَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

زندہ کیا اس دن تک کہ جس میں زندہ کر کے اٹھائے گا جنہیں فنا و ہلاک کیا تو نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ مَا فِي عِلْمِكَ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جو تیرے علم میں ہیں

صَلْوَةٌ تَدْوِمُ رُبْدًا وَإِمْرًا مُلْكًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ایسی صلوٰۃ جو دائم ہو تیرے دوام ملک کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ مَا

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جنہیں محیط ہے تیرا علم جب تک

دَامَ مُلْكُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کہ قائم و دائم رہے تیرا ملک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَمَا لِإِلَهِ اللَّهِ وَكَمَا يَلِيْقُ بِكَمَا لِيَهُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

آل پر مطابق اپنے کمالات کے اور جیسے کہ لائق ہے تیرے حبیب کے کمال کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اس کے جو اللہ کے علم میں ہے

اللَّهِ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَاوَامِ مُلْكِ اللَّهِ إِلَهُكُمْ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

ایسی صلوٰۃ جو دائم ہو اللہ کے ملک کے دوام کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمِ اللَّهِ الْكَرِيمِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اللہ کریم کی نعمتوں کے

وَأَفْضَالِهِ اللَّهُمَّ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور انعامات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا شَبِهَهُ كَرَمُكَ اللَّهُمَّ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

آل پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جنہیں شامل ہے کرم تیرا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا عَمَّرَ جِلْدَكَ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ان اشیاء کے جنہیں محیط ہے علم و عمل تیرا

اللَّهُمَّ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَفْرَادِ رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَهُكُمْ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

پر مطابق تعداد اپنے افراد رحمت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ تَعْدَادِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنے اعداد

نِعْمَةِ اللَّهِ إِلَهُكُمْ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

نعمت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور



اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْحُزْنِ وَالسُّرُورِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر مطابق اعداد حزن و ملال اور فرحت و سرور کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الظُّهُورِ

فرما سیتا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ظهور (اشیاء) اور

الْبُطُونِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ

ان کے نفاذ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر مطابق تعداد علوم و فنون کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْاَحْوَالِ

فرما سیتا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد احوال

وَالشُّوْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ

اور کیفیات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کی آل پر مطابق اعداد حرکات و سکنات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْاَشْعَارِ

سیتا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد کتوں ، بالوں

وَالجُفُونِ وَعَدَدَ كُلِّ عَالٍ وَّ دُونِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور پکوں کے اور مطابق اعداد پر اعلیٰ و ادنیٰ شئی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْاَمْكِنَةِ وَ

سیتا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد مکانات کے اور

السَّاحَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ

صحنوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آل



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الدَّقَائِقِ وَالسَّاعَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر مطابق تعداد منٹوں اور گھنٹوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْحَسَنَاتِ وَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اعداد تمام حسنات اور

الطَّاعَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

طاعات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَثَارِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل اطہار پر مطابق تعداد آثار و افعال اور اسماء اور صفات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَنْوْفِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد تمام ناکوں

وَالصِّفَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور ہونٹوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَفْرَادِ الْمَلَائِكَةِ وَمَجَامِعِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ

کی آل پر مطابق تعداد ملائکہ کے افراد اور ان کے مجموعوں اور مجالس کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

أَذْكَارِهَا وَمَوَاضِعِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اذکار ملائکہ کے اور ان کے مواضع کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَرَاتِبِهَا اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد اہل جنت کے اور جنت کے مراتب کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد



أَهْلِ النَّارِ وَمَقَامِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اہل نار کے اور اس کے نہڑوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْبِيَّاتِ وَمَنَابِعِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آل محمد پر مطابق تعداد بیاہوں کے اور ان کے چشموں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَمْطَارِ وَمَنَابِعِهَا

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد بارشوں کے اور ان کے منافع کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر

رُطْبٍ وَيَابِسٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

تر اور خشک کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ وَاقِفٍ وَجَالِسٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر مطابق تعداد ہر کھڑے اور بیٹھے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ ضَاحِكٍ وَعَابِسٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر ہنس مکھ اور زبوری چڑھانے والے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ عَارٍ وَلَا رِبِّسٍ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر برہنہ اور صاحب لباس کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد

السَّحَابِ وَالْغَمَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

بادلوں اور گھٹاؤں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْقُعُودِ وَالْقِيَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی آل اطہار پر مطابق تعداد نمازوں اور روزوں کے اور قعودوں اور قیاموں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْخَوَاصِّ وَالْعَوَامِّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد خواص اور عوام کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد

الْاَعْدَادِ وَالْاَضْدَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

اعداد کے اور اضداد و مقابلین کے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْاَتْرَابِ وَالْاَنْدَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

کی آل اطہار پر مطابق تعداد ہم مصروف کے اور متقابلوں اور مخالفوں کے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْحُبِّ وَالْوُدَادِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد محبتوں اور مودتوں کے۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّبَاطَاتِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد رگوں

وَالْاَعْصَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

اور پھٹوں کے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ عَدَدَ اِحْسَانِ اللّٰهِ تَعَالٰی اِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

پر مطابق اپنے احسانات کے ان پر۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اِنْعَامِ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اپنے انعام کے ان پر۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَجْرٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ان پر

مَنْ صَلَّى وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

درود و سلام بھیجنے والوں کی تعداد کے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْرَاقِ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر مطابق تعداد جنتی درختوں کے پتوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ كُلِّ إِنْسٍ وَجَنَّةِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر انسان اور جن کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْوُلْدَانِ وَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ولدان اور

الْحُرِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

حوروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد

الْغُرْفِ وَالْقُصُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

جنتی بالافانوں اور محلات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ عَدَدَ الثَّوَابِ وَالْأَجْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

آل پر مطابق تعداد ہر ثواب کے اور تمام اجر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ثَمَارِ الْجَنَّةِ الْمَوْصُوفَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد تعریف و توصیف کی ہوئی جنت کے پھولوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نَبَارِقِهَا الْمَصْفُوفَةِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد جنتوں کے صفت و وصف بچھے ہوئے گدوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد

الْإِيَّاتِ وَنَعْمَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی آل اطہار پر مطابق تعداد اپنے معلومات اور بمقدار اپنے کلمات کی سیاہی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نَجْوَمِ الْاَفْلَاكِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد افلاک کے ستاروں کے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اس کے

فَوْقِ الْاَرْضِ وَتَحْتَ التُّخُوْمِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جرورے زمین پر ہے اور جو حدود ارضی سے نیچے ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْجُرَادِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد مکڑی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْهَوَامِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد زہریلے جانوروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْغَمَامِ اللّٰهُمَّ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد بادلوں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْبَدْوِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اعداد دیہات اور جنگلات کے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْحَضَرِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اعداد شہروں کے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الشَّعْرِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد جانداروں کے بادلوں کے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْوَبْرِ اللّٰهُمَّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق اعداد اونٹوں کے بادلوں کے۔

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَقَدَّسَ بِهِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ان اشیاء کے کہ ظاہر ہوا تقدس نیزے



إِسْمِكَ وَتَقَدَّرَ فِيهِ حُدُوكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اسم کا ان سے اور تقدر ہوا ان میں حکم تیرا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ مَضَى مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل محمد پر مطابق تعداد گزری مخلوق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ بَقِيَ وَمَنْ سَعَدَ مِنْهُمْ وَ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد باقی رہنے والی مخلوق کے اور ان میں سے سعادت مندوں اور

مَنْ شَقِيَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا

بدبختوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِكَ وَسِعَةِ رِزْقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر مطابق تعداد اپنی مخلوق کے اور وسعت رزق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنَ الْوَحْشِ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد وحشی جانوروں کے جو زمین میں ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد

مَا يَتَلَوْنَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ تَوْبِ الْعَرْشِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

روزانہ موجود ہونے والے نور عرش کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ رِضَاكَ الْقَائِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق اپنی پائیدار رضا کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ ثَوَابِ مُلْكِكَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق اس ثواب کے جو تیرے دائمی ملک یعنی

الدَّائِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جنت میں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

عَدَدُ نِعَمِكَ وَالْإِنِّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

مطابق تعداد اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُتُبِكَ وَأَسْمَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

آل محمد پر مطابق تعداد اپنی کتابوں کے اور اسماء کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد ان کے جنہوں نے

ذَكَرَكَ بِلسَانِ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

تجھے یاد کیا طاعت اور عبادات کی زبان کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ مَدَّ إِلَيْكَ أَكْفَ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ان لوگوں کے جنہوں نے بڑھایا تیری طرف

التَّضَرُّعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

زاری کی ہتھیلیوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

عَدَدَ مَنْ نَزَلَ الْجَنَّةِ وَأَدْرَجَ فِيهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مطابق تعداد جنت کی منزلوں کے اور ان کے راستوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا يَلْبِغُ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آل محمد پر مطابق تعداد ہونے والوں کے بیت المعمور میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد طواف کرنے والوں کے ساتھ بیت حرام

الْحَرَامِ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِبْرِ وَالْمَلَائِكَةِ الْكَرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے انسانوں، جنوں اور ملائکہ کرام سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد علوم و معارف کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّزَازِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد بادلوں کی گرج

وَالرِّيشِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور بارشوں کے چھینٹوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

عَدَدَ مَا طِيفَ حَوْلَ الْعَرْشِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مطابق ان طوافوں کے جو کئے گئے عرشِ اعظم کے گرد۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْبِيَاهِ وَضُرُوبِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل محمد پر مطابق پانیوں اور ان کے انواع و اقسام کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيَاحِ وَهُبُوبِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہواؤں اور ان کے تیز چلنے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْعَوَالِمِ الْعُلْوِيَّةِ وَ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد بالائی اور شبھی

السُّفْلِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جہانوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَادِيرِ الرَّبَّانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مطابق تعداد تقدیرات ربانیہ کے جو ان میں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا انْدَارَجَ تَحْتَ قَوْلِهِ كُنْ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ان موجودات کے جو داخل ہیں سیے کن

فَيَكُونُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فیکون و اے فرمان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

عَدَدَ ظِلَالِ الْجَنَّةِ السُّدُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مطابق تعداد جنت کے دراز ترین سایوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَنْهَارِهَا الَّتِي تَجْرِي عَلَىٰ غَيْرِ أَخْدُوْدٍ

اور آل محمد پر مطابق تعداد ان جنتی نہروں کے جو جاری ہیں بغیر گہرائی اور کناروں کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق

أَنْهَارِ الْجَنَّةِ وَالسَّلْسَبِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

جنتی نہروں کے اور سلسبیل کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَزَاجِهَا الزُّجَبِيِّلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

آل محمد پر مطابق تعداد ان میں زنجبیل (سونڈھ) کی آمیزش کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ سُرُرِ الْجَنَّةِ الْمَرْفُوعَةِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد جنت کے بلند تختوں اور

وَكَوَابِهَا الْمَوْضُوعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اس میں رکھے ہوئے کٹوروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَرَائِبِ الْجَنَّةِ الْمُحْتَوِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر مطابق تعداد جنت کی تیز رفتار سواروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ رِفَارِ فِيهَا الْخَضِرِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد جنت کے سبز رنگ

الْأَلْوَانِ وَعَبْقَرِيَّهَا الْجِسَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ریشمی بچھونوں کے اور تعجب انگیز حسینوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ دُورَانِ الْقَلْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

آل محمد پر مطابق تعداد گردش قلب کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ بَحَارِ الدِّاخِرَةِ وَأَيَّامِ الدُّنْيَا

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد موحیوں کے اور دنیا و آخرت کے

وَالْآخِرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ایام کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر

عَدَدَ الْبُورِيسِ وَالتَّعْيِيمِ وَمَاهَبَ عَلَيْهِ النَّسِيمَ اللَّهُمَّ افْتَحْ أَقْفَالَ

مطابق تعداد محنتوں، شدتوں اور نعمتوں کے اور ہر اس شئی کے جس پر چلے باد صبار اے اللہ کھول دے ہمارے

قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ وَأَتِمِّمْ عَلَيْنَا بِنِعْمَتِكَ وَأَسْبِغْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ وَ

دلوں کے تالے اپنے ذکر کے ساتھ اور ہم پر کامل فرما اپنی نعمت اور ہمیں محیط فرما اپنا فضل اور

اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ اتِنِي أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ

بنا ہمیں اپنے صالح بندوں سے۔ اے اللہ مجھے عطا فرما افضل ترین ثواب جو دے گا اپنے

الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مُسْلِمًا وَأَمِتْنِي مُسْلِمًا اللَّهُمَّ عَذِّبْ

نیک بندوں کو۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھنا حالت اسلام پر اور موت دینا حالت اسلام پر۔ اے اللہ کافروں کو

الْكُفْرَةَ وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَخَالَفَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَأَنْزِلْ

عذاب دے اور ڈال ان کے دلوں میں رعب اور ان میں باہم اختلاف پیدا فرما اور نازل فرما

عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اللَّهُمَّ عَذِّبْ الْكُفْرَةَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ

ان پر اپنی طوف سے طاعون اور عذاب۔ اے اللہ عذاب دے تمام کفار کو اہل کتاب ہوں یا

الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَجْحَدُونَ آيَاتِكَ وَيَكْفُرُونَ بِرُسُلِكَ وَيَصُدُّونَ

مشرکین جو انکار کرتے ہیں تیری آیات کا اور جھٹلاتے ہیں تیرے رسولوں کو اور روکتے ہیں

عَنْ سَبِيلِكَ وَيَتَعَدُّونَ حُدُودَكَ وَيَدْعُونَ مَعَكَ إِلَهًا آخَرَ

تیری راہ سے اور تجاوز کرتے ہیں تیری مقررہ حدود سے اور پوجتے ہیں تیرے ساتھ دوسرے معبود

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عَلُوًّا

بالطہ کہ نہیں معبود برحق مگر تو، تو با برکت ہے اور بلند تر اس سے جو ظالم لوگ

كَبِيرًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَ

کتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بخش اور مومن مردوں اور عورتوں کو اور مسلمان مردوں اور



المسلمات وأصلح ذات بينهم واللف بين قلوبهم واجعل في

عورتوں کو اور ان میں باہمی صلح و آنتشی پیدا فرما اور ان کے دلوں میں الفت پیدا فرما اور پیدا فرما

قلوبهم الايمان والحكمة وثبتتهم على ملة رسولك وأوزعهم

ان کے دلوں میں ایمان اور حکمت اور انہیں ثابت قدم رکھ اپنے رسول پاک کی ملت پر اور انہیں توفیق دے

أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك

کہ شکر ادا کریں تیری نعمتوں کا جو تو نے انہیں عطا فرمائی ہیں اور پورا کریں تیرے عہد کو

الذي عاهدتهم عليه وأنصرهم على عدوك وعدوهم إله

جو تو نے ان سے لیا ہے اور ان کی مدد فرما اپنے دشمنوں اور ان کے دشمنوں پر۔ اے اللہ

الحق سبحانه لا إله إلا أنت اغفر لي ذنبي وأصلح لي عيالي

برحق میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ نہیں معبود برحق مگر تو بخش دے میرا ہر گناہ اور اصلاح فرما میرے گھرانے

إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم يا غفار

کی بیشک تو بخشتا ہے گناہوں کو جس کے لیے چاہے اور تو ہی غفور و رحیم ہے۔ اے غفار

اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني يا عفو اعف عني يا

مجھے بخش دے تو اب مجھ پر نظر رحمت فرما۔ اے رحمن مجھ پر رحم فرما۔ اے درگزر فرمانے والے مجھ سے درگزر فرما۔ اے

رءوف ارف بي يارب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت

رؤوف میرے ساتھ مہربانی فرما۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری ہر نعمت کا جو تو نے مجھے

علي وطوقتي حسن عبادتك يارب أسئلك من الخير كله يارب

عطا کی اور مجھے طاقت بخش اپنی عبادت اچھی طرح کرنے کی۔ اے میرے رب میں سوال کرتا ہوں ہر طرح کی خیر کا۔ اے اللہ

افتح لي بخير واختم لي بخير واتني تشوقا الى لقاءك من غير

میرا آغاز فرما ساتھ تیرے اور میرا اختتام فرمانا ساتھ تیرے۔ اور مجھے عطا فرما اپنی ملاقات کا شوق بغیر

ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وقني السيئات ومن تقى السيئات

ضرر رسال نقصان کے اور گمراہ کن فتنہ کے اور بچا مجھے برائیوں سے اور جسے بچائے تو برائیوں سے

يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اس دن تو تحقیق تو نے اس پر رحم فرمایا اور وہ عظیم کامیابی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ تُرَابِ الْأَرْضِ وَمَا

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق مقدار زمین کی غبار و خاک کے اور

صَلَّيْتَ عَلَيْهِ النَّفْلُ وَالْفَرَضُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مطابق اس پر پڑھے جانے والے فرائض و نوافل کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قُبَّةِ اللَّهِ صَلِّ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد جنت کے قبہ جات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق ان دانوں کے

مِنْ حَبَّةِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو خوشیوں میں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

عَدَدَ مَا نَطَقَتْ بِهِ الْأَلْسُنُ الْفُصَّاحُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مطابق تعداد ان کلمات کے جن کے ساتھ فصیح زبانوں نے تکلم کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا نَظَرَتْهُ الْعُيُونُ فِي الْأَمَاكِنِ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ہر متحرک اور ساکن کے

مِنَ الْمُتَحَرِّكِ وَالسَّوَائِنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جنہیں دیکھا آنکھوں نے ان کے مکالوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا شَبَّهَتْهُ الْأَنْوْفُ وَمَا كَتَبَتْهُ الْأَكْفُ مِنْ

آل محمد پر مطابق تعداد ان خوشبوؤں کے جنہیں ناکوں نے سونگھا اور حروف کے جنہیں ہاتھوں نے

الْحُرُوفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

لکھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار



مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا سَمِعَتْهُ الْأَذَانُ فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر مطابق تعداد ان کلمات کے جو سُننے کانوں نے پوشیدہ اور علانیہ طور پر اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ عَمَّتْهُ شَفَاعَتُهُ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد دائرہ شفاعت میں آنے والوں کے

وَبَلَّغَتْهُ رِسَالَتَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور جنہیں پہنچے آپ کے احکام رسالت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ وَافَى الْقِيَمَةَ وَوَسِعَتْهُ دَارُ الْقَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

آل پر مطابق تعداد ان کے جو پامیں قیامت کو اور جن کی گنجائش ہو جنت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ صَلَاةٍ لَا يَنْقُصُنِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد نمازوں کے کہ نہ ختم ہو

مَدَدُهَا وَلَا يَنْقُطُ أَمْدُهَا وَلَا يَحْضِي عَدَدُهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تسلسل ان کا اور نہ منقطع ہو غایت و نہایت ان کی اور نہ شمار کی جا سکے تعداد ان کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَوْجَرَتْهُ الْقُدْرَةُ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد موجودات کے جنہیں موجود کیا تیری قدرت

وَخَصَّصْتَهُ الْإِرَادَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

نے اور خاص کیا تیرے ارادہ نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَعْدَادِ كُلِّهَا مِنْ حَيْثُ انْتَهَاهَا فِي عِلْمِكَ وَ

کی آل پر مطابق تمام اعداد کے جہاں پر ان کی انتہاء ہے تیرے علم محیط میں اور

مِنْ حَيْثُ احْطَيْتَ بِمَا تَعْلَمُ لِنَفْسِكَ مِنْ غَيْرِ انْتِهَاءٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

جیسے کہ تو احاطہ کئے ہوئے اپنے معلومات کا بذات خود بغیر انتہاء کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ ذِي أُذُنٍ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد کانوں والی اشیاء کے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ان کے سوراخوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

عَدَدَ خُطَوَاتِ النَّاسِ فِي الْأَسْفَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مطابق تعداد لوگوں کے قدموں کے اپنے سفروں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْحَرَكَاتِ فِي السَّنَةِ وَالْفَرِيضِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد ہر حرکت کے سن اور فرائض میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا يَطْلُعُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل محمد مطابق تعداد ان اشیاء کے

عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جن پر طلوع ہوتا ہے سورج اور چاند۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ حَبَّ وَعُتِمِرَ وَمُعْجَزَاتِهِ الَّتِي لَا تُحْصَرُ

کی آل پر مطابق تعداد ہر حاجی اور عمرہ والے کے اور آپ کے معجزات غیر محدودہ کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد تمام

صَلَّى عَلَى الْأَخْيَارِ وَالْأَشْرَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اچھے اور بُرے لوگوں کے جنہوں نے نماز پڑھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَعْضَاءِ وَالْإِمْدَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر مطابق تعداد اعضاء کے اور امداد و اعانت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَنْفَاسِ الْمُسْتَغْفِرِينَ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق استغفار کرنے والوں کے سانسیوں کے

بِالْأَسْحَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اوقات سحر میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر



عَدَدَ مَا أَنْتَ مَعْبُودٌ لَّهُ فِي الْأَزَلِ إِلَى الْأَبَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مطابق تعداد ان افراد کے جن کا تو معبود ہے ازل سے ابد تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ نَظَرَتْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ان کے جنہیں تو نے دیکھا ساتھ نظر رحمت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

مَصْنُوعَاتِكَ وَتَقْدِيرِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اپنی مصنوعات اور تقدیروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْخَلَائِقِ الَّتِي أُعْطِيَتْهُمُ الصُّورَ وَمِنْ

آپ کی آل پر مطابق تعداد ان مخلوقات کے جنہیں تو نے صورتیں عطا فرمائیں اور جنہیں

اِبْتَلَيْتَهُمْ بِقَبِيضِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

تو نے آزمائش میں ڈالا بسبب موت دینے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الَّذِينَ رَفَعْتَهُمْ بِأَعْلَىٰ الْمَرَاتِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل محمد پر مطابق تعداد ان حضرات کے جنہیں بلند ترین مرتبہ کے ذریعے۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ عَزَّرْتَهُمْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ان کے جنہیں عزت دی

بِالْإِسْلَامِ وَمَنْ أَدَلَّتْهُمْ بِالْكَفْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اسلام کے ذریعے اور جنہیں ذلیل کیا کفر کے سبب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَبْصِرَاتِكَ وَمَا سَمِعْتَ دُعَاءَهُمْ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اپنی دیکھی ہوئی اشیاء کے اور جو سنی تو نے ان کی دعا میں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ان اشیاء



عِنْدَكَ مِنْهُ خَيْرٌ وَعَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ی خیروں اور علم کے جو خیر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عَطَائِكَ الْجَلِيلِ عَلَى الْعَمَلِ الْقَلِيلِ اللَّهُمَّ

آل محمد پر مطابق تعداد اپنی جلیل عطاؤں کے قلیل اعمال پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هُمْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ان کے

يُبْعَثُ وَيُعَادِ يَوْمَ التَّنَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو اٹھائے جائیں گے اور ان کا اعادہ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحْبَبْتَ قُلُوبَهُمْ بِمَعْرِفَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

آل محمد پر مطابق تعداد اس کے جو تیرے محبت بخشی ان کے دلوں کو ساتھ اپنی معرفت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هُوَ مَوْجُودٌ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ان کے جو موجود ہیں

لَكَ وَأَنْتَ وَاجِدُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ

تیرے سامنے اور تو ہی ان کو جانتے والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمَحْتَاجِينَ إِلَى جَنَابِ قُدْسِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی آل پر مطابق تعداد ان کے جو محتاج ہیں طرف تیری بارگاہ اقدس کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ قَدَّمَ لَهُمْ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ان کے جنہیں تو نے مقدم ٹھہرایا

بِقُرْبِكَ وَمَنْ أَخَّرْتَهُمْ فِي الشَّرَفِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اپنے قرب کے ساتھ اور جنہیں تو نے موخر کیا شرف و فضل میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَجَرَّيَ عَلَيْهِ مَشِيَّتِكَ

محمد پر اور آپ کی آ اطہار پر مطابق تعداد ان کے جن پر جاری ہوتی ہے تیری مشیت



وَنَافِذٌ فِيهِ قُدْرَتُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور نافذ ہے ان میں تیری قدرت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ أَكْرَمْتَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْصَفْتَ

آل محمد پر مطابق تعداد ان کے جن پر تو نے کرم فرمایا اور اس کے جو انصاف فرمایا تو نے

فِيهِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ان میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَلْفَتْ مِنَ الْبَرَائِيَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ

پر مطابق ان مخلوقات کے جن کی تالیف و ترکیب دی تو نے روئے زمین پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد

مَنْعَتَهُمْ عَنِ أَسْبَابِ الْهَلَاكِ فِي الْأَبْدَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

ان کے جنہیں تو نے محفوظ کیا ابدان میں ہلاکتوں کے اسباب سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ان لوگوں کے

حَفِظْتَهُمْ عَنِ شَهَوَاتِ النَّفْسِ فِي الْأَدْيَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

جنہیں تو نے محفوظ رکھا ادیان میں شہواتِ نفس سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ نَفَعْتَهُمْ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ان کے جنہیں تو نے

بِنِعْمَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

نفع دیا اپنی نعمتوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ هَدَيْتَهُمْ وَأَرْشَدْتَهُمْ إِلَى الْكِتَابِ

پر مطابق تعداد ان کے جنہیں تو نے ہدایت دی اور رہنمائی فرمائی ان کی طرف کتاب و



وَالسُّنَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

سنت کے لئے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ تَمِيْنٍ وَحَدِيْثٍ وَابْرَاجٍ

آل محمد پر مطابق تعداد ہر قیمتی چیز اور نئی چیز کے اور تمام حسینوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أٰلِ سَيِّدِنَا

لئے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّياحُ وَذَبَّتِ الْأَشْبَاحُ اللَّهُمَّ

پر مطابق تعداد ہواؤں کے چلنے کے اور اشخاص و اجسام کے زمین پر چلنے کے۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

عَدَدَ مَا تَعَاقَبَ الْغَدُوُّ وَالرَّوَّاحُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مطابق تعداد یکے بعد دیگرے آنے والی صبحوں اور شاموں کے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الصَّامِتِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر مطابق تعداد ہر خاموش اور

الصَّارِحِ وَالصُّرَاخِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہر چلانے والے کے اور اس کی چیخ کے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

عَدَدَ الصَّلَاحِ وَالصَّفْوَحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مطابق تعداد درستی و بہتری اور درگزر کے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا لَا نِهَآيَةَ لِكَمَالِكَ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر اتنا قدر جتنا قدر نہیں انتہاء تیرے کمال کی

وَعَدَدُ كَمَالِكَ وَكَمَا لَا نِهَآيَةَ لِكَمَالِهِ وَعَدَدُ كَمَالِهِ وَلِبَهَائِكَ

اور اعداد کمال کی اور جیسے کہ نہیں انتہاء محبوب کریم کے کمال کی اور اعداد کمال کی اور تیری نورانیت کی اور



وَعَدَدِ بَهَائِكَ وَ لِبَهَائِهِ وَعَدَدِ بَهَائِهِ وَ لِحَمَائِكَ وَعَدَدِ

اور انوار کے اعداد کی اور ان کے نور و بہار کی اور ان کے اعداد کی اور تیرے جمال کی اور اعداد

جَمَائِكَ وَ لِحَمَائِهِ وَعَدَدِ جَمَائِهِ وَ لِحَمَائِكَ وَعَدَدِ جَلَالِكَ

پر تو ہائے جمال کی اور ان کے جمال اور اعداد جمال کی اور تیرے جلال کی اور اعداد جلال کی

وَ لِحَمَائِهِ وَعَدَدِ جَلَالِهِ وَ لِحَمَائِهِ وَعَدَدِ صِفَاتِكَ وَ لِحَمَائِهِ

اور ان کے جلال کی اور عدد جلال کی اور تیری صفات کی اور عدد صفات کی اور ان کی صفات کی

وَعَدَدِ صِفَاتِهِ وَ لِحَمَائِهِ وَعَدَدِ اسْمَائِكَ وَ لِحَمَائِهِ وَعَدَدِ

اور عدد صفات کی اور تیرے اسماء کی اور عدد اسماء کی اور ان کے اسماء کی اور عدد

اسْمَائِهِ وَ لِحَمَائِهِ وَعَدَدِ حُسْنِكَ وَ لِحَمَائِهِ وَعَدَدِ حُسْنِهِ وَ

اسماء کی اور تیرے حسن کی اور اعداد حسن کی اور ان کے حسن کی اور اعداد حسن کی اور

لِعُلُوِّكَ وَعَدَدِ عُلُوِّكَ وَ لِعُلُوِّهِ وَعَدَدِ عُلُوِّهِ وَ لِعَظِيمِكَ وَعَدَدِ

تیری برتری کی اور علو و برتری کے اعداد کی اور ان کی برتری کی اور علو و برتری کے اعداد کی اور تیری تعظیم کی اور تیری

تَعْظِيمِكَ وَ لِعَظِيمِهِ وَعَدَدِ تَعْظِيمِهِ وَ لِعِزَّتِكَ وَعَدَدِ عِزَّتِكَ وَ

تعظیم کے اعداد کی اور ان کی تعظیم کی اور ان کی تعظیم کے اعداد کی اور تیری عزت کی اور تیری عزت کے اعداد کی اور

لِعِزَّتِهِ وَعَدَدِ عِزَّتِهِ وَ لِحَسَانِكَ وَعَدَدِ احْسَانِكَ وَ لِحَسَانِهِ

ان کی عزت اور عدد عزت کی اور تیرے احسان کی اور اعداد احسان کی اور ان کے احسان

وَعَدَدِ احْسَانِهِ وَ لِرَحْمَتِكَ وَعَدَدِ رَحْمَتِكَ وَ لِرَحْمَتِهِ وَعَدَدِ

اور اعداد احسان کی - اور تیری رحمت اور عدد رحمت کی اور ان کی رحمت اور عدد

رَحْمَتِهِ وَ لِحُبُودِكَ وَعَدَدِ حُبُودِكَ وَ لِحُبُودِهِ وَعَدَدِ حُبُودِهِ وَ لِعَفْوِكَ

رحمت کی اور تیرے جود اور اعداد جود کی اور ان کے جود اور اعداد جود کی اور تیری عفو و درگزر کی

وَ لِعَفْوِهِ وَعَدَدِ عَفْوِهِ وَ لَشَفَاعَتِكَ وَ لَشَفَاعَتِهِ وَعَدَدِ شَفَاعَتِهِ

اور ان کے درگزر اور عدد عفو کی اور تیری شفاعت اور ان کی شفاعت کی اور عدد شفاعت کی

وَلِعَلِّمَكَ وَعَدَّ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَلِعَلِّمَهُ وَعَدَّ مَا أَحَاطَ بِهِ

اور تیرے علم کی اور ان کے اعداد کی جنہیں تیرا علم محیط ہے اور ان کے علم کی اور جنہیں ان کا علم محیط ہے اور

عِلْمُهُ وَلِحِلْمِكَ وَعَدَّ دِحْلِمَهُ وَعَدَّ دِحْلِمَهُ وَلِحِجَّتِكَ وَ

تیرے علم کی اور عدد علم کی اور عدد علم کی اور ان کے علم اور عدد علم کی اور تیرے محب کی اور

عَدَّ دِحْجَتِكَ لِرِضَاكَ وَلِحِجَّتِهِ وَعَدَّ دِحْجَتَهُ لِرِضَاةٍ وَلِرِشَادِكَ وَعَدَّ

اعداد مجہین کے واسطے تیری رضا کے اور ان کے مجہول اور ان کی رضا کے مجہول کے اعداد کی اور تیری راہ راست اور راہ راست

رِشَادِكَ وَلِرِشَادِهِ وَعَدَّ رِشَادَهُ وَإِسْتِمْرَارًا وَجُودَكَ

کے اعداد کی اور ان کی راہ راست اور ان کی راہ راست کے اعداد کی اور تیرے وجود کے استمرار و دوام اور اس کے

وَعَدَّ إِسْتِمْرَارًا وَجُودَكَ وَوَلَدِيَوْمَةَ مُلْكِكَ وَعَدَّ

اعداد استمرار اور تیرے ملک کے دوام و ابدیت اور اس کے دوام و ابدیت

دَيَوْمَةَ مُلْكِكَ وَوَلَدَاوَامَ مُدَّتِكَ وَعَدَّ دَوَامَ مُدَّتِكَ وَ

کے اعداد کی اور تیرے دوام مدت کی اور دوام مدت کے اعداد کی اور

لِبَقَاءِ حَيَاتِكَ وَعَدَّ بَقَاءَ حَيَاتِكَ وَوَلَدَاوَامَ مُدَّتِكَ

تیری بقاء حیات اور بقاء حیات کے اعداد کی اور تیرے ذکر کی اور تیرے ذکر کے اعداد کی

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُؤَوِّفِي نِعْمَةً وَيُكَافِي مُزِيدًا عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ

تمام حمدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ایسی حمدیں جو مطابق ہوں اس کی نعمتوں کے اور بدلہ ہوں مزید نعمتوں کا تیری معلومات کی تعداد کے مطابق

وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَعَقْلَ عُنْ ذِكْرِكَ

اور تیرے کلمات کی سیاہی کے مطابق ہر بار کہ ذکر کریں تیرا ذکر کرنے والے اور غافل ہوں تیرے

الْغَافِلُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ذکر سے غافل لوگ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَمْيَالِ وَالْفَرَاسِخِ وَعَدَّ كُلَّ حَامِدٍ

آل محمد پر مطابق تعداد مہلوں اور فرسخوں کے اور مطابق تعداد ہر حامد کے

وَمَا يَقَعُ فِي رُؤْيَا الْمَنَامَاتِ وَالْخِيَالِ مِنْ أَوَّلِ الْخَلْقِ

اور جو واقع ہوتا ہے خوابوں اور خیالوں میں ابتداء تخلیق سے

إِلَى آخِرِهِمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

انتہاء تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَضْغِ الْأَفْوَاهِ وَرَمَيْشِ الْأَبْصَارِ

آل محمد پر مطابق تعداد مومنوں کے چبانے اور آنکھوں کی پلکوں کے

عَدَدَ الْأَنْفَاسِ وَالْخَوَاطِرِ وَعَدَدَ تَرَادُفِ الْأَفْكَارِ وَعَدَدَ

اور مطابق تنفسات کے اعداد اور خطرات قلبیہ کے اور مطابق تعداد بیکے بعد دیگرے آنے والے فکروں کے اور مطابق

الْأَجْسَامِ وَالْجَوَاهِرِ وَعَدَدَ تَعَاقُبِ الدَّلَائِلِ وَالْأَخْبَارِ

اجسام و جواہر کے اعداد کے اور مطابق تعداد بیکے بعد دیگرے آنے والے دلائل اور خبروں کے

وَعَدَدَ الْأَفْوَاهِ وَالصُّدُورِ وَعَدَدَ الْأَصَابِعِ وَالْأَظْفَارِ

اور مطابق تعداد مومنوں اور سینوں کے مطابق تعداد انگلیوں کے اور تاخنوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْحُرُوفِ وَالنَّقْطِ وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر مطابق تعداد حروف اور نقطوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ تَعَاقُبِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق اعداد

الْوَسَائِدِ وَالْأَوْهَامِ وَالشُّكُوكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

وسوسوں اور اوہام و شکوک کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الظُّنُونِ وَ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد گمانوں اور خیالوں کے

الْخِيَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَشْبَاحِ وَالْأَرْوَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر مطابق تعداد اجسام اور ارواح کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْعُقُولِ وَالْعُلُومِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد عقول اور علموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

عَدَدَ الرَّءُوسِ وَالْوُجُوهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مطابق تعداد سروں کے اور چہروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَذَانِ وَالْعَيُونِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد کانوں اور آنکھوں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

الْأَنْوْفِ وَالشِّفَاهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ناکوں اور ہونٹوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر مطابق تعداد ہاتھوں اور پاؤں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقُلُوبِ وَ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد دلوں اور

الْأَضْدَاعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پسلیوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل



مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْعِظَامِ وَالْأُظْلَافِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

محمد پر مطابق تعداد ہڈیوں اور کھڑوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَصْوَافِ وَ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد اون کی تاروں کے

الْأَرْيَاشِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور پروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْعُشُورِ وَالْأَوْبَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

آل محمد پر مطابق تعداد پرندوں کے شہیروں اور اونٹوں کے بالوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

الْجُسُومِ وَالْأَعْضَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

اجسام اور اعضاء کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْبُطُونِ وَمَا حَوَتْ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد پیٹوں کے اور وہ جن پر محیط ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

عَدَدَ الْعُرُوقِ وَالْمَسَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

مطابق تعداد رگوں اور مساموں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَلْسِنِ وَالْأَسْنَانِ

محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد زبانوں اور دانتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَبْصَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر مطابق تعداد کانوں اور آنکھوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

الْحَبِّ وَالتَّوَاتُؤَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ہر دانہ اور ہر گٹھلی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْبُدُورِ وَالرُّهُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آل محمد پر مطابق تعداد بیجوں اور پھولوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

الْفَوَاكِهِ وَالتَّمَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

میوہ جات اور پھلوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّفِّ وَالْمَعَادِنِ اللَّهُمَّ

اور آل محمد پر مطابق تعداد سیپیوں اور کانوں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد

مَكَائِيلِ الْمِيَاهِ وَمَنَاقِيْلِ الْجِبَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پانیوں کے پیمانوں اور پہاڑوں کی مقداروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا صَلَّى عَلَيْهِ الْبَصَلُونَ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق تعداد ان کے جنہوں نے درود بھیجا ان پر

مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ مِنْ أَوَّلِ الدَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ

افلاکیوں اور ارضیوں سے ابتداء زمانہ سے انتہاء تک

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ الْمُصَلُّونَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَأَوَّانٍ

پر مطابق تعداد ان کے جنہوں نے درود بھیجا ان پر زمانہ اور ہر آن میں

وَوَقْتٍ وَشَهْرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور ہر وقت اور ہر مہینہ میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا صَلَّيْتُ الْمُصَلُّونَ فِي كُلِّ شَهْرٍ

آل محمد پر مطابق تعداد ان درودوں کے جو بھیجے صلوٰۃ بھیجنے والوں نے ہر مہینے

وَجُمُعَةٍ وَيَوْمٍ وَلَيْلٍ وَسَاعَةٍ مُقَرَّبًا رَسُولًا إِلَى رَحْمَةِ

اور ہفتے اور ہر روز و شب اور ہر ساعت میں، ہمیں قریب کرنے والے رسول پر طرف

اللَّهُ تَعَالَى مِائَةَ أَلْفِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَسَلَامٍ عَلَى رَسُولِهِ

اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کروڑوں درود و سلام ہوں، اللہ کے رسول مصطفیٰ پر

الْمُصْطَفَىٰ وَحَبِيبِهِ الْمُجْتَبَىٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى

اور حبیب مجتبیٰ پر صلوٰۃ و رحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی

آلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل پر اور اہل بیت و اصحاب پر اور سلامتی نازل فرمائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر مطابق ان اشیاء کے جن کا احاطہ کیا تیرے علم نے

وَجَرَىٰ بِهِ قَلَمُكَ وَسَبَقَتْ بِهِ مَشِيَّتُكَ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ

اور جاری ہوا ان کے ساتھ تیرا قلم قدرت اور سابق ہوئی ساتھ ان کے تیری مشیت اور صلوٰۃ بھیجی ان پر

مَلَائِكَتُكَ صَلَاةً دَائِمَةً بَدَاؤًا بِكَ بِفَضْلِكَ

تیرے ملائکہ نے ایسی صلوٰۃ جو دائم ہو تیرے دوام کے مطابق۔ باقی ہو تیرے فضل



وَإِحْسَانِكَ إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِ أَبَدًا إِلَّا نَهَايَةَ لَا بَدِيَّتِهِ وَلَا فَنَاءَ

واحسان کی بدولت ابد الابد تک جس کی ابدیت کی انتہاء نہیں ہے اور نہیں فنا و اختتام اس

لَدَيْهِ وَمِيَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کے دوام کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ

آل محمد پر مطابق تعداد ان کے جنہیں احاطہ کیا تیرے علم نے اور جمع کر رکھا ہے تیری کتاب محفوظ

وَشَرِهَاتٍ بِهِ مَلَائِكَتُكَ وَأَرْضٍ عَنْ أَصْحَابِهِ وَارْحَمِ أُمَّتَهُ

نے اور گواہی دی ان کی تیرے ملائکہ نے اور راضی ہو ان کے اصحاب سے اور رحم فرما ان کی امت پر

إِنَّكَ حَبِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بیشک تو لائق تائیں اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَنْتُمْ وَأَجْهَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ

نبی اُمّی پر اور ان کی ازواج پر جو مومنوں کی مائیں ہیں اور اولاد و ذریت اور اہل

بَيْتِهِ صَلَوَةٌ وَسَلَامٌ مَّا لَا يُحْطَى عَدَدُهَا وَلَا يُقْطَعُ مَدَدُهَا

بیت پر ایسی صلوٰۃ و تسبیح کہ نہ شمار کئے جا سکیں اعداد ان کے اور نہ ختم ہو سکے تسلسل ان کا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جیسے کرتے صلوٰۃ و رحمت نازل فرمائی سیدنا ابراہیم پر اور برکتیں نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ

اور آپ کی آل اطہار پر جیسے برکتیں نازل کیں سیدنا ابراہیم پر تمام جہانوں میں

إِنَّكَ حَبِيدٌ مَجِيدٌ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَرِزْقَتِهِ

بیشک تو ہمیشہ کے لیے لائق حمد اور بزرگی والا ہے، مطابق تعداد تیری مخلوق کے اور رضائے ذات کے اور مطابق

عَرْشِكَ وَمَدَادَ كَلِمَتِكَ وَعَدَدَ مَا ذَكَرَكَ بِهِ خَلْقَكَ فِي

عرش اعظم کی مقدار اور کلمات کی سیاہی کے اور مطابق تعداد ان اذکار کے جو کئے تیری تمام مخلوق نے

مَا مَضَى وَعَدَدَ مَا هُمْ ذَاكِرُونَكَ بِهِ فِي مَا بَقِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ

گزرے دور میں اور مطابق ان کے جو ذکر کریں گے بقیہ زمانہ میں ہر سال

وَشَهْرٍ وَجُمُعَةٍ وَيَوْمٍ وَكَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ مِّنَ السَّاعَاتِ وَشَيْءٍ

اور ہر مہینہ اور ہر ہفتہ اور ہر روز و شب میں اور ہر ساعت میں ساعتوں میں سے اور ہر سو گنتے

وَنَفْسٍ وَطَرْفَةِ وَكَلِمَةٍ مِّنَ الْآبِدِ إِلَى الْآبِدِ وَأَبَادِ الدُّنْيَا وَ

اور سانس لینے اور آنکھ بھینکنے اور نظر کرنے کی مقدار ازل سے اب تک اور دنیا کے دوام اور

أَبَادِ الْآخِرَةِ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَا يَنْقُطُ أَوْلَهُ وَلَا يَنْفَدُ آخِرُهُ

آخرت کے دوام تک اور اس سے بھی اکثر و زائد کہ نہ منقطع ہو اس کی ابتداء اور نہ اختتام پذیر ہو اس کا آخر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر

عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَشَهِدَتْ بِهِ

مطابق تعداد ان اشیاء کے جن کا احاطہ کیا تیرے علم نے اور جمع کیا ہمیں تیری کتاب محفوظ نے اور گواہی دی اس کی

مَلَائِكَتُكَ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ تَدُومُ رِبْدًا وَ إِمْرًا مُلْكُ اللَّهِ اللَّهُمَّ

تیرے ملائکہ نے ایسی صلوات جو دائم ہو مطابق دوام ملک الہی کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر ایسی صلوات

دَائِمَةٌ عَلَى الْآبِدِ غَيْرُ مُضْمَلَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَوَةٌ

جو دائم ہو اب تک بغیر ضنعت اور کمزوری و سستی کے۔ صلوات و رحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر

يَتَجَدَّدُ بِهَا حُبُورَةٌ وَيُشْرَفُ بِهَا فِي الْبُعَادِ بَعْتُهُ وَنَشُورَةٌ

کرتازہ ہو ساتھ اس کے حسن و جمال ان کا اور شرف و عظمت اس کی بدولت محشر میں اٹھنا اور موجود ہونا ان کا



فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الْأَنْجُمِ الطَّوَالِجِ صَلَوةً تَجُودُ عَلَيْهِمْ

پس صلوٰۃ ورحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی چمکتے ستاروں جیسی آل پر ایسی صلوٰۃ کرے ان پر

أَجُودَ الْغُيُوثِ الْهُوَامِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ فِي كُلِّ مَحْفِلٍ

مانند عمدہ ترین برسنے والی بارشوں کے۔ صلوٰۃ ورحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر ہر محفل اور

وَمَقَامٍ أَفْضَلِ الصَّلَوةِ وَالسَّلَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

ہر مقام میں افضل ترین صلوٰۃ اور سلام۔ صلوٰۃ ورحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل

عَوْدًا وَبَدَأَ صَلَوةً تَكُونُ ذَخِيرَةً وَوَرْدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

انتہاء وابتداء میں ایسی صلوٰۃ جو ہو ذخیرہ اور گھاٹ۔ صلوٰۃ رحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر

وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَوةً تَامَّةً ذَاكِيَةً وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

اور ان کی آل پر کامل و پاکیزہ صلوٰۃ۔ اور صلوٰۃ ورحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر

صَلَوةً يَتَّبِعُهَا سَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَيَعْقِبُهَا مَغْفِرَةٌ وَسُرُضَوَانٌ

ایسی صلوٰۃ کہ جس کے پیچھے ہو راحت اور جنتی نعمتیں اور پیچھے ہو اس کے مغفرت اور رضائے الہی

اللَّهُمَّ أَنْتَ وَقَفَّتِي وَعَلَىٰ بَابِكَ أَوْقَفْتَنِي وَجَعَلْتَنِي دَاعِي

اے اللہ تو نے مجھے توفیق دی اور اپنے در پر کھڑا کیا اور بنایا تو نے مجھے بلانے والا اپنے

عِبَادِكَ إِلَيْكَ وَذُ اللّٰهُمَّ بِفَضْلِكَ وَعَلَيْكَ وَحُزْنِي إِنْ

بندوں کا تیری طرف ازرے محبت کے۔ اے اللہ ساتھ اپنے فضل کے اور اے حزن و ملال میرے

أَوْصَلْتَهُمْ وَقَطَعْتَنِي وَيَا أَسْفَىٰ إِنْ مَنَحْتَهُمْ وَحَرَمْتَنِي

اگر تو انہیں وصل بخشے اور مجھے الگ کر دے اور اے افسوس میرا اگر تو ان کو نوازے اور مجھے محروم کرے

وَيَا نَدَىٰ إِنْ قَبِلْتَهُمْ وَطَرَدْتَنِي إِلَهِي وَعِزَّتِي وَ

اور اے ندامت میری اگر انہیں قبول کرے اور مجھے دھنکار دے۔ اے میرے الا قسم ہے تیری عزت و

جَلَالِكَ قَدْ عَلِمْتُ أَنِّي لَا أَصْلَحُ لِخِدْمَتِكَ وَلَا أَنَا أَهْلٌ

جلال کی میں نے جان لیا کہ میں لائق نہیں تیری خدمت و طاعت کے اور نہ قابل ہوں تیری



لِخِدْمَاتِكَ وَلَا أَنَا مُحْسِبٌ مِّنْ أَهْلِ وَدَادِكَ لِكَثْرَةِ عِيُونِي

طاہرات و عبادات کے اور نہ ہی میں شمار کیا جا سکتا ہوں تیری محبت والوں سے بسبب کثرت عیون و نقائص کے

الْخَافِيَةِ مِنْ عِبَادِكَ لِكَيْتِي رَأَيْتُ مِنْ عَادَةِ الْمُقْصِرِ الَّذِي

جو پوشیدہ ہیں تیرے بندوں سے لیکن میں نے دیکھا کہ کوتاہی و تقصیر والوں کی عادات سے ہے جن کے لیے

لَا حُجَّةَ لَهُ وَالْمُقَرِّطِ الَّذِي لَا عُدْرَةَ لَهُ وَالْعَبْدَ الْأَبِيحُ عَنْ سَيِّدِهِ

کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہوتا اور کوتاہی و تقریط والے جن کے لیے کوئی عذر نہیں اور بھلے ہوئے غلام اپنے مولیٰ سے

إِذَا أَرَادَ الْمَعَاوِدَةَ إِلَى سَيِّدِهِ وَاسْتَدْرَاكَ أَمْرَهُ وَيَخَافُ غَضَبَهُ

جب ارادہ کریں اپنے آقا کی طرف رجوع کا اور تلافی امر کا اور خوف زدہ ہوں آقا کے غضب سے

وَيَخْشَى طُرْدَهُ يَأْتِي مَعَهُ بِذِي جَاهٍ يَتَوَجَّهُ لَهُ عِنْدَ الْإِلَهِيِّ

اور ڈرتے ہوں اس کے دھتکارنے سے وہ لائے ہیں اپنے ساتھ ایسے عزت و جاہ والے کو جو انہیں حاضر کرے آقا کے

وَإِنْ أَكْ مَطْرُودًا فَهَبْ لِي لِمَنْ قَبْلَتَهُ وَإِنْ أَكْ مَحْرُومًا فَتَصَدَّقْ

پاس لے میرے اللہ اگر میں دھتکارا ہوا ہوں تو مجھے ہمہ فرما اسے جس کو تو نے قبول فرمایا اور اگر میں محروم ہوں تو مجھے صدقہ

بْنِي عَلَى مَنْ رَحِمْتَهُ وَلَا تَجْعَلْنِي كَالْقَوْسِ الَّذِي دَفَعَ السَّهْمَ

فرما اس پر جو تیری رحمت سے مشرف ہے اور مجھے نہ بنا مانند کمان کے جس نے تیر کو پھینکا

فَمَرَّ السَّهْمُ وَلَمْ يَبْرَحْ وَكَابِرَةَ الَّتِي كَمَتُ غَيْرَهَا وَهِيَ عُرْيَانَةٌ

پس تیر گزر گیا (منزل مقصود پر پہنچ گیا) اور وہ وہیں رہ گئی۔ اور نہ مانند سوئی کے جس نے دو سروں کو پہنایا اور خود برہنہ رہی

وَكَالشَّمْعِ الَّتِي أَضَاءَتْ لِلنَّاسِ بِأَحْرَاقِ نَفْسِهَا الْإِلَهِيِّ

اور نہ مانند شمع کے جس نے لوگوں کو روشنی مہیا کی اپنے آپ کو جلا کر - لے میرے اللہ

مِنْ عَادَةِ الْكَرِيمِ إِذَا دَعَى النَّاسَ إِلَى كَرَامَتِهِ بِوَلِيْمَتِهِ أَنَّهُ

کریم و سخی کی عادت ہے کہ جب لوگوں کو بلائے اپنے جود و کرم کی طرف دعوت و ولیمہ کے ساتھ تو اسے

يَسْتَحْيِي أَنْ يَرُدَّ طَفِيلِيًّا وَسَهْمٌ مُسْكِينًا وَأَنْتَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ

آتی ہے اس سے کہ ٹوائے طفیل کو اور جھڑک دے مسکین کو اور تو سب جود و کرم والوں سے بزرگترین ہے



لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ جَلَّ رَجِّيُّ إِدْحَمُّ لِي يَا مُعِينُ وَلَسُنَّ صَبْرِي يَا مَنْ

نہیں معبود برحق مگر تو جلیل القدر ہے میرا رب رحم فرما میرے لیے اے مددگار اور واسطے اہل صبر کے۔ اے کہ

يَنْصُرُ بِنَصْرِهِ ضَعْفَاءَ اللَّهِ إِلَهِي مَا أَحْلَمَكَ عَلَى مَنْ عَمَّاكَ

مدد فرماتا ہے اپنی مخصوص نصرت کے ساتھ ضعیفوں اور ناتوانوں کی۔ اے میرے الٰہ تو کتنا حلیم ہے نافرمانی برداروں کے حق میں

وَمَا أَقْرَبَكَ مِمَّنْ دَعَاكَ وَمَا أَعْطَفَكَ عَلَى مَنْ سَأَلَكَ وَمَا

اور تو کتنا ہی قریب ہے اپنے دعا کرنے والوں سے اور تو کتنا مہربان ہے اپنے سوال کرنے والوں پر اور تو کس قدر

أَرْأَفَكَ بِمَنْ أَمَلَكَ مِنْ ذَا الَّذِي سَأَلَكَ فَحَرَمْتَهُ أَوْ الْجَاءُ

رافت و مہربانی والا ہے اپنے امیدواروں پر کون ہے جس نے تجھ سے سوال کیا پس تو نے اسے محروم رکھا یا تیری طرف

إِلَيْكَ فَأَهْمَلْتَهُ أَوْ تَقَرَّبَ مِنْكَ فَأَبْعَدْتَهُ أَوْ هَرَبَ إِلَيْكَ

سہارا لیا پس تو نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑا یا تیرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی پس تو نے اسے دور کیا یا تیری طرف

فَتَرَدْتَهُ فَلَكَ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ إِلَهِي غَلَقْتَ الْمُلُوكُ أَبْوَابَهَا

بھاگا پس تو نے اس کو راند دیا پس تو ہی مالک ہے خلق اور امر کا۔ اے میرے الٰہ بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے

وَبَابِكَ مَفْتُوحٌ لِّلسَّائِلِينَ إِلَهِي غَارَتِ النُّجُومُ وَنَامَتِ

اور تیرا دروازہ کھلا ہے سوالیوں کے لیے۔ اے میرے الٰہ ستارے ڈوب چکے اور آنکھیں

الْعَيُونَ وَأَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَّذِي لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

سو گئیں اور تو وہ ہی و قیوم ہے کہ تجھے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ ہی نیند

إِلَهِي فَرَشْتَ الْفُرُشُ وَخَلَا كُلُّ حَبِيبٍ بِحَبِيبِهِ وَأَنْتَ

الٰہی بچھوئے بچھائے جا چکے ہیں اور ہر حبیب اپنے حبیب کے ساتھ خلوت میں ہے اور تو

حَبِيبٌ الْمُجْتَهِدِينَ وَأَنْبِئِ الْمَسْتَوْحِشِينَ إِلَهِي إِنْ

حبیب ہے مجاہدہ و ریاضت والوں کا اور انیس ہے وحشت زدگان کا۔ الٰہی اگر

ظَرَدْتَنِي عَنْ بَابِكَ فَالِي بَابٍ مَنْ أَلْتَجِي إِلَهِي إِنْ قَطَعْتَنِي

تو نے راند دیا مجھ سے تو میں کس کے در کا سہارا لوں گا؟ الٰہی اگر تو مجھ سے الگ کرنے



عَنْ جَنَابِكَ فَإِلَى جَنَابٍ مَنْ أُرْتَجَى إِلَهِي إِنْ عَذَّبْتَنِي فَإِنِّي

تو میں کس کی بارگاہ سے امید رکھوں ؟ الہی اگر تو مجھے عذاب دے تو یقیناً میں

مُسْتَحِقٌّ لِلْعَذَابِ وَالنَّقْمِ وَإِنْ عَفَوْتَنِي فَأَنْتَ أَهْلُ الْجُودِ وَ

مستحق ہوں عذاب و انتقام کا اور اگر معاف کرے تو تو جود و کرم

الْكَرَمِ يَا سَيِّدِي لَكَ أَخْلَصَ الْعَارِفُونَ وَبِفَضْلِكَ نَجِي

والا ہے اے میرے آقا تیرے لیے مخلص ہیں اہل عرفان اور تیرے فضل سے ہی نجات پائی

الصَّالِحُونَ وَبِعُفْرَانِكَ أَنْابَ الْمُقْصِرُونَ يَا جَمِيلَ الْعَفْوِ

صالحین نے اور تیری مغفرت کی طرف ہی رجوع کیا ارباب تقصیر نے۔ اے خوبتر عفو کے

أَذَقْنِي بَرْدَ عَفْوِكَ وَحِلَاوَةَ مَغْفِرَتِكَ وَإِنْ لَمْ أَكْ لِدَلِّكَ

مجھے چکھا اپنی عفو و درگزر کی ٹھنڈک اور مغفرت کی مٹھاس، اگرچہ اس کا سزاوار نہیں ہوں

أَهْلًا فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ إِلَهِي عَمَّ قَدَمُكَ

مگر تو تر تقویٰ کے لائق اور مغفرت کا مالک ہے۔ اے میرے الہ مجھ سے تیری شان قدی

حَدَّثَنِي فَلَا أَنَا وَأَشْرَقَ سُلْطَانُ نُورٍ وَجْهَكَ فَأَصْأءَ

میرے صورت کو پس میں معدوم و نیست ہوں اور جگمگا یا تیری ذات کا نور غالب پس اس نے روشن کر دیا

هَيْكَلٍ بَشَرِيَّتِي وَلَا سِوَاكَ فَمَا دَامَ مِثِّي فَبَدَا أَمْرُكَ وَمَا

میرے بشری ڈھانچے کو اور نہیں غیر تیرا موجود و متحقق پس جو باقی ہے مجھ سے تو وہ صرف تیرے دوام سے

فَنِي عَنِّي فَبِرُؤْيِيَّتِي إِيَّايَ وَأَنْتَ الدَّائِمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

ہے اور جو فنا ہوا مجھ سے تو بسبب میرے دیکھنے سے اپنے آپ کو اور تو ہی دائم ہے نہیں مسموم برحق مگر تو

إِلَهِي وَسَيِّدِي وَسَنْدِي أَيْ بَابٍ أَقْصَدُ غَيْرَ بَابِكَ

اے میرے الہ اور میرے آقا اور میرے سہارے میں کس در کا قصد کروں سوائے تیرے در کے

يَا سُلْطَانَ السَّلَاطِينِ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَسَنْدِي أَيْ

اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے میرے الہ۔ میرے آقا اور میرے سہارے میں کس



جَنَابِ اتَّوَجَّهُ إِلَيْهِ غَيْرَ جَنَابِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

بارگاہ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہوں سوائے تیری بارگاہ کے اے ارحم الراحمین۔

إِلَهِي وَسَيِّدِي وَسَنْدِي أَيْ أَعْتَابِ أَتَشَرَّفُ بِهَا

اے میرے اللہ۔ میرے آقا اور میرے سہارے کوئی چوکھٹ کے ساتھ شرف حاصل کروں

غَيْرَ أَعْتَابِكَ يَا سُرُورَ الْعَابِدِينَ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَ

سوائے تیری چوکھٹ کے اے عبادت گزاروں کے سرور۔ اے میرے اللہ۔ میرے آقا اور

سَنْدِي أَنْتَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

میرے سہارے تو ہی بلند شان، دائمی عظمت والہے جس کے بغیر کوئی قوت و طاقت

إِلَّا بِكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَسَنْدِي

نہیں۔ اے فریادیوں کے فریاد رس۔ اے میرے اللہ۔ میرے آقا اور میرے سہارے

إِلَى مَنْ أَقْصَدُ وَأَنْتَ الْمَقْصُودُ يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ

میں کس کا قصد کروں جبکہ میرا مقصود صرف تو ہے اے رب الارباب

بِكَ أَسْتَعِيْثُ فَأَعِثْنِي وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَكَفِّنِي

صرف تیری ہی مدد طلب کرتا ہوں پس میری املاؤں پر اور میں نے تجھی پر توکل کیا پس مجھے کفایت فرما

يَا كَافِيَّ أَكْفِنِي الْمُهَمَّاتِ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اے کفایت کرنے والے میری کفایت فرما تمام مہمات و مشکلات میں امور دنیا سے ہیں یا امور آخرت سے

وَيَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَسَرَحِيمَ الْآخِرَةِ وَيَا رَحِيمَهُمَا

اے دنیا میں مومن و کافر پر رحمت کرنے والے اور آخرت میں مومنین پر خصوصی رحمت والے اور لے دنیا و آخرت میں حرم

وَأَنَا عَبْدُكَ بِبَابِكَ فَقِيرُكَ بِبَابِكَ سَأَلْتُكَ بِبَابِكَ

مہربان میں تیرا بندہ تیرے در پر حاضر ہوں۔ تیرا فقیر تیرے در پر ہے، تیرا سوالی تیرے در پر ہے

ذَلِيلُكَ بِبَابِكَ أَسِيرُكَ بِبَابِكَ مُسْكِينُكَ بِبَابِكَ

عبد ذلیل و عاجز در پر حاضر ہے۔ تیرا قیدی تیرے در پر ہے۔ تیرا مسکین تیرے در پر ہے



ضَعِيفُكَ بِبَابِكَ ضَيْفُكَ بِبَابِكَ الظَّالِمُ بِبَابِكَ

تیرا بندہ ضعیف تیرے در پر ہے۔ تیرا مہمان تیرے در پر ہے۔ بدکار تیرے در پر حاضر ہے

يَاغِيَاثُ الْمُسْتَغِيثِينَ مَهْهُومُكَ بِبَابِكَ يَا كَاشِفُ

اے فریادوں کے فریاد رس۔ تیرا غمزدہ تیرے در پر ہے۔ اے دور کرنے والے

كُرْبِ الْمَكْرُوبِينَ عَاصِيكَ بِبَابِكَ يَا طَالِبَ الْبَارِّينَ

دکھیوں کے دکھ۔ تیرا عامی تیرے در پر ہے اے نیکوکاروں کے طالب

الْمُقْرَّبِ بِبَابِكَ الْخَاطِئِ بِبَابِكَ يَا غَافِرَ الْمُدْنِبِينَ

اقراری مجرم تیرے در پر ہے۔ خطا کار تیرے در پر ہے اے گناہگاروں کو بخشنے والے

الْمُعْتَرِفِ بِبَابِكَ الظَّالِمِ بِبَابِكَ الْمُسِيئِ بِبَابِكَ

اعتراف جرم کرنے والا تیرے در پر حاضر ہے۔ ظالم نفس تیرے در ہے۔ خطا کار تیرے در پر حاضر ہے

الْبَائِسِ بِبَابِكَ الْخَاشِعِ بِبَابِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

شدنزل اور سختیوں میں گھرا ہوا تیرے در پر ہے۔ خشوع کرنے والا تیرے در پر ہے اے رب العالمین

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ طَرَا إِلَهَ الْآهَوَاتِ

نہ عبادت کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کی۔ نہیں معبود برحق مگر وہی

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ طَلَّهُ الْحُكْمُ

بہر شئی ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے اسی کیلئے ہے حکم

وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ

اور اسی کی طرف تم لوٹانے جاؤ گے

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۚ اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۚ وَلَمْ

فرما دیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ

يُولَدُ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ۚ

وہ خود جنا گیا اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہمسر اور مماثل



بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الشَّامِلِ
كَمِيلِينَ بَانَ مَعْتَا اَقْرَبَانَ فِضْلِ
اَلْمُفَصَّلِ اَعْلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلْسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْحَمَهُمُ اللَّهُ

ایزدمشان تحفہ عجایب و ہدیہ غرائب الی اللہ
مقبول بارگاہ شاہ نوین حضرت محمد رسول اللہ
مسکتی بہ

مجموعۃ السؤل

المجلد السابع والعشرون ۲۰

فِي قَرْبِهِ وَقَرْبَتِهِ ﷺ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَارْحَمَهُمُ اللَّهُ

حضرت خواجہ نوجگان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِقُرْبِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفیل بسم اللہ الرحمن کے قرب کے اور

بِقَرَابَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِوَصِيْلَةِ بِسْمِ اللّٰهِ

بطفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرابت کے اور بطفیل بسم اللہ الرحمن

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ

الرحیم کے وصل و اتصال کے۔ حمد تمام اللہ کے لیے ہے جو پرورش کرنے والا ہے تمام جہانوں کی، غایت محبت

الرَّحِیْمِ مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ

والا مہربان ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے ان صفات کمال والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے توفیق و استطاعت طلب کرتے ہیں

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ الصِّرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ

چلا ہمیں راہ راست پر راہ ان کی جن پر تو نے انعام

عَلَيْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ

فرمایا نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ قِیَوْمِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِیْنَ

تمام تر حمد اللہ رب العالمین کے لیے، جو برپا رکھنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا

مُدَبِّرِ الْخَلٰقِ اَجْمَعِیْنَ مُنَوِّرِ الْبَصٰئِرِ الْعٰرِفِیْنَ بِنُوْرِهِ

تدبیر اور انتظام فرمانے والا ہے، تمام مخلوقات کا روشن کرنے والا ہے عاقلوں کی چشمائے بصیرت کو ساتھ

اَلْمَعْرِفَةِ وَالْیَقِیْنِ جَاذِبِ اَسْرَارِ الْمَحْقِقِیْنَ بِجَذَبِ

معرفت و یقین کے نور کے، کھینچنے والا ہے اہل تحقیق کے اسرار کی لگاموں کو

اَلْقُرْبِ وَالتَّمَكِّیْنَ فَاتِحِ اَقْفَالِ قُلُوْبِ الْمُوْحِدِیْنَ

قرب کے اور جگہ متما کرنے والے جذب و کشش کے ساتھ، کھولنے والا ہے اہل توحید کے دلوں کے تالے

بِمَفَاتِيحِ حَمْدِ الشَّاكِرِينَ ط أَحْمَدًا حَمْدًا يَفُوقُ وَيَفْضُلُ

ساتھ شکر گزاروں کی حمد والی جابیوں کے، میں اس کی ایسی حمد کرتا ہوں جو فائق اور افضل

وَيَعْلُوا جَلَّةً وَأَفْضَلَةً وَأَكْمَلَةً حَمْدَ الْحَامِدِينَ حَمْدًا

اور برتر ہو جلیل تر اور افضل اور اکمل حمد حامدین سے ایسی حمد کہ

يَكُونُ لَنَا فِيهِ رِضًا وَفَوْزًا وَذُخْرًا وَحِفْظًا وَحِرْزًا عِنْدَ

ہو ہمارے لیے اس میں رضامندی اور کامیابی اور ذخیرہ ثواب اور سامان حفظ و امان ہو نزدیک

خَالِقِي وَخَالِقِ الْأَقَالِيمِ وَالْأَمْطَارِ وَالْأَبْصَارِ

میرے خالق کے اور تمام ولایتوں اور جہات و جانبوں اور بارشوں اور آنکھوں

وَالْأَفْلاكِ وَالْأَمْلاكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ رَبِّ

اور آسمانوں اور فرشتوں کے خالق رب العالمین کے نزدیک جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے

الْأُولَى وَالْآخِرِينَ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَدَّرِينَ أَجْمَعِينَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ

اولین و آخرین کا رب ہے تمام مقرب ملائکہ کا، غایت رحمت والا، مہربان ہے

الَّذِي الْقَدِيمَ السَّمِيعَ الْعَلِيمَ الْحَلِيمَ الْكَرِيمَ الْعَلِيمَ الْعَظِيمَ

ابتداء سے پاک، قدیم - سُننے والا، جاننے والا، بردبار، صاحب جود و کرم، علیم، عظیم،

الْمُقْتَدِرَ الْحَلِيمَ الَّذِي دَحَى الْأَقَالِيمَ وَاخْتَصَّ مُوسَى

صاحب اقتدار بردبار جس نے پھیلایا ولایتوں کو اور مخصوص ٹھہرایا حضرت موسیٰ

الْكَلِيمَ بِالتَّكْلِيمِ وَاخْتَارَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کلیم کو ساتھ ہمکلامی کے اور چن لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ بِالْقَلْبِ

کو تمام انبیاء و مرسلین میں سے ساتھ رحیم دل کے۔

الرَّحِيمِ وَأَحْيَى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمَةٌ وَسَلَّى نَفْسَهُ

اور زندہ فرمایا ہڈیوں کو جبکہ وہ گلی سڑی ہیں اور اپنا نام رکھا ساتھ



بِاسْمَيْنِ الرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ فَهُمَا اسْمَانِ رَحِيمَانِ

دو اسموں رحمان اور رحیم کے - پس وہ دونوں نام رحمت والے

كَرِيمَانِ شَرِيفَانِ جَلِيلَانِ وَهُمَا شِفَاءٌ لِّكُلِّ ذَلِيلٍ وَ

کرامت و بزرگی والے اور شریف و جلیل ہیں اور وہ دونوں سراسر شفا ہیں واسطے ہرزیل

سَقِيمٍ وَدَوَاءٌ لِّكُلِّ عَدِيلٍ وَ أَلِيمٍ وَغِنَاءٌ لِّكُلِّ فَقِيرٍ

اور بیمار کے اور دوا ہیں واسطے ہر بیمار اور درد مند کے اور سراسر غنا ہیں واسطے ہر فقیر کے

وَعَدِيمٍ مَالِكَ يَوْمَ الدِّينِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي مَلِكِهِ

اور مفلس کے - مالک ہے روز جزا کا جس کے لیے اس کے ملک میں

مُنَازَعَةٌ وَلَا قَرِينٌ وَلَا مُشَارِكٌ وَلَا كَفِيلٌ وَلَا وَرَثَةٌ وَلَا

کوئی جھگڑانے والا اور ساتھی اور حصہ دار نہیں اور نہ ضامن اور نہ ہاتھ بٹانے والا اور نہ

مُنَازِرَةٌ وَلَا مُدَبِّرٌ مُشِيرٌ وَلَا ظَهِيرٌ وَلَا مُعِينٌ بَلْ كَانَ قَبْلَ

نکران اور نہ مدبر اور صلاح کار اور نہ معاون و مددگار بلکہ وہ موجود تھا

وَجُودِ الْعَالَمِينَ أَجْمَعِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ

تمام جہانوں کے موجود ہونے سے پہلے، نہیں کوئی معبود برحق مگر تو اے جلالت اور

الْأَكْرَامِ طَسُبْحَنَهُ وَتَعَالَى قِيَوْمًا أَبَدًا أَبَدِينَ وَدَهْرُ

بزرگی کے مالک - وہ پاک ہے اور برتر، برپا رکھنے والا ہے (سب مخلوقات کو) ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اور سزا

الدَّاهِرِينَ فَهُوَ أَحَاطَنِي مِنْ جَمِيعِ الشَّيْطَانِ وَالسَّلَاطِينِ

اور ہر دور میں بغیر انتہاء کے پس اسی نے مجھے اپنی پناہ کے احاطے میں لیا ہے تمام شیطان اور سلاطین سے

وَعَوَّقَنِي عَنْ جَمِيعِ الْأَقْرَبِينَ وَالْأَبْعَدِينَ وَحَجَبَنِي

اور مجھے روکھا ہے تمام قریب ترین اور بعید ترین سے اور مجھے حجاب و پردہ میں رکھا ہے

عَنْ جَمِيعِ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفِينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

تمام مختلف اجناس سے یعنی تمام جنوں اور انسانوں سے۔

أَجْبَعِينَ وَوَجَّهْنِي إِلَىٰ جِهَاتِ الْمُتَّقِينَ ۖ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

اور مجھے توجہ کی ہے اہل تقویٰ کی جانبوں اور سمتوں کی طرف۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھی سے

نَسْتَعِينُ ۖ يَا مَوْلَانَا إِيَّاكَ نَعْبُدُ بِإِذْنِكَ وَأَعْتَرِفُ لَكَ بِالتَّقْصِيرِ

توفیق و استطاعت طلب کرتے ہیں، اے ہمارے مولیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ساتھ اقرار کے اور اعتراف کرتے ہیں

وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنَسْتَعِينُ بِكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَجْلُ مِنْ

تیرے حضور کو تائیدوں کا اور تیرے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں اور ہم شرمندہ ہیں

جَمِيعِ الذُّنُوبِ وَنَتُوبُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ

تمام گناہوں سے اور توبہ کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ نہیں معبود برحق مگر تو اکیلا، نہیں شریک تیرا

لَكَ وَلَا ضِدَّ لَكَ وَلَا شَبَهَ لَكَ وَلَا مِثْلَ لَكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

اور نہ مخالف اور نہ مشابہ اور نہ مماثل تیرا۔ اور نہیں معبود برحق سوائے تیرے

وَسُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۖ وَأَنْتَ هَدَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَكَ

تو پاک ہے نہیں معبود برحق مگر توجہ ہمیشہ قائم و ثابت، آشکار ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کریم تیرے عبد خاص

وَرَسُولِكَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ الْآمِينُ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ كَافَّةِ الْخَلْقِ

اور رسول ہیں جو صادق و امین رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں طرف ساری

أَجْمَعِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ إِلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

مخلوقات کے صلوات و رحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر جو طیب و طاہر ہیں

وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ السَّادَاتِ الْأَكْرَمِينَ وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

اور آپ کے اصحاب پر جو بزرگ سردار ہیں اور تمام انبیاء و مرسلین پر

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نَسْتَعِينُ بِكَ عَلَىٰ طَاعَتِكَ يَا اللَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ

اور تجھی سے طلب کرتے ہیں توفیق تیری طاعت کی اے اللہ اور ہر حاجت پر

حَاجَةٍ وَأَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَالذُّنُوبِ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

اور ہر امر کی امور دین سے ہو یا اور گناہوں سے، چلا ہمیں راہ راست پر

هُم أَهْلُ الْإِسْتِقَامَةِ وَالتَّقْوِيمِ صِرَاطِ أَهْلِ الْإِخْلَاصِ وَالتَّسْلِيمِ

(وہ راہ ہے ان کی) جراتقامت اور درستگی والے ہیں، راستہ مخلصوں اور تسلیم ورضا والوں کا

صِرَاطِ الرَّاعِبِينَ إِلَى جَدَّتِ التَّعِيمِ صِرَاطِ الْمُشْتَاقِينَ إِلَى

راستہ اہل رغبت کا طرف جنات نعیم کے، راستہ شوق رکھنے والوں کا طرف

وَجْهَكَ الْكَرِيمِ صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ

تیری ذات کریم کے۔ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا یعنی انبیاء و

الصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ مَرْفِيقًا

صدیقین اور شہداء و صالحین کا اور اچھے ہیں وہ بطور رفیق کے

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا نَسْأَلُكَ يَا رَبُّ أَنْ

وہ اللہ کا فضل ہے اور کافی ہے اللہ بطور علیم ہونے کے، سوال کرتے ہیں تجھ سے اے رب کریم

تَنْعَمَ عَلَيَّ بِرِضَاكَ وَيَا مَالِكَ الْعَالَمِينَ أَجْمَعِينَ لَا إِلَهَ

کہ انعام فرمائے مجھ پر اپنی رضامندی والا۔ اور اے مالک تمام جہان والوں کی گردنوں کے، میں معبود ہر حق

إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

مگر تو، تری پاک ہے۔ بیشک میں ہوں ظالموں سے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے

أَنْ تَفْتَحَ لِي طَرِيقَ مَعْرِفَةِ اسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَقْدَمِ الْقَدِيمِ

کہ واضح فرمائے مجھ پر راستہ اپنے اسم اعظم کی معرفت کا جو اسم کہ عظیم، سب سے مقدم، قدیم

الْأَكْرَمِ الْكَرِيمِ الْمَخْرُوجِ الْمَكْنُونِ الْأَوَّلِ الْآخِرِ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ

کرامت والا، بزرگتر، خزانہ خاص میں محفوظ، خلائق سے مستور ہے، تو اول، آخر، ظاہر، باطن سے

الْفَرْدِ الْوَحْدِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ وَتُوصلني به إلى جميع مطالبى وتيسر

یکتا۔ یگانہ، حی، قیوم ہے، اور پہنچائے تو مجھے بسبب اس کے میرے تمام مطالب تک اور آسان فرما

لي به أسباب طاعتك وتفرجني به في سعة ملكك الأكبر و

میرے لیے اپنی طاعت کے اسباب اور سیر کرائے مجھے بطفیل اس کے اپنے بڑے وسیع ملک اور

تَمْلِكُنِي بِهِ نَاصِيَةٌ كُلِّ ذِي رُوحٍ وَنَاصِيَةٌ كُلِّ شَيْءٍ بِإِيدِكَ وَ

مالک بنا دے اس کی بدولت ہر ذی روح کی پیشانی کا اور ہر اس شئی کی پیشانی کا جو تیرے قبضے میں ہے اور

تُنَجِّنِي بِهِ مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبِكَ وَتُبَاعِدُنِي بِهِ بَيْنَ

نجات دے مجھے اپنے غضب کے اسباب موجبہ سے اور دوری پیدا فرمائے بطیفیل اس کے میرے اور اپنے

مَعَاصِيكَ يَا اللَّهُ أَدْرِكُنِي بِلُطْفِكَ يَا اللَّهُ نَجِّنَا مِمَّا نَخَافُ غَيْرَ

معاصی کے درمیان، اے اللہ میرا احاطہ فرما ساتھ اپنے لطف و کرم کے۔ اے اللہ ہمیں نجات دے ہر اس شئی سے جس

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اٰمِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

سے ہم خوفزدہ ہیں۔ نہ وہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہ آمین۔ اے اللہ صلوات و رحمت نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ يَا مُخَاطَبُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر صلوات ان کی جنہیں خطاب کیا گیا ساتھ اس قول باری تعالیٰ کے

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

ہر وہ جو روئے زمین پر ہے فنا پذیر ہے اور باقی رہے گا ذات تیرے رب کی جو جلال و اکرام والا ہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کو

خُصَّ بِالْقُرْبِ وَالْقَرَابَةِ فِي الْاَسْرَاءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مخصوص ٹھہرایا گیا ساتھ قرب اور وصل کے شبہ اسرار میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَنْ

فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "جو شخص

جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرًا مِّثْلَهَا اَوْ اَزِيدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ

نیکی کرے تو اس کے لیے اس سے دس گنا ہے بلکہ اس سے بھی زائد اور جو برائی کرے

فِجْزَاءٍ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا اَوْ اَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِدْرًا

تو برائی کی جزاء ہے اسی کی مثل برائی یا میں بخش دوں گا اور جس نے قریب ہونے کی کوشش کی مجھ سے ایک بالشت کی مقدار

تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا

تو میں قریب ہوں گا اس کے ایک ہاتھ اور جو میرے قریب ہوگا ہاتھ پھر تو میں قریب ہوں گا اس کے ایک کلاوہ یعنی دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ

وَمَنْ أَتَانِي يَمِينِي أَتَيْتَهُ هَرُولَهُ وَمَنْ لَقِيَنِي بِقِرَابِ الْأَرْضِ

اور سینہ کی مقدار اور جو آئے میرے پاس چلنا ہوا اول گامیں اس کے قریب دوڑنا ہوا اور جو مجھ سے ملاقات کرے گا روئے زمین کی مقدار

خَطِيئَةٌ ثُمَّ لَا يَشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيْتَهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةٌ وَأَعْطَانِي رُتْبَةً

گنہوں کے ساتھ پھر نہیں شریک ٹھہرانا ہوگا ساتھ میرے کسی کو تو میں ملاقات کروں گا اس کی اتنی ہی مقدار مغفرت کے ساتھ اور عطا فرماؤں گے

بِقُرْبِ الْأَبْدَالِ وَالْأَوْتَادِ بِرَبِّ الْعِبَادِ وَصَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

مرتبہ ابدال و اوتاد کے قرب والا ساتھ رب العباد کے اور صلوات رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہیں

خُصَّ بِالْقُرْبِ فِي الْأَسْرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

مخصوص ٹھہرایا گیا شب اسرار میں ساتھ قرب خاص کے۔ اے اللہ صلوات رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو سوار

رَكِبَ رَفْرَفَ الْعُلَى طَلِبًا مِّنَ الْقُرْبِ لِلْمَوْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا

ہوئے بلند و بالا رفرف پر قرب مولا کی طلب میں۔ اے اللہ صلوات رحمت نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَّبَ إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا

محمد پر جو قریب ہوئے کمان کے دو سروں کی مقدار بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ اے اللہ صلوات رحمت نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَّبَهُ اللَّهُ نَجِيًّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

محمد پر جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے قریب کیا ہمکلامی اور سرگوشی کی حالت میں۔ اے اللہ صلوات رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہیں

أَجْلَسَهُ اللَّهُ فِي مَجْلِسِ الْحُبِّ وَأَحَلَّهُ مَحَلَّ الْقُرْبِ اللَّهُمَّ

اللہ تعالیٰ نے بٹھایا محبوبیت کی سند پر اور آٹھارا انہیں اپنے مقام قرب میں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ عِنْدَ اخْتِصَامِ

صلوات رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن پر اللہ تعالیٰ نے ثنا فرمائی ساتھ اس قول کے وقت محض فرمانے ساتھ اپنے

بِقُرْبِهِ أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

قرب کے ایمان لے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اس کے جو ان پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔ اے اللہ صلوات رحمت نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخَاطَبِ بِقَوْلِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ فَاسْتَسْبِكَ

فرما سیدنا محمد پر جو مخاطب ہیں اللہ علی و عظیم کے اس قول کے "پس چنگل مارو

بِالَّذِي أَوْحَى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

ساتھ اس کے جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف، بیشک آپ صراط مستقیم پر ہو" اے اللہ صلوٰۃ و رحمت

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِكَ دَائِمَةً بِدَوَامِ أَنْعَامِكَ وَإِكْرَامِكَ

نازل فرما سیدنا محمد پر ایسی صلوٰۃ جو دائم ہو تیرے ان پر انعام و اکرام کے دوام کے مطابق۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِكَ بَاقِيَةً بِبِقَاءِ مُلْكِكَ

اے اللہ صلوٰۃ و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ باقی رہے تیرے بقاؤں ملک کے مطابق۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِكَ دَائِمَةً بِدَوَامِ قُدْرَتِكَ

اے اللہ صلوٰۃ و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ دائم ہو تیرے دوام قدرت کے مطابق۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِكَ بَاقِيَةً بِبِقَاءِ مَشِيَّتِكَ

اے اللہ صلوٰۃ و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ باقی رہے تیری بقاؤں مشیت کے مطابق۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِكَ دَائِمَةً بِدَوَامِ عَرْشِكَ

اے اللہ صلوٰۃ و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ دائم ہو تیرے دوام عرش کے مطابق۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِكَ بَاقِيَةً بِبِقَاءِ بَطْنِكَ

اے اللہ صلوٰۃ و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ باقی رہے تیری گرفت و مواخذہ کی بقاؤں تک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِكَ بَاقِيَةً بِبِقَاءِ مَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ

اے اللہ صلوٰۃ و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ باقی رہے تیری مغفرت و رحمت کی بقاؤں تک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِكَ دَائِمَةً بِدَوَامِ عِزَّتِكَ وَعَظَمَتِكَ

اے اللہ صلوٰۃ و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ دائم ہو تیری عزت و عظمت کے دوام تک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِكَ بَاقِيَةً بِبِقَاءِ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ

اے اللہ صلوٰۃ و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ باقی رہے تیرے امر و نہی کی بقاؤں تک



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً دَائِمَةً بِدَوَامِ رَأْفَتِكَ وَسَطْوَتِكَ

اے اللہ صلوات و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات دائم ہو تیری رافت اور غلبہ کے دوام تک۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً دَائِمَةً بِدَوَامِ إِعْلَانِكَ وَكِبْرِيَاكَ

اے اللہ صلوات و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو دائم ہو تیری برتری اور کبریائی کے دوام کے مطابق

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً بَاقِيَةً بِبَقَاءِ بَقَائِكَ وَفَنَاءِ

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات باقی رہے تیری بقاء بقائے بقائے بقائے اور فنا

فَنَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً دَائِمَةً بِدَوَامِ

الفناء کے مطابق۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات دائم ہو تیرے جلال و

جَلَالِكَ وَجَمَالِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً بَاقِيَةً

جمال کے دوام تک۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات باقی رہے

بِإِقْبَاءِ كَمَالِكَ وَوَصَالِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

تیرے کمال و وصال کی بقاء تک۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات

دَائِمَةً بِدَوَامِ إِتْبَاعِكَ وَإِرْتِفَاعِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دائم ہو تیری اتباع و اطاعت اور رفعت کے دوام تک۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً بَاقِيَةً بِبَقَاءِ نَبِيِّكَ وَإِعْطَائِكَ وَجَمِيلِ إِصْطِنَاعِكَ

محمد پر جو صلوات باقی رہے تیری عظیم عطا اور تیرے احسان جمیل کی بقاء کے مطابق

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً دَائِمَةً بِدَوَامِ كَرَامَتِكَ وَ

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات دائم ہو تیری بزرگی اور فضل و رحمت کے دوام

فَضْلِ رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً بَاقِيَةً بِبَقَاءِ

کے مطابق۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات باقی ہو تیری نعمت

نِعْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً دَائِمَةً

اور رحمت کی بقاء کے مطابق۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات دائم ہو



بَدَاوَامِ ذِكْرِكَ وَفِكْرِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً

تیرے ذکر و فکر کے دوام کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ

بَاقِيَةً بِبِقَاءِ شُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

باقی رہے تیرے شکر اور حسین عبادت کے باقی رہنے تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً دَائِمَةً بَدَاوَامِ نَاسُوتِكَ وَجَبْرُوتِكَ

سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ دائم ہو تیرے عالم اجسام اور صفات سلبیہ و قہریہ کے دوام تک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً بَاقِيَةً بِبِقَاءِ مَلَكُوتِكَ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ باقی رہے تیرے عالم روحانیت

وَهَا هَوَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً دَائِمَةً بَدَاوَامِ

اور عالم مجردات کی بقا تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ دائم ہو

التَّكْوِينِ وَالتَّمْكِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً بَاقِيَةً

تخلیق اور تمکین کے دوام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ باقی رہے

بِقَاءِ أَهْلِ عِلِّيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً دَائِمَةً

اہل علیین کی بقا کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو دائم ہو رحمن

بَدَاوَامِ رِضْوَانِ الرَّحْمَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً

کے دوام رضاء تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ

بَاقِيَةً بِبِقَاءِ رِضْوَانِ خَازِنِ الْجَنَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

باقی رہے جنتوں کے نگران رضوان کی بقا تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوَةً دَائِمَةً بَدَاوَامِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ

محمد پر جو صلوٰۃ ہو ساتھ دوام ہر شب و روز کے اور جنت و دوزخ کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةً بَاقِيَةً بِبِقَاءِ سِتْرِ السَّتَارِ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو باقی رہے ستار کے ستر و پردہ دینے

وَمَغْفِرَةِ الْغَفَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً بَدَاوَامِ

اور غفار کی مغفرت کی بقا تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ دائم ہو

أَبَدًا أَبَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً بَاقِيَةً بِبَقَاءِ الْوَيْدِ

ابدالاً بابد کے دوام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ باقی رہے تا ابد فرمانے والے

الْمُؤَيَّدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً بَدَاوَامِ النَّعِيمِ

صاحب تزیین کی بقا تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ پائیدار نعمتوں کے

الْمُقِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً بَاقِيَةً بِبَقَاءِ الْقُرْآنِ

دوام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ باقی رہے قرآن

الْكَرِيمِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً بَدَاوَامِ

کریم و عظیم کی بقا تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ دائم ہو وضاحت و

أَرْيَاحِ الْإِتِّصَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً بَاقِيَةً بِبَقَاءِ

روشنی کی ہواؤں کے دوام کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ باقی ہو فلاح و

أَرْوَاحِ الْفَلَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً بَدَاوَامِ

کامرانی کی راحتوں کی بقا کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ دائم ہو

السُّرُورِ وَالْأَنْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً بَاقِيَةً

سرور و انس کے دوام کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ باقی رہے

بِبَقَاءِ خَطَايَا الْقُدْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً

بارگاہ قدس کے اہم مقامات کی بقا تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ

دَائِمَةً بَدَاوَامِ نُورِ النُّورِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً

دائم ہو نور کامل کے دوام کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ

بَاقِيَةً بِبَقَاءِ بَيْتِ الْمَعْمُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

باقی رہے بیت المعمور کی بقا تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر



صَلَوَاتُ دَائِمَةٍ بِدَاوَامِ حُكْمِ الْإِلَهِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو صلوٰۃ دائم ہو حکم الہی کے دوام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوَاتُ بَاقِيَةٍ بِبِقَاءِ الْأَمْرِ الرَّبَّانِيِّ وَالتَّوَاهِيِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

جو صلوٰۃ باقی رہے ربانی اوامر و تواہی کی بقا تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ دَائِمَةٍ بِدَاوَامِ الدَّهْرِ وَالذَّيْهُورِ الدَّوَامِ

سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ دائم ہو دہر کے دوام تک اور دہرواے کے دوام تک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ بَاقِيَةٍ بِبِقَاءِ الْعَرْشِ وَحَمَلَةِ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ باقی رہے عرش اور عرش کے اٹھانے والے

الْعَرْشِ الْكَرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ دَائِمَةٍ بِدَاوَامِ

بزرگ فرشتوں کی بقا تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ دائم ہو ساتھ دوام

التَّكْرَارِ إِلَى يَوْمِ الْقِصَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ

تکرار کے۔ انتہاء کے تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ

بَاقِيَةٍ بِبِقَاءِ الْأَبْرَارِ بِدَاوَامِ الْقَرَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

باقی ہے تمام نیکو کاروں کی بقا تک و اقرار یعنی جنت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ دَائِمَةٍ بِدَاوَامِ بَقَاءِ مَا لَا يَفْنَى اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر جو صلوٰۃ دائم مطابق دوام و بقا ان اشیاء کے جو فنا نہیں ہوں گی۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ بَاقِيَةٍ بِبِقَاءِ الْمَجْدِ وَالشَّانِ

نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ باقی رہے مجد و شان اور

التَّوْبِ وَالسَّنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ دَائِمَةٍ

نور و ضیاء کی بقا تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوٰۃ دائم ہو

بِدَاوَامِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

آسمان سے نازل شدہ کتابوں کے دوام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا



مَحَمَّدٍ صَلَوَاتُهُ بِأَقْيَسَ بَقَاءِ الْحَسَنَاتِ الْمُتَقَبَّلَةِ وَالِدُّعَاءِ

محمد پر جو صلوات باقی رہے مقبول نیکیوں اور دعاؤں کی بقاء تک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتَهُ دَائِمَةً بَدَاوَامِ الضِّيَاءِ وَ

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات باقی رہے ضیاء اور نور

الْبَهَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتَهُ بِأَقْيَسَ بَقَاءِ سِدْرَةِ

کے دوام تک۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات باقی رہے سدرہ

الْمُنْتَهَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتَهُ دَائِمَةً بَدَاوَامِ

المنتهی کی بقاء تک۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات دائم ہو مطابق

الْمَحْفُوظِ وَالْمَفْخَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتَهُ بِأَقْيَسَ

لطف اندوز ہونے والوں اور تعظیم والوں کے دوام کے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات باقی ہو

بِقَاءِ اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ وَالْقَلَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لوح محفوظ اور قلم کی بقاء تک۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوَاتَهُ دَائِمَةً بَدَاوَامِ السُّرُورِ وَالرِّضَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

جو صلوات دائم ہو سرور ورضا کے دوام تک۔ اے اللہ صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتَهُ بِأَقْيَسَ بَقَاءِ دُرَّةِ الْبَيْضَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سیدنا محمد پر جو صلوات باقی رہے درۂ بیضاء اور جو محمدی کی بقاء تک۔ اے اللہ صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتَهُ دَائِمَةً بَدَاوَامِ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر جو صلوات دائم ہو اجر و ثواب کے دوام کے مطابق۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتَهُ بِأَقْيَسَ بَقَاءِ طُوبَى وَحُسْنِ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات باقی رہے جنت کے شجر طوبی اور حسین

مَا بِاللَّهِمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتَهُ دَائِمَةً إِلَى يَوْمِ

مقام و مرجع کے دوام و بقاء تک۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات دائم ہو پیشی والے دن



الْعَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً بَاقِيَةً بِنِقَاءِ

تک۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات باقی ہو مطابق بقاء و دوام

كُرْسِيِّكَ الَّذِي وَسِعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

تیری کرسی کے جو محیط ہے تمام آسمانوں اور زمینوں کو۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً دَائِمَةً بِدَوَامِ رُتَبِ الْكَمَالِ وَالْبَعَالِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

محمد پر جو صلوات دائم ہو مراتب کمال اور بلند درجات کے دوام تک۔ اے اللہ صلوات نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً بَاقِيَةً بِنِقَاءِ حُجُبِ الْجَدَالِ وَالْجَمَالِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر جو صلوات باقی رہے جلال و جمال کے حجابات کی بقا تک۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً دَائِمَةً بِدَوَامِ رَغْبَةِ الْمَطْلُوبِ وَالْمَرْغُوبِ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات دائم ہو مطلوب و مرغوب کی رغبت کے دوام تک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً بَاقِيَةً بِنِقَاءِ حُبِّ الْحَبِّ وَالْمُحِبِّ

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات باقی ہو محبت اور محب اور محبوب کے

وَالْمُحَبُّوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً دَائِمَةً بِدَوَامِ الْحُبِّ

باہمی تعلق محبت کی بقا تک۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات دائم ہو حب فی اللہ

فِي اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً بَاقِيَةً بِنِقَاءِ الْمَوَدَّةِ لِلَّهِ

کی بقا تک۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات باقی ہو اللہ تعالیٰ کی خاطر بقا مودت تک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً دَائِمَةً بِدَوَامِ الْمَقَادِبَةِ فِي

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات دائم ہو مطابق دائم ہونے قرب و نزویگی کے

سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً بَاقِيَةً بِنِقَاءِ

راہ خداوند تعالیٰ میں۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات دائم ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ

الْمُصَاحِبَةِ مَعَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً دَائِمَةً

مصاحبت کے دوام تک۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات دائم ہو



بَدَاوَامِ صِبْغَةِ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اللَّهُمَّ صَلِّ

اللہ تعالیٰ کے زینت ایمان و عرفان سے مزین کرتے رہنے تک اور کون ہے اللہ تعالیٰ جیسا حسین زین زینت بخش لے اللہ صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً بَاقِيَةً بِبَقَاءِ رِضَى اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا

نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات باقی ہو جیتک باقی رہے رضاء اللہ تعالیٰ کی اپنے مقبولان بارگاہ سے اور ان کی رضا

عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اللہ تعالیٰ سے اور یہ عظیم شان ہے اس کا جو اپنے رب تعالیٰ سے ڈرا۔ لے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو صلوات

دَائِمَةً بَدَاوَامٍ وَدَادِ الْوُدُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو دائم رہے اللہ ودود کی مودت و محبت کے دوام تک۔ لے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر

صَلَوةً بَاقِيَةً بِبَقَاءِ الْمَلِكِ الْمَعْبُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

جو صلوات باقی رہے شہنشاہ و معبود کی بقا کے ساتھ۔ لے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَوةً دَائِمَةً بَدَاوَامِ كَلِمَاتِ اللَّهِ وَصَلَوةً بَاقِيَةً

محمد پر جو صلوات دائم ہو اللہ کے کلمات کے دوام تک اور جو صلوات باقی رہے

بِبَقَاءِ ذَاتِ اللَّهِ مِنْ مَّظْهَرِ نُورِ الْأَسْنَى وَقُرْبِ قَابِ قَوْسَيْنِ

ساتھ بقائے ذات باری تعالیٰ کے (کہ نظر نہیں اس کے تجلیات) اپنے نور انوار کے مظہر اور قاب قوسین

أَوْ أَدْنَى اللَّهِ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ادنیٰ کے قرب والی ذات سے۔ لے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

كُنْزِ الدَّاخِرِ وَالْكَاشِفِ لِكُلِّ عِلَّةٍ وَنَهَايَةِ أَعْمَالِ الصَّالِحِينَ

جو محبوب بھر پور خزانہ ہیں (معارف النہید اور جملہ انعامات کا) اور دور کرنے والے ہیں ہر بیماری کے اور منتہی ہیں صالحین کے اعمال کا

وَعَايَةِ رَغْبَةِ الرَّاعِبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور منتہی ہیں اہل رغبت کی رغبت کا۔ لے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَلَكَ بِهِ أَدَمٌ فَتَجِي وَكُلُّ رُسُلِكَ إِلَيْهِ

کی آل اطہار پر جس محبوب کے توسل سے تجھ سے سوال کیا حضرت آدم نے پس نجات پائی اور تیرے تمام مرسلین نے ان کی

قَدْ التَّجَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پناہ لی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

سَعِيدِ السُّعَدَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جو سب اہل سعادت سے زیادہ سعادتمند ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الْحَبْلِ الْمُبْتَدَى بَيْنَكَ وَبَيْنَ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جو لٹکانی ہوئی رسی ہیں تیرے اور تیری مخلوق کے درمیان (تیری ذات تک رسائی کے لیے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَرْدِ الْإِحْاطَاتِ وَالْكَمَالَاتِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو یکتا ہیں احاطہ (علوم و معارف میں) اور کمالات

وَالنَّهَائِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

و نہایت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ رَوْضِ الْعِلْمِ الْخَصِيبِ وَمُظْهِرِ سِرِّ الْقَوْلِ الْمُصِيبِ

پر جو سرسبز و شاداب باغ ہیں علم کا اور منظر راز ہیں صبح و صورت قول کا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

مَنْ لَّا حَرْفِيهِ وَعَلَيْهِ كَلَامُكَ الْقَدِيمُ وَظَهَرَ فِيهِ نُورُ سِرِّكَ

جس محبوب میں اور ان پر ظاہر ہوا تیرا کلام قدیم اور ظاہر ہوا ان میں تیرے راز مخفی کا

الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نور عظیم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

الَّذِي فَضَلَتْ تَرْبَتُهُ عَلَى الْعَرْشِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کہ محبوب کے خاک کف پا کو تو نے فضیلت دی عرش اعظم پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَّبْتَهُ مِنْ عَرْكِكَ وَ

محمد پر اور آل محمد پر جنہیں تو نے قریب فرمایا اپنی بارگاہ عزت اور

قُدْسِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تقدس کے لئے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ نُورِكَ الْأَعْظَمِ وَجَمَالِكَ الْأَكْرَمِ وَكَمَالِكَ الْأَقْدَمِ وَرَوْ

پر جو محبوب تیرے عظیم تر نور اور محکم ترین جمال اور قدیم ترین کمال مجسم اور

صِرَاطِكَ الْأَقْوَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

راست ترین راہ ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقْسَمْتَ بِهِ لِعَظَمَتِهِ وَشَرَفَتِهِ فِي

آل محمد پر جس محبوب کی تو نے قسم اٹھائی بسبب ان کی تعظیم کے اور تو نے انہیں مشرف فرمایا

ذَلِكَ بِوَصْفِ ذَلِكَ لِسَيِّدَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اس وصف و خوبی کے ساتھ ان کی سیادت کی وجہ سے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَفْرَدْتَهُ لَكَ فَانْفَرَدُوا

محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کو تو نے اپنی ذات کے لیے منفرد ٹھہرایا پس وہ منفرد ہو گئے اور

وَحَدَّتَهُ فَتَوَحَّدَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

انہیں یکتا بنا یا پس وہ یکتا ہو گئے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُشْرِقِ الْبُورِطِنِ وَالظُّوَاهِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی آل اطہار پر جن کے باطنی کیفیات اور ظاہری حالات روشن ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَفِيضِ عَلَى الْوَارِدِينَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب فیض رسالہ ہیں تیری طرف وارد ہونے والوں

إِلَيْكَ وَالْمُهَيِّدِ لِلْوَأَصِلِينَ إِلَى حَضْرَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے لیے اور معاون ہیں تیری بارگاہ تک واصل ہونے والوں کے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَلَأَ نُورَهُ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کے نور نے معمور کر دیا ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آسمانوں اور زمینوں کو اور درمیانی فضاء کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَحَاطَ بِعِلْمِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب نے احاطہ فرمایا اولین و آخرین کے علم کا

وَتَحَقَّقَ بِحَقَائِقِ الْعُرْفَانِ وَالْيَقِينِ وَتَمَّ قَبْلَ مَظَاهِرِ

اور موصوف ہو گئے عرفان و یقین کے حقائق کے ساتھ اور تمام و کامل ہو گئے تمام مظاہر

التَّكْوِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

تخلیق سے قبل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ نَهَايَةَ الْأَمْدَادِ وَالْإِمْدَادِ وَكِفَايَةَ الْأَسْعَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر جو کہ انتہاء ہیں مددوں کی اور امداد کی اور سراپا کفایت ہیں نیک نجاتیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اهْتَدَىٰ بِهِ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے ساتھ ہدایت پائی

السَّائِرُونَ وَاسْتُرُّ شِدْبَهُ الْمُسْتُرُّ شِدْوُنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

راہ روئوں نے اور رشد و بھلائی حاصل کی اس کے طلبگاروں نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَحِمْتَ الْعَالَمَ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ جس محبوب کی بدولت رحم فرمایا تو نے تمام عالم پر

بِسَبَبِهِ وَأَعْلَيْتَ الصِّدِّيقِينَ بِهِ لِشُهُودِ شَرِيفِ رُتْبِهِ اللَّهُمَّ

اور بلند ہی عطا فرمائی ان کے طفیل صدیقین کو ان کے اعلیٰ مراتب کے دیدار کے لیے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب نے

أَحَقَّ الْحَقَّ وَأَبْطَلَ الْبَاطِلَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حق کو ثابت فرمایا اور باطل کو نیست و نابود فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام فرما سیدنا محمد پر



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَشَقَّقَتْ لَهُ مِنْ إِسْمِكَ لِيُنْفِرَ

اور آل محمد پر جس محبوب کا ترنے اپنے اسم گرامی سے اسم مبارک مشتق فرمایا تاکہ منقردو

عَنِ الْأَوَّخِرِ وَالْأَوَّلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

متناز ہو جائیں تمام آخرین و اولین سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ هَذَا الْعَالَمِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَأَشْرَفِ

آل محمد پر جو سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں اس عالم کبیر و صغیر میں اور تمام عالم سے اشرف

وَأَجَلِهِ فِي سَائِرِ التَّقَادِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور اہل ہیں تمام پہلوؤں اور صفات میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الذَّاتِ الْعُظْمَىٰ وَمُكَمَّلِ أَهْلِ التُّورِ

آپ کی آل اطہار پر جو محبوب عظیم تر ذات ہیں اور کامل نور والوں کی تکمیل

الْأَسْنَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَطْبِ دَائِرَةِ الْعُلَمَاءِ وَصَفْوَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ

پر جو محبوب قطب ہیں تمام جہانوں کے دائرہ کے اور چنے ہوئے ہیں تمام دنیا و آخرت والوں سے اور

الدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اہل دین سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ وَارِثِ الْوِلَايَةِ الْكُبْرَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر جو محبوب ولایت کبریٰ کے وارث ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَيْتِ الْمَشْهُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

آل محمد پر جو مشاہدہ کئے ہوئے راز ہیں (ارباب باطن کے)۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكُوْثَرِ الْجَارِيِّ وَالتُّورِ السَّارِيِّ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو جاری اور رواں کوثر ہیں اور ہر شئی میں سرایت کرنے والے نور ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سُلْطَانِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو سلطان ہیں

الْبَدَايَاتِ وَالنِّهَايَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تمام ابتداؤں اور انتہاؤں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَحَدِكُمْ كُلِّ عَالِمٍ وَمُحَمَّدٌ كُلِّ مَقَامٍ مِّنْ خَلْقِ

آپ کی آل پر جو ہر عالم میں سب سے زیادہ حامل ہیں اور بہت زیادہ حمد کئے ہوئے ہر مقام میں تخلیق آدم

أَدَمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

علیہ السلام سے (بندگ) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

جَامِعِ الْقُرْآنِ الْمُتَّصِفِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ فِي كُلِّ إِنِّ وَأَوَانِ

جو محبوب قرآن کے جامع اور صفات کمال کے ساتھ متصف ہیں ہر ہر آن میں اور تمام زمانوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

مَنْ أَقْسَبَتْ بِحَيَاتِهِ الدَّائِمَةِ وَعَدَّتْهُ الْقَائِمَةُ اللَّهُمَّ

جن کی حیات دوام کی اور پائیدار عزت کی تو نے قسم اٹھائی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو آغاز نبوت ہیں

الْحَايِمِ الشَّافِعِ الْعَالِمِ عَلَى أَسْرَارِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور اختتام بھی، صاحب شفاعت ہیں اور تیرے اسرار کے عالم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْجَامِعِ الْحَاشِرِ لِأَهْلِ الْخَيْرِ لِلْجَنَّةِ وَ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب جمع کرنے والے ہیں یوم محشر میں اہل خیر کو جنتوں کے لیے اور

لِأَهْلِ الشَّرِّ لِلنَّيْرِ إِنَّ اللَّهَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اہل شر کو آتشہائے دوزخ کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَعْرِفِيهِ مَظْهَرُكَ بِكُلِّ نَرَمَانٍ وَالْقَائِمِ بِكُلِّ مَقَامٍ

کی آل پر کہ جس محبوب میں کامل ہوا ظہور تیرے (کمالات) کا ہر زمانہ میں اور جو قائم ہیں مقام میں

بِكَمَالِ الْأُمَّتَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ساتھ کمال منت و احسان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْخَاتِمِ لِرُسُلِكَ الْكِرَامِ وَالْمُحِيطِ بِمَوَادِّ الْإِنْعَامِ

کی آل پر جو محبوب آخری رسول ہیں تیرے رسل کرام سے (بشت میں) اور محیط ہیں تمام مادہائے انعام کو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل محمد پر

الرَّسُولِ لِلظُّوَاهِرِ بِالْجَمَالِ الْبَشَرِيِّ وَالْإِشْرَاقِ الظُّهُورِيِّ اللَّهُمَّ

جو محبوب رسول ہیں اہل ظاہر کے ایسے جمال بشری اور ظاہری نور و ضیاء کے ساتھ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّسُولِ لِلْبَوَاطِنِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب رسول ہیں اہل باطن اور مخفی

بِالتَّوْبَرِيِّ السِّيَرِيِّ وَالْعَيْشِ الْهَيَبِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مخفی کے ساتھ شان نور کامل کے اور خوشگوار گزران کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشَّاهِدِ عَلَى كُلِّ رَسُولٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب گواہ ہیں ہر رسول کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْلَغِ لِنَهَايَةِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب پہنچانے والے ہیں مطلوب کی انتہا

السُّؤْلِ الَّذِي شَرِهْدَكَ بَعَيْنِ سَأْسِهِ وَخَصَّصَهُ بِذَلِكَ تَمِيْزًا

تہم جس نے تیرا مشاہدہ فرمایا سر کی آنکھ سے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مخصوص ٹھہرایا اس خصوصیت کے ساتھ

لَهُ فِي حَضْرَةِ قُدْسِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنی بارگاہ قدس میں امتیازی شان دینے کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالطُّفُفُ وَمُظَهَّرِ أُمَّتِنَا رَبِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آل محمد پر جو بہت تبسم فرمانے والے ہیں بسبب اس کے لطف و کرم کے اور اس کے احسان کا منظر ہونے کے۔

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعَالِي يَاشْرَاقُ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو بلند و بالا ہیں بسبب روشن ہونے

نُورًا عَلَىٰ صَفَحَاتِ وَجْهِهِ وَثَنًا يَا أَيُّهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

تیرے نور کے ان کے رخساروں اور دانتوں پر۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِسَانَ الْعَاقِبِ لِرُسُلِ الْكِرَامِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو سراپا ذکر ہیں، آخری ہیں تمام رسل کرام سے

فِي الصُّورِ وَالْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِم بِالْمَكَانَةِ وَالْمَكَانِ وَالْمُفَضَّلِ اللَّهُمَّ

صویر و اجسام میں اور مقدم ہیں ان پر مرتبہ و مقام اور فضل و شرف میں۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْخَاتِمِ السُّورِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب آخری ہیں انہیں انبیاء کی رشتہ

وَالْفَاتِحِ لِلْمُقَفَّلَاتِ وَالْقَائِمِ بِحَلِّ الْمَعْضَلَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اور کھولنے والے ہیں مقفل اشیاء کے اور ضامن ہیں حل مشکلات کے کیلئے۔ لے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقِتَالِ لِكُلِّ غَوِيٍّ وَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو جہاد و قتال کرنے والے ہیں واسطے ہر گمراہ کے

الْمُزِيلِ لِكُلِّ دَنِيٍّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور زائل کرنے والے ہیں ہر گھٹیا نصیحت و عادت کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَسَمِ الَّذِي تَمَّ بِهِ كُلُّ ظُهُورٍ وَجَمَعَ كُلَّ نُورٍ اللَّهُمَّ

محمد پر جو محبوب تقسیم کرنے والے ہیں رہبر نعمت کے جن کی بدولت نام و کامل ہوا ہر ظہور اور جنہوں نے جمع کر لیا ہر نور کو لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَاحِي لِظُلَامِ الشِّرْكِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو مٹانے والے ہیں شرک



وَالْأَوْهَامِ وَالشُّكُوكِ وَالْمُؤْصِلِ لِدَارِ السَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور اوہام کے اور شکوک و شبہات کی تاریکیوں کو مٹانے والے اور سلامتی کے مکان رحمت آنکس پہنچانے والے ہیں۔ لے اللہ صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى عَلَى كُلِّ الْأَنْوَامِ وَ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر جو محبوب چنے ہوئے ہیں سب مخلوق سے اور

الْمُبَشِّرِ بِلِقَاءِ الْمَلِكِ الْعَلَامِ وَفَوَاتِحِ الْأَنْعَامِ وَخَوَاتِمِ الْإِسْلَامِ

بشارت دینے والے ہیں اللہ شہنشاہ بہت علم والے کی ملاقات و دیدار کی اور انعامات کے آغاز اور اسلام و اطاعت کے تمغوں

مِنَ السَّلَامِ بِدَارِ السَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کی اللہ سلام کی طرف سے دار سلام (جنت) میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُتَوَكِّلِ بِحَالِهِ وَالْمُظْهِرِ فِي مَقَالِهِ اللَّهُمَّ

آل محمد پر جو محبوب توکل کرنے والے ہیں اپنے حال میں اور اطہار و توضیح فرمانے والے ہیں اپنے کلام میں۔ لے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُقْبِعِ بِقِنَاءِ

اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب اڑھنے والے ہیں نقاب

بِهَاءِ نُورِكَ فِي مُعَالِي مَعَالِمِ ظُهُورِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

تیرے نور کی ضیاء کا تیرے ظہور تام کے بلند مقامات میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الَّذِي أَنْبَأَتْكَ بِكَ فَأَنْبَأْنَا

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس نبی کو تو نے اپنی خبر دی پس اس نے تیری طرف

عَنْكَ وَمَظَاهِرِ ذَاتِكَ وَصِفَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سے خبر دی اور جو کامل مظہر ہیں تیری ذات و صفات کا۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَجْمَعِ الْحَقَائِقِ الْإِلَهِيَّةِ وَ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محل اجتماع ہیں حقائق الہیہ کے اور

عَرْشِ الْأَسْمَاءِ الْحَقِيقَةِ وَالْخَلْقِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عرش ہیں حقیقی اور کائناتی اسماء کے لیے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُحْصَىٰ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اور آل محمد پر جو محبوب احاطہ کرنے والے ہیں ہر شئی کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُقْطَةً تَرْكِيْب حُرُوفِ الْمَوْجُودَاتِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب نقطہ ہیں موجودات کے حروف کی ترکیب کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَقْطَعًا مِّنْ تَعْيِيْنَاتِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو منقطع ہیں تمام تعینات و تخصیصات

وَمَبْدَءِ الْمُبْدَعَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

کا اور مبدعہ ہیں تمام ایجادات کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَفِيْكَ مَنَشَأَ التَّصْوِيْرِ وَالتَّكْوِيْنِ وَالتَّقْدِيْرِ

آل محمد پر جو تیرے پسندیدہ ہیں۔ محل ایجاد ہیں صورت نگری اور تخلیق اور احسن انداز کا۔

وَحَبِيْبِكَ الْقَلَمِ الْأَعْلَىٰ وَالطَّرِيْقِ الْأَجْلَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور تیرے حبیب جو قلم اعلیٰ ہیں اور روشنی ترین راستہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَلِيْلِكَ الرَّتِقِ الْمَفْتُوقِ مِنْهُ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو تیرے خلیل ایسے مبدعہ و مادہ ہیں کہ پھیلائے گئے انہیں سے

جَمِيْعِ الْعَوَالِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

تمام جہان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ حَرْفِ الْأَعْظَمِيَّةِ وَأَصْلِ الْحُرُوفِ الْعَالِيَةِ وَ أَوَّلِ

محمد پر جو محبوب عظمت و بڑائی کا حرف و کلمہ ہیں اور تمام حروف عالیہ کی اصل ہیں اور اولین

التَّعْيِيْنِ فِي الْمُبْدَعَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

نقش قدرت میں موجودات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرُّوحِ الْأَمِيْنِ الْأَعْظَمِ وَأَبِي الْأَمْوَاحِ الْمَعْظَمِ

آل محمد پر جو محبوب عظیم تر روح امین ہیں اور تمام ارواح کی قابل تعظیم اصل ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَبْدَأِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب مبداء ہیں

الْمَحَبَّةِ الْإِلَهِيَّةِ وَمَنْشَأِ الْمَعْرِفَةِ الذَّاكِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اللہ تعالیٰ کی محبت کے اور مقام آغاز ہیں معرفت ذات کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعَقْلِ الْأَوَّلِ وَالتَّوْبِ الْأَكْمَلِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب عقل اول، نور اکمل۔

وَالْإِنْسَانَ الْكَامِلِ وَالْخَلِيفَةَ الْعَادِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

انسان کامل اور خلیفہ عادل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْوَاسِطَةِ الْأَعْظَمِ وَالرَّسُولِ الْأَفْخَمِ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب عظیم واسطہ ہیں (اللہ تعالیٰ اور مخلوقات کے درمیان) اور عظیم الشان رسول کیا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الْفَيْضِ الْإِلَهِيِّ وَالْمِهْدِ الرَّبَّانِيِّ وَالرُّوحِ الْقُدْسِيِّ وَالْمَسْتُورِ

جو محبوب سراپا فیض الہی ہیں اور رب تعالیٰ کی طرف سے مددگار اور مقدس روح اور رحمان جل وعلیٰ کے پوشیدہ

الرَّحْبَانِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

نور ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ مَجْمَعِ الْقَبَضَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پر جو محبوب کراہل اجتماع ہیں اللہ تعالیٰ کی دونوں مٹھیوں میں موجود اشیاء کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَيْسِ أَهْلِ الْيَمِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل محمد پر جو محبوب اہل یمنین (جنتیوں) کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْدَأِ الْفَيَاضِ مِنْ حَضْرَتِهِ إِلَى

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب فیض رسال مبداء و سرچشمہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے



أَهْلٍ عِنَايَتِهِ وَوَاهِبِ الْخُصُوصِيَّاتِ لِأَهْلِ وَلَايَتِهِ اللَّهُمَّ

اس کے اہل عنایت کی طرف اور نخبے والے ہیں خصوصی عطیات اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكَتِيبِ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب ایسے عظیم عنصر وجود (اور طبعاً)

مِنْهُ وَجُودُ كُلِّ مَوْجُودٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ہیں کہ انہیں سے ہے وجود ہر موجود کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَابِ قَوْسَى الْأَسْمَاءِ وَمَجْمَعِ مَظَاهِرِ الذَّاتِ

آل محمد پر جو اسماء الہیہ کی دو قوسوں کے وتر ہیں اور مظاہر ذات کا محل اجتماع ہیں

وَالْأَسْمَاءِ وَالْعَمَاءِ وَالْكَبْرِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور اسماء الہیہ کا اور باریک سفید بادل لامکان والے کا اور شان کبریائی کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَظْهَرِ الْكَزْبِيَّةِ وَمَظَاهِرِ الْوَهْبِيَّةِ

محمد پر اور آل محمد پر جو کذب حقیقی کا منظر ہیں اور محل ظہور ہیں تیری الوہیت

وَالرُّبُوبِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور ربوبیت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَظَاهِرِ اللَّاهُوتِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ اللَّهُمَّ

محمد پر جو کہ منظر ہیں عالم تجرد اور صفات حلال اور عالم روحانیت کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَظَاهِرِ

صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آل محمد پر جو کہ منظر ہیں

الْهُوِيَّةِ وَالْأَحْدِيَّةِ وَالْوَأْحِدِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تشفیق خاص اور احدیت و واحدیت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْإِيَّةِ الْكُبْرَى الْوَأَسْطَةَ الْعُظْمَى

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب عظیم نشانی ہیں۔ عظیم واسطہ ہیں



فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

دُنْيَا وَ آخِرَت میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَخْصُوصِ بِالْبِعْرَاجِ الذَّاتِي اَللَّهُمَّ صَلِّ

آل محمد پر جو محبوب مخصوص ٹھہرائے گئے ہیں جہانی معراج کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَخْصُوصِ بِالْمَشَافَهَةِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو مخصوص ٹھہرائے گئے روبرو و دیدار

وَالْمُكَالِمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا

اور مکالمہ کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الْمَخْصُوصِ بِالنِّيَابَةِ الْعُظْمَى وَالْخِلَافَةِ الْكُبْرَى اللَّهُمَّ

پر جو محبوب مخصوص کئے گئے ساتھ نیابت عظمیٰ اور خلافت کبریٰ کے ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِ السَّامِيِّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو بلند ہونے والا جوہر ہیں

اِلَى كُلِّ حَضْرَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا

طرف ہر بارگاہ کے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ دَائِرَةَ الرَّحْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْهُدَايَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَجَامِعِ السَّبِيلِ

پر جو رحمت الہیہ کا دائرہ ہیں اور ہدایت حقیقیہ کا اور جامع ہیں تمام

الْجَمَالِيَّةِ وَالْجَدَلِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جمالی اور جلالی طریقوں کے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَابِقِ الْخَلْقِ فِي مِصْمَارِ الْقُرْبَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر جو سبقت لے جانے والے ہیں تمام مخلوق سے قرب خداوندی کے میدان میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زَمَامِ طَاعَةِ الرَّبِّ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو رب تعالیٰ کی اطاعت کی باگ ڈور ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدِمَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب

الْعَنَائَةِ وَالتَّوْفِيقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بیش خیمہ ہیں عنایت و توفیق باری تعالیٰ کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَمِينِ الشَّرِيعِ وَالتَّعْلِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر جو دایاں بازو ہیں احکام شرعیہ اور علوم کی اشاعت کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَجْهِ الْوَلَايَةِ وَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو آبرو ہیں ولایت اور

التَّعْرِيفِ وَرُوحِ التَّوْحِيدِ وَالتَّقْرِيدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

معرفت کی اور روح ہیں توحید و تقرب کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ الْمَشَاهِدَةِ وَالتَّفْهِيمِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب قطب ہیں مشاہدہ کے اور افہام و تفہیم کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَالِبِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب قالب و جسم ہیں

الْمَعَانِي وَالْمَعْنَوِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

معانی اور معنوی امور کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْعِنَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ وَشَكْلِ التَّحْمِيدِ


اور آل محمد پر جو محبوب مجسم عنایت الہیہ ہیں اور سراپا تحمید

والتَّحْمِيدِ وَصُورَةِ التَّكْبِيرِ وَالتَّزْيِينِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا

و تحمید ہیں اور تکبیر و تزیینہ کی صورت محسوسہ ہیں۔ اے اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے جو حمد

يُؤَانِي نِعَمَكَ وَيُكَافِي مَزِيدَ كَرَمِكَ أَحْمَدُكَ بِجَمِيعِ مَحَامِدِكَ

مطابق ہو تیری نعمتوں کے اور برابر ہو تیرے مزید کرم کے۔ میں تیری حمد کرتا ہوں تمام محامد کے ساتھ



مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَعَلَىٰ جَمِيعِ نِعَمِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا

جو مجھے معلوم ہیں اور جو معلوم نہیں اور تیری تمام نعمتوں پر جو مجھے معلوم ہیں ان میں سے

وَمَا لَمْ أَعْلَمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

اور جو مجھے معلوم نہیں۔ حمد ہے اللہ کے لیے جس کا عرش اعظم بندوں میں ہے، حمد ہے اللہ کے لیے جس کی

فِي الْأَرْضِ قُدْرَتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فِي الْيَوْمِ فِي الْقِيَامَةِ هَيْبَتُهُ الْحَمْدُ

قدرت (کاظہور) زمین میں ہے۔ حمد ہے اللہ کے لیے جس کی ہیبت (کاظہور) قیامت میں ہے۔ حمد ہے

لِلَّهِ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فِي جَهَنَّمَ سُلْطَانُهُ

اللہ کے لیے کہ جنت میں ہے رحمت اس کی۔ حمد ہے اللہ کی کہ جہنم میں (ظاہر ہے) غالب و تسلط اس کا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بُرْهَانُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فِي الْهَوَاءِ

حمد ہے اللہ کی کہ بر و بحر میں ہے دلیل و برہان اس کی، حمد ہے اللہ کے لیے کہ ہوا میں ہے

وَجْهَةٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فِي الْقَبْرِ قَضَاءُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا فَصِيحٌ

(پر تو اس کی لطافت) ذات کا حمد ہے اللہ کی کہ قبر میں ہے قضا، اس کی۔ حمد ہے اللہ کی کہ نہیں جائے بازگشت

وَلَا مَدْجَاءٌ إِلَّا إِلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

اور جائے پناہ مگر طرف اسی کے۔ حمد ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ حمد ہے اللہ کی جس نے

أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَهَدَانَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَجَنَّبَنَا عَنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ

ہم پر انعام فرمایا اور ہمیں ہدایت دی اسلام کی طرف اور ہمیں بچایا بتوں کی پرستی سے

وَمَنْ عَلَيْنَا بِنَبِيِّهِ وَحَبِيبِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور ہم پر احسان فرمایا ساتھ اپنے نبی و حبیب اور رسول محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْإِيمَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّوْفِيقِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

حمد ہے اللہ کی ایمان (دینے) پر۔ حمد ہے اللہ کی اس کی توفیق پر۔ حمد ہے اللہ کی

عَلَى التَّصَدِيقِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

اس کی (توفیق) تصدیق پر۔ حمد ہے اللہ کی ہر حال پر۔ حمد ہے اللہ کی کہ جس نے



هَذَا أَنَا لِهَذَا أَوْ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ

ہمیں ہدایت دی اس کی اور نہیں ہدایت خود اہل تھے ہدایت پانے کے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا۔ حمد ہے اللہ تعالیٰ

الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ أُمَّةٍ مُّحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَللَّهُمَّ

کی جس نے ہمیں بنایا محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اُمت سے۔ اے اللہ

لَكَ الْحَمْدُ فِي بِلَادِكَ وَصَنِيْعِكَ إِلَى خَلْقِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ فِي

تیرے لیے ہی حمد ہے تیری آزمائش پر اور اپنی مخلوق کے ساتھ اچھے سلوک پر اور تیرے لیے ہی حمد ہے تیری

بِلَادِكَ وَصَنِيْعِكَ إِلَى أَهْلِ يَوْمِنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي بِلَادِكَ

آزمائش پر اور اچھے سلوک پر ہمارے اہل و عیال پر اور تیرے لیے ہی حمد ہے تیری آزمائش پر

وَصَنِيْعِكَ إِلَى أَنْفُسِنَا خَاصَّةً وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا هَدَيْتَنَا وَلَكَ

اور اچھے سلوک پر ہماری ذاتوں کے ساتھ بالخصوص۔ اور تیرے لیے ہی حمد ہے ہدایت دینے پر ہمیں اور تیرے لیے ہی حمد ہے

الْحَمْدُ بِمَا أَكْرَمْتَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا سَتَرْتَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا أَهْلَ

کرامت و بزرگی عطا کرنے پر ہمیں اور تیرے لیے ہی حمد ہے پردہ دینے پر اور ہمارے لیے ہی حمد ہے

وَالْمَالِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْمُعَافَاتِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ وَلَكَ

اہل اور مال کی وجہ سے اور تیرے لیے ہی حمد ہے معافی دینے پر اور تیرے لیے ہی حمد ہے بسبب قرآن عطا کرنے کے

الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ بِأَهْلِ التَّقْوَى وَأَهْلِ

اور تیرے لیے ہی حمد ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو اور تیرے لیے ہی حمد ہے جب تو راضی ہو ساتھ اصل تقویٰ اور اہل

الْمَغْفِرَةِ وَلَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمَوَاتِ وَمِلَأَ الْأَرْضِ

مغفرت کے اور تیرے لیے حمد ہے تمام تر، اور تیرے لیے حمد ہے بمقدار آسمانوں کے اور بمقدار زمین کے

وَمِلَأَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ

اور بمقدار اس کے جو ان کے درمیان ہے۔ اور بمقدار اس کے جو تو چاہے بعد ان کے تو لائق ثناء ہے اور لائق کبریا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ بِجَمِيعِ الْحَامِدِ كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ عَلَى جَمِيعِ

حمد ہے اللہ کے لیے تمام طرح کی حمد کے ساتھ جو مجھے معلوم ہیں اور جو مجھے معلوم نہیں اس کی تمام تر



نَعِيمَهُ كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ عَدَدَ الْخَلَائِقِ كُلِّهِمْ مَا

نعمتوں پر جو ان میں سے میرے علم میں ہیں اور جو میرے علم میں نہیں ہیں مطابق تعداد تمام تر مخلوق کے جو

عَلِمْتُ مِنْهُمْ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ

مجھے معلوم ہے اور جو معلوم نہیں ایسی حمد جو کثیر، پاکیزہ اور مبارک ہو جیسے کہ محبوب رکھتا ہے اور

رَبِّنَا وَيَرْضَى لَكَ الْحَمْدُ يَا رَبَّنَا كَمَا يَتَّبِعُنِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ

پسند فرماتا ہے رب ہمارا۔ تیرے لیے حمد ہے جیسے کہ لائق ہے تیرے جلال ذات اور عظیم غلبہ

سُلْطَانِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِحَمْدِهِ عَلَى حَمْدِهِ وَبِذَاتِهِ لِذَاتِهِ وَبِصِفَاتِهِ

و تسلط کے حمد ہے اللہ کیلئے بطغیل اس کی حمد کے اس کی حمد پر اور بطغیل اس کی ذات کے اس کی ذات کیلئے اور ساتھ اس کی صفات

عَلَى صِفَاتِهِ وَبِفَضْلِهِ عَلَى فَضْلِهِ عَدَدَ حَمْدِهِ وَعَدَدَ الْحَامِدِينَ

کے اس کی صفات پر اور ساتھ اس کے فضل کے اس کے فضل پر مطابق تعداد اس کی حمد کے اور تعداد حامدین کے

وَعَدَدَ غَيْرِ الْحَامِدِينَ وَمَلَأَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمَا فِيهَا وَ

مطابق تعداد حمد نہ کرنے والوں کے اور بمقدار آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کے اور

مَلَأَ السَّمَوَاتِ وَالْقَلَمِ وَمَا فِيهَا وَعَدَدَ الْعَرْشِ وَالْكَرْسِيِّ وَمَا فِيهَا

مطابق لوح محفوظ اور قلم اعلیٰ کے اور جو ان میں ہے اور مطابق عرش و کرسی کے اور جو ان میں ہے

وَمَلَأَ الْجَنَانَ وَمَلَأَ جَمِيعَ الْجَوِّ وَالْمَلَأَ الْأَعْلَى وَالْوَرَى وَعَدَدَ

اور مطابق جنتوں کے اور تمام جو مفضا اور طلاء اعلیٰ اور مخلوقات کے مطابق اور مطابق اس کے

مَا فِي عِلْمِهِ وَعَدَدَ مَا فِيهِمْ وَعَدَدَ مَا يُعَدُّ وَيُكَالُ وَيُوزَنُ

جو اس کے علم میں ہے اور مطابق اس کے جو مخلوقات میں ہے اور مطابق اس کے جو گنا اور ناپا اور وزن کیا جا

بِالْمِثْقَالِ وَالْمِكَائِيلِ وَعَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ أَلْفَ أَلْفِ كَرَّةٍ

کے ساتھ متقاول اور پیمانوں کے اور مطابق ہر ہر ذرہ کے اربوں گنا

فِي كُلِّ أَنْ وَشَانَ وَكَمْحَةٍ وَطَرْفَةٍ وَدَهْرٍ وَسَنَةٍ وَشَهْرٍ وَجُمُعَةٍ

ہر آن اور شان و حال اور ہر لمحہ اور پیک بچھکنے کی دیر میں اور ہر زمانہ اور ہر سال و ماہ اور ہفتہ میں



وَدُوْرٍ وَسَاعَةٍ وَدَقِيْقَةٍ وَثَانِيَةٍ وَعَدَدَ ذَلِكَ أَلْفَ أَلْفِ أَلْفٍ

اور افلاک کی ہر گردش میں اور ہر گھنٹہ - ہر منٹ اور سیکنڈ میں اور مطابق اس کے اربوں کھربوں گنت

أَلْفِ كَرَّةٍ أَضْعَافِ أَضْعَافِ ذَلِكَ حَمْدًا أَيْدِيْقُ

اور اس مقدار کے بھی اصناف در اصناف ایسی حمد جو لائق ہو

لذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ بِتَقْرِيرِ عِبَادِهِ بِحَمْدِهِ مِنْهُ وَإِلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ

اس کے ذات اور صفات کے ساتھ برقرار رکھنے اس کے اپنے بندوں کو اپنی حمد پر اپنی طرف سے اور اپنی طرف

بِعِزَّةِ حَمْدِهِ يَحْمَدُهُ الْحَامِدُونَ وَيَمْدَحُهُ الْمَادِحُونَ بَلَا انْتِهَاءٍ

وہ عزیز و جلیل ہے اپنی حمد کی عزت سے اسی کی حمد کرتے ہیں حامدین اور اسی کی مدح کرتے ہیں مادحین بغیر انتہاء کے

وَلَا أَمْدَلَهُ وَلَا انْقِضَاءَ إِلَى أَبَدٍ أَبَدًا وَحَمْدًا إِذَا بَدَأَ بِكَ

اور حمد و نہایت کے اور نہیں اختتام اس کے لیے ابد الابد تک اور ایسی حمد جو دائم ہے تیرے دوام کے ساتھ

وَبَاقِيًا بِبِقَائِكَ وَحَمْدًا إِلَّا أَمْدَلَهُ دُونَ مَشِيئَتِكَ وَحَمْدًا إِلَّا

اور باقی رہے تیری بقا کے ساتھ اور ایسی حمد کہ نہیں انتہاء اور غایت اس کی بغیر تیری مشیت کے اور ایسی حمد کہ

يَحْمَدُكَ أَحَدٌ وَلَا يُحْمَدُ بِكَ إِلَّا أَنْتَ مِنْكَ لَكَ وَعَدَدَ نِعْمَاتِكَ

کے کوئی شخص اس طرح کی حمد اور نہ حمد کیا جائے ساتھ ایسی حمد کے مگر صرف تو، جو تجھی سے ہو، تیرے ہی لیے ہو اور مطابق ہو

عَلَى خَلْقِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تیری نعمتوں کے اپنی مخلوق پر دنیا اور آخرت میں - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هَيُّوْلى التَّخْلِيْقِ وَالتَّقْطِيْرِ وَمَادَّةِ الْإِبْدَاعِ

محمد پر اور آل محمد پر جو مادہ اولین ہیں تخلیق اور لبط خلقت کا اور مادہ اور جوہر اصلی ہیں

وَالنَّكُوْينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ایجاد اور تکوین کا - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

مُحَمَّدٍ الْإِعْزَّاءِ الْبُهَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پر جو محبوب عزیز تر اور بہت بارونق ہیں - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور



اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِلَّا بَلِيحِ الَّذِي يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ اَللّٰهُمَّ

اَل محمد پر جو چکیلی رنگت والے ہیں جن کی وجاہت و آبرو کے طفیل بارش طلب کی جاتی ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِلَّا رَلَف

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب ایسے الف ہیں

الْجَامِعِ الْمَجَامِعِ وَظَاهِرِ الْخَلْقِ وَيَا طِرْنَ الْحَقِّ وَكَافِ الْمُحِيطِ

جو سب کے ساتھ مجتمع اور متفق ہے اور جو ظاہر کے لحاظ سے مغفوق ہیں اور باطن کے لحاظ سے عین حق ہیں اور کاف کن

بِكُلِّ مَوْجُوْدٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

ہیں جو ہر موجود کو محیط ہے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَقْلَدِ بِاَنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِثْمًا يَبَايِعُوْنَ

محمد پر جو محبوب سہرا پہنائے گئے ہیں ساتھ اس نزل کے " بیشک جو بیعت کرتے ہیں آپ کے ساتھ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بیعت کرتے ہیں۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الْمُنْطِقِ بِمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جس محبوب سے یہ کہلوا یا گیا " نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سزا پر رحمت واسطہ تمام جہانوں کے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبَشِّرِ بِمَا اَرْسَلْنَاكَ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جنہیں بشارت دی گئی ہے کہ " نہیں بھیجا ہم نے آپ کو

اِلَّا كٰفَاةً لِّلنَّاسِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

مگر سب انسانوں کے لیے۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُرْمِلِ بِقَلْبِهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ

اَل محمد پر جو اوڑھے ہوئے ہیں یہ کبیل " فرما دیجئے اے لوگو بیشک میں رسول ہوں اللہ کی طرف

اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

سے تم سب کی طرف۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سے تم سب کی طرف۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُتَرَدِّى بِرِدَائِهِ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

محمد پر جو اوڑھے ہوئے ہیں یہ چادر اور البتہ ضرور عطا کرے گا تمہیں تمہارا رب پس تم راضی ہو جاؤ گے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنْتَهَى

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو سزا پر پیلیمان رکھے

بَلْعَبْرِكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ہوئے ہیں مجھے تیری زندگانی کی قسم بیشک وہ لوگ اپنی مدہوشی میں بھٹک رہے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْلَ خَلِيفَةٍ لَهُ فِي الْعَالَمِ الْعَاصِرِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب خلیفہ اول ہیں عالم عناصر میں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُرْوَجِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب روح ہیں

الطَّرِيقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دونوں طریق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ حَقِيقَةَ الْحَقَائِقِ وَأَنْسَانِ عَيْنِ الْخَلَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر جو محبوب تمام حقائق کی حقیقت ہیں اور چشم خلائق کی پتلی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَرَّةَ عَيْنٍ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں تیرے نیک بندوں کیلئے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ السَّمَوَاتِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب نور ہیں آسمانوں

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور زمینوں کے اور جو ان کے درمیان ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ سِرِّ أَسْرَارِ الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ وَمَا حَوَاهُمَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جو راز مخفی ہیں اسرار ملک و ملکوت سے اور جو انہیں محیط ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَنْعُوتِ بِالْحَقِّ وَ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو موصوف ہیں ساتھ حق کے اور

الْمُصْطَفَى مِنَ الْخَلْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

چنے ہوئے ہیں ساری مخلوق سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَطْهَرِ جُمْلَةِ الْأَسْمَاءِ وَمِرَاةِ وَجْهِ الْمَسْتَهْيِ

آل محمد پر جو مطہر ہیں تمام اسماء اللہ کے اور آئینہ ہیں مستہی کی ذات کا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَامِلِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب اٹھانے

لِوَاءِ الْأَمَانَةِ وَالْمَوْصُوفِ بِالصِّدْقِ وَالصِّيَانَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

والے ہیں پرچم امانت کا اور موصوف ہیں ساتھ صداقت اور پاکدامنی کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِمِ بِحَمْدِكَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب برپا رکھنے والے ہیں تیری حمد

أَبَدًا وَالْمَحْمُودِ بِمَدْحِكَ سَرْمَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کو ہمیشہ کے لیے اور حمد کئے ہوئے ہیں ساتھ تیری مدح کے ہمیشہ کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَنْمُودِجِ الْحَقَائِقِ الْعِلْمِيَّةِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب انوکھا نمونہ ہیں علمی حقائق کا

وَمَجَلَى التَّعَيِّنَاتِ الثُّبُوتِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور جلوہ گاہ ہیں ثبوت و وجود کے تعینات کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَحْتَوَى الْهَيُولَاتِ الْإِمْكَانِيَّةِ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب محیط ہیں عالم امکان کے اصول اور مواد کو

وَسُورِ أَرْوَاحِ الْأَكْوَانِيَّةِ وَجَوْهَرِ الطَّبَعِيَّةِ الْكَلِيَّةِ الْعَنْصَرِيَّةِ

اور روح ہیں ارواح اکوان و خلائق کی اور طبیعت کلیہ عنصریہ کا جوہر ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو لاہوتِ غیبی کا

الْأَهْوَاتِ الْغَيْبِيَّ وَسِرِّ النَّاسُوتِ الْعَيْنِيِّ وَالْقَائِمِ بِجَمِيعِ الْأَرْوَاحِ

منظر ہیں اور رازِ مخفی ہیں عالمِ اجسام و محسوس کا اور قائم ہیں ساتھ تمام تر نعمتوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُقْطَةِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوبِ مرکزی نقطہ

بَيَّكَارِ ذَا بَرَّةِ الْأَكْوَانِ وَمَجْلَى حَقَائِقِ وَرَقَائِقِ الزَّمَانِ اللَّهُمَّ

ہیں مخلوقات کے دائرہ کی پرکار کا اور جلوہ گاہ ہیں زمانہ کے حقائق اور باریکیوں کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنْتَلَقِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوبِ خلق و خصلت

وَالْمُنْتَحَقِّ بِجَمِيعِ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور صفت و کیفیتِ راسخ بنائے ہوئے ہیں تمام کلماتِ قرآن کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخَاطَبِ بِجَمِيعِ مَعَانِي الْعِرْفَانِ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوبِ مخاطب ہیں عرفان کے تمام معانی کے ساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

الْعَلِيمِ بِحَقِيقَةِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ مِنَ الْأَكْوَانِ عَلَى مَسَرِّ

جو محبوب جاننے والے ہیں حقیقتِ ہر شئی کی مخلوقات میں سے خواہ موجود ہو سچی یا موجود ہوں گی

الدَّهْرِ وَالْأَزْمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

بادوجود گزرنے دہر زمانوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَعْصِمُنِي مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ وَالْأَوْسَارِ وَ

آل محمد پر جو صلوٰۃ بچائے مجھے فتنوں اور گناہوں اور بغض و کینہ کے شر سے

الإِحْنِ وَالْمَخْصُوصِ بِشَفَاعَةِ فَصْلِ الْقَضَاءِ لِلنَّاسِ وَالْبَجَانِ

وہ محبوب جو مختص ہیں ساتھ شفاعت عظمیٰ کے اللہ تعالیٰ کے فیصلہ اور قضاء کے وقت واسطے انسانوں اور

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جنوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

مُهَيِّدِ الْأَرْوَاحِ وَمَفِيضِ النُّورِ عَلَى الْأَشْبَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو امداد کرنے والے ہیں ارواح کی اور فیض پہنچانے والے ہیں نور کا اشباح و اجسام پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هَادِي الْمُضِلِّينَ إِلَى

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب ہادی ہیں گمراہوں کیلئے طرف

طُرُقِ الْفَلَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

فلاح و کامیابی کے راستوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاوِي حَضْرَةَ أَبِي الْأَرْوَاحِ وَحَامِي جُومَةَ أُمَّ

محمد پر جو محبوب محیط ہیں ارواح کے اصل اور مبداء کی بارگاہ کو اور حامی ہیں اشباح و اجسام

الْأَشْبَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کے عظیم اصل جوہر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّثْلُ نُورٍ هِ كَيْفِيَّتِ مَانِدِ اس طاق (کے نور) کے ہے جس میں چراغ ہو۔ چراغ

محمّد پر کہ جن کے نور کی کیفیت مانند اس طاق (کے نور) کے ہے جس میں چراغ ہو۔ چراغ

رُجَا جَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

شیشہ میں ہو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

الْمَخْصُوصِ بِالْكَوْنِ وَالنَّحْرِ وَالْفَلَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو محبوب مخصوص ہیں ساتھ کوثر اور اونٹوں کی قربانی اور فلاح و کامرانی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَشَرَّفَ بِهِ الْمَكَانُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کی بدولت شرف حاصل کیا مکان نے اور

وَالْإِمَّاكَانُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

عالم امکان نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي قُبِعَ بِهِ أَهْلُ الشُّرْكِ وَالشُّرْكَ وَالْكَفْرُ وَالطُّغْيَانِ

پر۔ جس محبوب کی بدولت رکاوٹ ڈال دی گئی اہل شک اور شرک والوں اور اہل کفر اور سرکشوں کے لیے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْهَادِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو ہدایت دینے والے

إِلَىٰ صِرَاطِكَ فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہیں تیرے راہ راست کی طرف خفیہ اور علانیہ طور پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَوْعُودِ بِمَغْفِرَةِ الْمَعْبُودِ دُونَ الْأَنَامِ

محمد پر اور آل محمد پر جنہیں (شخصی طور پر علانیہ) وعدہ دیا گیا ہے مغفرت کا معبود برحق کی طرف سے بغیر

مِنَ الْإِنْسِ وَالْجَانِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

دوسری مخلوق کے سوا نزل اور جنوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُنْقِي بِهَا قَلْبِي مِنَ الْحَسَدِ وَالْأَحْقَادِ وَالْإِحْنِ

آل محمد پر جس صلوٰۃ کی بدولت پاک فرمائے میرے دل کو حسد اور کینوں اور بغض و کدورت سے

بِكْرَمِ الْمَنَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ساتھ منان و محسن کے کرم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

الَّذِي تَشَرَّفَتْ بِهِ جَمِيعُ الْأَكْوَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جن کے ذریعے مشرف ہوئے تمام عالم و موجودات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَظْهَرَتْ بِهِ مَعَالِمَ الْعُرْفَانِ اللَّهُمَّ

اور آل محمد پر جن کی بدولت ظاہر ہوئے علامات عرفان کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْضَحْ دَقَائِقَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جنہوں نے واضح فرمایا قرآن مجید



الْقُرْآنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے ذائقہ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

عَيْنِ الْأَعْيَانِ وَالسَّبَبِ فِي وُجُودِ كُلِّ إِنْسَانٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو سب اکابر کے سردار ہیں اور سبب ہیں ہر انسان کے وجود کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَشِيدَ أَرْكَانَ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب نے مضبوط فرمائے شریعت کے ارکان

الشَّرِيعَةِ لِلْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تمام جہانوں کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَوْضَحَ أَفْعَالَ الطَّرِيقَةِ لِلسَّائِلِينَ وَرَمَزَ

آل محمد پر جس محبوب نے واضح فرمائے ہیں طریقت کے افعال سالکین کے لیے اور رموز

فِي الْعُلُومِ الْحَقِيقِيَّةِ لِلْعَارِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اشارہ فرمایا حقیقت کے علوم میں عارفین کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زَيَّنَ مَقَاصِيرَ الْقُلُوبِ وَأَظْهَرَ

محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب نے مزین فرمایا قلوب کے ایوان خاصہ کو اور ظاہر فرمایا

سَرَائِرَ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

غیب کے خفاؤں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بِأَبِ كُلِّ طَالِبٍ وَدَلِيلٍ كُلِّ مَحْجُوبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر جو محبوب دروازہ ہیں (مقصود کا) ہر طالب کے لیے اور دلیل درہنما ہیں ہر حیران نصیب کیلئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَلَعَتْ بِهِ شَمْسُ الْأَكْوَانِ عَلَى

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کی بدولت طلوع ہوا وجودات کا آفتاب موجودات پر

الْوُجُودِ وَأَفَاضَ عَلَيْهَا بِمَدَادِهِ سَحَابَ الْجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور فیضان فرمایا ہم پر ان کی امداد سے جو دلوں کے بادلوں کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ افْتَتَحَتْ بِهِ وُجُودَ الْخَلَائِقِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ جس محبوب کی بدولت تو نے افتتاح فرمایا تمام مخلوقات کے

طَرًا وَخَسَمْتَ بِهِ عِقْدَ النَّبُوءَةِ الْغَرَّاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

وجود کا اور مکمل فرمایا ساتھ اس (گوہر کینا) کے نورانی نبوت کی لڑی کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَهُ عَلَى النَّبِيِّينَ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کو تو نے بنایا تمام انبیاء سے اعلیٰ

فَضْلًا وَأَعْظَمَهُمْ أَجْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ازروئے فضل کے اور عظیم تر ازروئے اجر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَلَقْتَ جَمِيعَ الْأَنْوَارِ مِنْ نُورِهِ فَزَادَتْ

آل محمد پر کہ پیدا کیا تو نے سبھی انوار کو اس محبوب کے نور سے پس بڑھ گیا

رُتْبَتُهُ بِذَلِكَ قَدْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

شان و مرتبہ ان کا بسبب اس کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَرِيمِ الْأَبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر جو محبوب بزرگ آباء اور امہات والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب دلوں کے طبیب ہیں اور

دَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا

ان کی دوا اور بدنوں کے لیے عافیت اور شفاء ہیں اور آنکھوں کے لیے نور و ضیاء ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

ذِي الْمُعْجَزَاتِ الْبَاهِرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو محبوب واضح معجزات والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْمَنَاقِبِ الْفَاخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اور آل محمد پر جو محبوب قابل فخر مناقب والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْمَقَامَاتِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو جلالی مقامات

الْجَلَالِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ نِقْطَةً دَائِرَةِ الْوُجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

محمد پر جو محبوب مرکزی نقطہ ہیں وجود کے دائرہ کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيْطَةَ أَفْلَاكِ مَرَاتِي الشُّهُودِ

محمد پر اور آل محمد پر جو محیط اور دائرہ ہیں شہود کی بلندیوں کے افلاک کا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

أَلْفِ الذَّاتِ السَّارِي سِرُّهَا فِي كُلِّ ذَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

جو محبوب ذات الہی کی الف ہیں کہ سرایت کئے ہوئے ہے ستر اور روحانیت اس کی ہر ذرہ میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءَ حَيَاةِ الْعَالَمِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب حاء ہیں حیات عالم کی کہ

الَّذِي جَعَلَتْ مِنْهُ مَبْدَأَهُ وَإِلَيْهِ مَقَرُّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

انہیں سے عالم کی ابتداء فرمائی تیرے اور انہیں پر بنایا ہے قرار اس کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِيمِ مَلِكِكَ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب میم ہیں تیرے ملک کا

الَّذِي لَا يُضَاهِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

جس کی برابری نہیں کی جاسکتی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِل دَيُّومِ مَيِّتِكَ الَّتِي لَا تَتْنَاهِي اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

آل محمد پر جو محبوب دال ہیں تیرے دوام و دیومیت کا جس کی انتہا نہیں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اُظْهَرْتَهُ مِنْ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کو تو نے ظاہر فرمایا

حَضْرَةَ الْحُبِّ فَكَانَ مَنْصَهٗ لِتَجَلِيَّاتِ ذَاتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اپنی حب ذاتی کی بارگاہ سے پس وہ ہو گئے محل ظهور تیری تجلیات ذات کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَبْرَزْتَهُ بِكَ مِنْ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کو تو نے ظاہر فرمایا بقضائے ذات خود

تُوْبْرًا فَكَانَ مِرَاةً لِّجَمَالِكَ الْبَاهِرَةِ فِيْ حَضْرَةِ اَسْمَائِكَ وَ

ایسے نور سے پس وہ ہو گئے آئینہ صافی تیرے جمال کا تیرے اسماء اور صفات

صِفَاتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اِل سَيِّدِنَا

کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ شَمْسِ الْكِبَالِ الْمَشْرِقِ نُورَهَا عَلٰی جَمِيْعِ الْعَوَالِمِ اَللّٰهُمَّ

پر جو محبوب ایسے آفتاب کمال ہیں کہ اس کا نور چمکنے والا ہے تمام جہانوں پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ كُوْنَتْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ جس محبوب بنایا تو نے

مِنْهُ جَمِيْعَ الْمَكُوْنَاتِ فَكُلٌّ مِنْهَا بِهٖ قَائِمٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

تمام مخلوقات کو پس ان میں سے ہر ایک انہیں کے ساتھ قائم ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَجْلَسْتَهُ عَلٰی بِسَاطِ قُرْبِكَ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کو تو نے بٹھایا اپنے قرب کی مسندناظر

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کو



خَصَّصْتَهُ بِأَنْ كَانَ مِفْتَاحَ خَزَانَةِ حُبِّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تو نے مخصوص ٹھہرایا اپنے خزانہء حب کی چابی ہونے کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَحْبُوبِ الْأَعْظَمِ اللَّهُمَّ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو کہ محبوب اعظم ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السِّرِّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب ایسا زقدرت

الظَّاهِرِ الْمُكْتَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ہیں جو ظاہر بھی ہے اور بہت مخفی بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْوَاسِطَةِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَكُونَاتِكَ اللَّهُمَّ

آل محمد پر جو محبوب کہ واسطہ ہیں تیرے درمیان اور تیری مخلوقات کے درمیان۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

سَلِّمِ الَّذِي لَا يَرُفِي إِلَّا بِهِ فِي مَشَاهِدِ كَمَا لَا تَكُ اللَّهُمَّ

جو محبوب ایسی سیرتھی ہیں کہ نہیں چڑھا جا سکتا تیرے کمالات کے مقام مشاہدہ کی بندگیوں تک مگر بسبب انہیں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سراپا

الرَّحْمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

رحمت ربانی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَا قُوَّةَ الْمُتَحَقِّقَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر جو محبوب حقیقت کا جو ہر یاقوتی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَائِطِ بِمَرْكَزِ فَهْوَمِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محیط ہیں معانی و حقائق کے فہم کے



الْبَعَاثِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَوْرٍ

مرکز کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب آدمیت

الْأَكْوَانِ الْمَتَكُونَةِ الْأَدْمِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کے اشخاص مخلوق کے نور ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَرْقِ الْأَسْطَعِ بِمُزْنِ الْأَرْيَاحِ الْمَائِيَّةِ

آل محمد پر جو محبوب چمکنے والی غالب برق ہیں بارانی ہواؤں کے بادلوں میں

لِكُلِّ مُتَعَرِّضٍ مِنَ الْبُحُورِ وَالْأَوَانِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

واسطے ہر ایک سامنے آنے والے سمندر اور برتن کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَوْرِكَ اللَّامِعِ الَّذِي مَلَأَتْ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو تیرے چمکتے نور ہیں جن کے ساتھ معمور فرمایا تو نے

بِهِ كَوْنَكَ وَالْحَائِطِ بِأَمْكِنَةِ الْإِمْكَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اپنے عالم خلق کو اور جو محیط ہیں عالم امکان کے مکانات کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْحَقِّ الَّتِي تَتَجَلَّى فِيهَا

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب حق کا ایسا سرچشمہ ہیں کہ جلا حاصل کرتے ہیں اس

عُرُوسِ الْحَقَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سے حقائق کی دلہنیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْمَعَارِفِ الْأَعْظَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل محمد جو محبوب معارف کا عظیم سرچشمہ ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صِرَاطِكَ الْأَقْوَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آل محمد پر جو تیرے راہ راست ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَلْعَةِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ اللَّهُمَّ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو جلوہ حق ہیں حقیقت میں۔ اے اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكَثْرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب عظیم تر

الْاَعْظَمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

کنز ہیں۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ اِحَاطَةَ النَّوْرِ الْمَطْلُوسِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

پر جو سراسر احاطہ ہیں مزین و آراستہ نور کا۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ مِنْهُ اِنْشَقَّتِ الْاَسْرَارُ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر کہ اس محبوب سے پھوٹے از روئے ظہور کے وہ اسرار

الْكَامِنَةُ فِيْ ذَاتِهِ الْعَلِيَّةِ ظُهُورًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

جو پوشیدہ تھے ان کی ذات والا شان میں۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اِنْفَلَقَتْ الْاَنْوَارُ الْمُنْطَوِيَّةُ

محمد پر اور آل محمد پر کہ پھوٹے وہ انوار جو پیٹے ہوئے تھے ان کی عالی مرتبت

فِيْ سَمَاءِ صِفَاتِهِ السَّنِيَّةِ بَدْوًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

صفات کے آسمان میں ماہتابوں کی صورت میں۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ فِيْهِ اِرْتَقَتْ الْحَقَائِقُ وَمِنْهُ وَالِيُّ

محمد پر اور آل محمد پر کہ ان میں ارتقا پائی حقائق نے اور انہیں سے اور انہیں کی طرف۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد اطہار پر کہ اترے

تَنْزَلَتْ عَلَیْهِمْ اَدَمٌ بِهٖ فِيْهِ عَلَيْهِ فَاَعْجَزُ كَلًّا مِّنَ الْخَلْقِ وَهَمُّ

آدم علیہ السلام کے علوم بطفیل آپ کے ان میں، ان پر پس انہوں نے عاجز کر دیا ہر مخلوق کو اور وہ

مَا اَوْدَعُوا مِنْ السِّرِّ فِيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

نہیں ودیعت کئے گئے تھے وہ راز جوان میں تھا۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور



اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَضَائَلَتْ الْفُهُومُ عَنْ اِدْرَاكِ كُنْهِهِ

آل محمد پر کہ ضعیف و ناتواں ہو گئے عقول و ادراکات ان کی حقیقت کے

وَعَجَزَتْ الْعُقُولُ عَنْ فَهْمِ كَيْفِيَّتِهِ فَذَلِكَ يَكْفِيهِمُ اللَّهُمَّ

احاط سے اور عاجز آ گئے عقول و افہام ان کی کیفیت کے فہم سے پس ہی کا نہیں ہے انہیں ران کی دلیل عظمت اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَسْرِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب ایسے محفوظ و راز

الْمُصَوَّنُونَ لَمْ يُدْرِكْهُ مَتَّاسَابِقُ فِي وُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہیں کہ نہیں پاسکا انہیں ہم میں سے پہلا موجود از روئے وجود غرضی کے - اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا يَبْلُغُهُ لِحَقُّ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کو نہیں پہنچ سکتا

عَلٰی سَوَابِقِ شُهُودِهِ فَاَعْظَمَ بِهِ مِنْ تَبِيِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کوئی پہنچلا ان کے سابقہ جلووں کی بنا پر پس کتنے عظیم نبی ہیں وہ - اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رِيَاضِ الْمَلِكِ وَ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ عالم ظاہر اور عالم روحانیت کے باغات

الْمَلَكُوتِ بِزَهْرٍ جَمَالِهِ الظَّاهِرِ مُوْنِقَةً اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ان کے جمال ظاہر کے پھولوں کے ساتھ بارونق ہیں - اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حِيَاضِ مَعَالِمِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ حوض جبروت و تسلط کے معالم کے

الْجَبْرُوتِ بِفَيْضِ اَنْوَارِ سِرِّهِ الْبَاهِرَةِ مُتَدْرِفَةً اَللّٰهُمَّ صَلِّ

ان کے راز مخفی کے غالب انوار کے فیض سے اُبلنے والے ہیں - اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَسْرِ السَّارِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب مجسم راز مخفی ہیں جو سرایت کئے ہوئے



مَحْوُطُ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہیں (ہر شئی میں)۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا شَيْءَ إِلَّا وَهُوَ بِهِ مَحْوُطُ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ

پر کہ نہیں کوئی شئی مگر انہیں کے ساتھ وابستہ و متعلق ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي إِذْ لَوْلَا الْوَاسِطَةُ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو کہ واسطہ ہیں تیرے اور مخلوق کے درمیان وہ اگر واسطہ نہ

فِي كُلِّ صُعُودٍ وَهُبُوطٍ لَدَهَبَ كَمَا قِيلَ الْمَوْسُوطُ بِدَلَا الْوَاسِطَةِ

ہوں ہر ارتقاء و نزول میں تو ختم ہو جائیں اس واسطہ کی محتاج اشیاء جیسے کہ مسلم حقیقت ہے کہ بغیر واسطہ

لَا يُوجَدُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

وہ موجود نہ ہو سکتیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ بِرُكِّ الْجَامِعِ لِكُلِّ الْأَسْرَارِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا

پر جو محبوب تیرے ایسے راز مخفی ہیں جو سب اسرار کے جامع ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَوْبَرُكُ الْوَاسِعِ لِجَمِيعِ الْأَنْوَارِ اللَّهُ

محمد پر اور آل محمد پر جو تیرے تمام انوار کو محیط نور ہیں۔ اے اللہ

صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَلِيلِكَ الدَّالِّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب تیری مجسم دلیل ہیں جو دلالت کرنے

بِكَ مِنْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

والے ہیں تیری توفیق سے تجھ سے تجھی پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَائِدِ رُكْبٍ عَوَالِيكَ إِلَيْكَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

آل پر جو محبوب قائد ہیں تیرے جہانوں کے راہروں کے طرف تیرے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حِجَابِكَ الْأَعْظَمِ اللَّهُ صَلَّى

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو تیرے عظیم تر حجاب ہیں کہ ان کا واسطہ تیرا اصل ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِمِ لَكَ بَيْنَ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب قیام فرما ہیں تیرے لیے تیرے حضور

يَدَيْكَ فَلَا يَصِلُ اِلَيْكَ وَاَصِلْ اِلَّا بِحَضْرَتِهِ الْمَانِعَةِ اَللّٰهُمَّ

پس نہیں پہنچتا تیری طرف کوئی پہنچنے والا مگر بسبب ان کی بارگاہ والا تک رسائی کے طفیل۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا يَهْتَدِيْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ نہیں ہدایت پاتا کوئی

خَائِرٌ اِلَّا بِاَنْوَارِهِ الْاَلَامِعَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حیرت زدہ مگر ساتھ ان کے چمکتے انوار کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَضْرَتِكَ الْقُدْسِيَّةِ الْمُتَجَلِّيَّةِ بِتَجَلِّيِكَ

اور آل محمد پر جو محبوب تیری ہی بارگاہ قدسی ہیں جو روشن ہے تیری تجلی سے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مَحَاسِنِ الْاَنْسِيَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

جو محبوب مجسمہ ہیں انسانی محاسن کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِحَارِ الْاَحَدِيَّةِ الْمُحِيْطَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر جو محبوب احدیت کے محیط سمندر ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَمَلًا مَّحْقُوْفًا بِجُنُوْدِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب ایسا موسم بہار کا برج ہیں جو

نُصْرَتِكَ وَمَصْحُوْبًا بِعَوَالِمِ اَسْرَتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

گھرا ہوا ہے تیری نصرت کے لشکر کے ساتھ اور متصل و مرتبط ہے تیرے اصرار کے جہانوں کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنْزُوْعِ عَنِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب منزہ ہیں

الإطراق والتقييد اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد

اطلاق سے (جولانق الوہیت ہے) اور تقييد سے (جو ذات بحت کے متعلق سے مانع ہو)۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

و على آل سيدنا محمد عین بحر الوحدة اللهم إنا

اور آل محمد پر جو عین ہیں بحر وحدت کا۔ اے اللہ ہم سوال

نسئلك بموضعك في قلوب العارفين وبيها كمال

کرتے ہیں تجھ سے بطیفیل تیرے مقام کے جو عارفوں کے قلوب میں ہے اور بطیفیل تیرے راز محفی کے کمال

جلال جہال سرك في سراير المقربين وبقائق طرائق

و جلال اور جمال کی رونق و نورانیت کے جو مقربین کے باطنوں میں ہے اور بطیفیل کامیاب سرداروں کے

السادات الفائزين وبخضوع خشوع دموع أعين الباكين

طریقوں کے ذائق اور باریکیوں کے اور بطیفیل خضوع و خشوع اور ان آنسوؤں کے جو رونے والوں کی آنکھوں سے نکلیں

وبرجيف وچيف قلوب الخائفين وبتراثر خواطر

اور بطیفیل لرزش اور دھڑکن اہل خوف و خشیت کے قلوب کے اور بطیفیل اہل وصل کے قلبی خیالات کے

الواصلين وبرنين وتين حنين الهدى نبيين وبتوحيد تمهيد

متواتر تہم کے اور بطیفیل اہل ذوق کی رگ حیات کی آواز کے وقت آہ و زاری کے اور بطیفیل اہل ذاکر کی زبانوں سے

تمجيد تحميد السنة الدارين ورسائل مسائل الطالبين

سزود ہونے والی توحید اور شان تخلیق اور بیان مجد اور حمد و ثناء کے اور بطیفیل اہل طلب کے مسائل پر مشتمل رسائل کے

وبسكاشفة لمحات نظرات أعين الناظرين إلى عين اليقين

اور بطیفیل عین الیقین کی طرف دیکھنے والوں کی آنکھوں کے مکاشفہ اور دیدار و نظارہ کے اور بطیفیل

وبوجود وجد وجودك ووجودهم لك في غوامص أفئدة

موجود ہونے اپنے وجود کے علم و یقین اور مخلوق کے وجود کے بسبب تیرے اہل محبت کے باطن و محفی

سر المحبين أن تغرس في حدائق بساتين قلوبنا أشجار

قلبی پردوں میں (سوال کرتے ہیں) اگر لگائے ہمارے دلوں کے باغات اور سبزہ زاروں میں

تَوْحِيدِكَ وَتَمَجِيدِكَ لِنَقْتَطِفَ بِهَا أَثْمَارَ تَسْبِيحِكَ وَتَقْدِيسِكَ

کے درخت تا کہ چن سکیں ان سے تیری تسبیح و تقدیس کے پھل

بِأَنَامِلِ أَكْفٍ اجْتِنَاءِ لُطْفِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا مُحِبَّ الصَّابِرِينَ

تیرے لطف و احسان کی ٹر چینی والی ہتھیلیوں کے پوروں کے ساتھ اے اہل صبر کے محب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي جَعَلْتَهُ سَبَبًا لِإِنْشِقَاقِ أَسْرَارِكَ الْجَبْرُوتِيَّةِ اللَّهُمَّ

جس محبوب کو تو نے سبب بنایا ہے واسطے اپنے اسرار جبروتیہ کے ظہور کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب

إِنْفَلَقَ بِأَنْوَارِكَ الرَّحْمَانِيَّةِ فَصَارَ نَائِبًا عَنِ الْحَضْرَةِ الرَّبَّانِيَّةِ

بچھٹ پڑے تیرے انوار رحمانیہ کے ساتھ پس نائب ہو گئے بارگاہ ربانی کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

خَلِيفَةَ أَسْرَارِكَ الدَّائِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جو محبوب تیرے اسرار ذات کے مظہر خلیفہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَا قُوَّةَ أَحَدِيَّةِ ذَاتِكَ الصَّمَدِيَّةِ اللَّهُمَّ

آپ کی آل اطہار پر جو محبوب تیری ذات بے نیاز کی احدیت و یکتائی کے یا قوت ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ مَظْهَرِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مجسم مظہر ہیں

صِفَاتِكَ الْأَمْرَلِيَّةِ فَبِكَ مِنْكَ صَارَ حَجَابًا عَنكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

تیری صفات ازلیہ کا پس تیری ذات کے سبب تیری طرف سے ہی ہو گئے نورانی حجاب تیری طرف سے۔ اے اللہ صلوٰۃ



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرًّا مِّنْ اَسْرَارِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جبکہ وہ محبوب راز ہیں تیرے اسرار

غَيْبِكَ وَحُبِّتَ بِهِ عَنْ كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

غیب سے اور تو محبوب سے ان کی وجہ سے بہت سی مخلوق سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكَزْبُ الْمَطْلُوسِ اَللّٰهُمَّ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب پر اسرار خزانہ ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْبَحْرُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب بہت بڑے

الرَّاخِرِ الْمَطْمَطِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

موجیں نارتے سمندر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَفْحَةِ الْاَتْقِيَاءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

آپ کی آل پر جو اہل تقویٰ کے لیے نمک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ مِّنْحَةِ الْاَصْفِيَاءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

محمد پر جو اصفیاء کے لیے عطیہ و تحفہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ الْمَصُونِ وَجَوْهْرِ الْقَرْدِ الْمَكْنُونِ

آپ کی آل اطہار پر جو پوشیدہ راز اور مستور گوہر مکتبہ ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

يَا قُوْتَةَ الْمَنْطَوِيَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

جو لباس بشری میں ایسے ہونے قدسی یا قوت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَصْدَافِ مَكْنُونَاتِكَ وَاَصْنَافِ مَعْلُومَاتِكَ

آل محمد پر جو محبوب تیرے موتیوں جیسے مخفی اسرار اور تیرے معلومات کے مختلف اقسام کے لیے نامند سپیوں کے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرًّا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب تیری ربوبیت

رَبُّوْبِيَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کا راز مخفی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الْمُطَهَّرِينَ مِنْ رِيقِ الْأَغْيَابِ وَشَوَائِبِ الْأَكْدَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر جو محبوب منزہ ہیں اغیار کی غلامی سے اور میل و پکیل کی آمیزشوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دُونَ الْمَعَانِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سراسر معانی اور مقاصد کا دور زمانہ ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

جَاءَ بِالْأَحْكَامِ وَالْوُدُودِ وَذَكَرَ عَلَى الْحَقِّ الْمَشْهُودِ وَمُفِيضِ

جو لے آئے احکام اور محبت و مودت اور رہنمائی فرمائی ثابت و مبرہن حق کی طرف اور فیضان فرمانے والے

الشُّهُودِ وَسِرِّ كُلِّ مَوْجُودٍ وَعَيْنِ الْوُجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

شہود حق کا۔ اور ہر موجود کا راز ہستی ہیں اور عین وجود ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ حَيَاةِ الْوُجُودِ وَسَبَبِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب حیات وجود کا راز ہیں اور عظیم تزیین ہیں

الْأَعْظَمِ لِكُلِّ مَوْجُودٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ہر موجود کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ ظُهُورِ سِرِّ حَقِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آل محمد پر جو محبوب معدن ہیں سترحق کے ظہور کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ الْجَنَّاتِ وَالنَّعِيمِ وَنُورِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب جسم نور ہیں جناتوں کیلئے اور نعمتوں کے لیے اور نورانی

النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تیری ذات اقدس کریم کے دیدار کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِسْمِكَ الْاَعْظَمِ الْمَكْتُوبِ مِنْ نُورِ

اور آل محمد پر جو محبوب تیرا اسم اعظم ہیں جو لکھا گیا ہے تیرے چہرہ اقدس

وَجْهِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

کے نور سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الْاَعْلَى الْمَوْيِدِ الدَّائِمِ الْبَاقِي الْمُخَلَّدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جو محبوب بلند مقام، صاحب توفیق و تقویت، دائم و باقی اور صاحب غلہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِسْمِكَ الْاَعْظَمِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب تیرے اسم اعظم ہیں

الْوَاحِدِ بِوَاحِدَةٍ الْاَحَدِ الْمُتَعَالَىٰ عَنْ وَحْدَةِ الْكَمِّ وَالْعَدَدِ

یکتا ہے بسبب احد تعالیٰ کی یکتائی کے بلند و بالا ہیں مقداری و عددی وحدت سے

الْمُقَدَّسِ عَنْ كُلِّ اَحَدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مقدس ہیں ہر غیر (کے قلبی تعلق) سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَافِي الْعِلَلِ وَمُقَدِّرِ الْكُرُوبِ

اور آل محمد پر جو محبوب بیماریوں میں شفا دینے والے اور شدائد و تکالیف کو دور کرنے والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي بَعَثْتَهُ بِاَحْسَنِ الشَّمَائِلِ وَاَوْضَحِ الدَّلَائِلِ لِيَتِمَّ

جس محبوب کو تو نے مبعوث فرمایا بہترین خصلتوں اور واضح ترین دلائل کے ساتھ تاکہ تکمیل کریں

مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اعلیٰ اخلاق کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَلَقَ اللهُ مِنْ نُورِهِ جَمِيعَةَ الْمَخْلُوقَاتِ

اَل محمد پر جس محبوب کے نور سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا
وَأَعْطَاهُمْ بِقِسْمَتِهِ كُلَّ الْأَرْزَاقِ وَالْكَمَالَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور عطا فرمائے سب کو انہیں کی تقسیم سے تمام نعم کے رزق اور کمالات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اجْلَسَهُ اللهُ فِي

فرمایا سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کو بٹھایا اللہ تعالیٰ نے اپنی
مَجْلِسِ الْحُبِّ وَأَحَلَّهُ مِنْهُ مَحَلَّ الْقُرْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

محبوبیت کی مسند پر اور اتارا انہیں اپنے محل قرب میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَصَّهُ بِتَنْزِيلِ التَّنْزِيلِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص ٹھہرایا قرآن مجید کے نزول کے ساتھ بعد از
بَعْدَ أَنْ بَشَّرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ كَالرَّبُّورِ وَالْتَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ اللَّهُمَّ

کے کہ بشارت دی ان کے متعلق اپنی کتب سابقہ زبور۔ تورات اور انجیل میں۔ اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَشَرَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرمایا سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کی نبوت کے علم کو
اللَّهُ عِلْمَ نُبُوتِهِ مِنْ طَيِّبِ الْكِتْمَانِ فِي عَوَالِمِ الْمَلِكِ وَالْإِنْسِ وَ

تو نے پھیلایا یا خفاء کے پردوں سے ملائکہ اور انسانوں اور جنوں کے جہانوں کی
الْجَانِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرمایا سیدنا محمد پر اور آل محمد پر
الَّذِي هَتَفَ بِهِ الْهَاتِفُ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِهِ الْأَخْبَدُ وَالرَّهْبَانُ وَ

جن کے متعلق منادی کی عیبی منادوں نے ہر مکان میں اور خبریں دیں علمائے اہل کتاب اور ان کے عبادت گزاروں اور
الْكُهَّانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

علم غیب کے دعویداروں نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرمایا سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي سَارَتْ بِأَخْبَارِهِ دَعْوَةُ الْخَلِيلِ وَبَشْرَى الْمَسِيحِ الرَّكْبَانِ

کہ جس محبوب کی خبروں کو عام کیا دعائے رخیل اور بشارت عیسیٰ علیہما السلام اور مسافروں نے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کو

أَظْهَرَهُ اللَّهُ بِالنَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَأَكْمَلَ الْمَظَاهِرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا نبوت و رسالت اور کامل ترین مظاہر اور تحویلوں کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَحَقَّقَ بِهِ مَا وُصِّدَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کے حق میں ثابت ہو گیا وہ ایک کے نزدیک، جو وارد ہوا تھا

فِي شَأْنِهِ مِنَ الْعَلَامَاتِ وَالْبَشَائِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آخر الزمان نبی کی شان میں علامات و بشارت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَبَيَّنَ أَنَّ عِلْمَ الْأَوَّلِ فِيهِ كَانَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے متعلق واضح ہو گیا کہ اوائل کا علم ان کے بارے میں

مُطَابِقًا لِمَشَاهِدَةِ الْأَوَاخِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اواخر کے مشاہدہ کے مطابق تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلَاةِ السَّادَاتِ الْأَكْبَرِ الْأَعْظَمِ اللَّهُمَّ

اور آل محمد پر جو نسل ہیں سرداروں اور اکابر و عظیم تر لوگوں کی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ابْنِ الْأَكْبَرِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو اکابر کرامت

وَالكِرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

و عزت مردوں اور عورتوں کے نعت جگر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ كَرِيمِ الذِّاتِ وَالصِّفَاتِ وَقَحْرِ الْأَبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ مِنْ حَوَاءِ

محمد پر جو محبوب کریم ذات اور کریم صفات والے ہیں اور فخر ہیں تمام سلسلہ آباء و امہات کا حضرت حوا

إِلَى أَمْنَةٍ وَمِنْ أَدْمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سے حضرت آمنہ تک اور حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْلِ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ الَّذِي تَفَرَّعَتْ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب اصل اور سرچشمہ ہیں تمام خیرات کا جن سے پھوٹے

عَنْهُ كُلُّ الْفَضَائِلِ وَالْمَكَارِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تمام فضائل و کمالات اور اعلیٰ اخلاق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ نُورَهُ قَبْلَ الْخَلْقِ وَخَلَقَ

اور آپ کی آل پر جس محبوب کے نور کو اللہ نے تمام انوار سے پہلے پیدا فرمایا اور اس سے

مِنْهُ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

تمام اشیاء کو پیدا کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَلَعَ شَمْسُهُ الْمَشْرِقَةَ فِي بُرُوجِ الْأَمْهَاتِ وَ

محمد پر کہ جس محبوب کا روشن آفتاب طلوع ہوا ماؤں اور باپوں

الْأَبَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے برجوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

الَّذِي انْتَشَرَتْ أَخْبَارُهُ فِي الْعَالَمِينَ وَانْكَشَفَتْ أَسْرَارَهُ لِلْعَارِفِينَ

کہ پھیلیں جن کی خبریں تمام جہانوں میں اور کھلے ان کے اسرار اہل عرفان کے لیے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ بند

سَطَعَتْ أَنْوَارُهُ لِلتَّاطِرِينَ وَصَدَحَتْ أَطْيَارُهُ لِلسَّامِعِينَ اللَّهُمَّ

ہوئے ان کے انوار اہل نظر کے لیے اور نغمہ سرا ہوئے ان کے پرندے اہل سماع کے لیے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّرَّ الْيَتِيمِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب ایسے یتیم ہیں کہ

الَّذِي صَانَهُ اللَّهُ بَعْدَ عَبْدِ اللَّهِ بِحُرْمَةِ عَبْدِ الْمَطْلِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ

حفاظت فرمائی ان کی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد اللہ کے بعد جناب عبد المطلب کے ذریعے۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ الْوُجُودِ وَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب وجود کا آفتاب تاباں ہیں اور

سَعِدِ السُّعُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

سب سعادت کا سامان سعادت۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ الرُّوحَ الْأَمِينِ بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَ

پر کہ جس محبوب کی طرف اللہ تعالیٰ نے روح امین کو آیات بینات اور دین مبین

الَّذِينَ الْمُبِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کے ساتھ بھیجا۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْمَلِ أَخْلَاقَ الرِّجَالِ وَمُبْرَأٍ مِّنْ مَّسَاوِيءِ

آل محمد پر جو محبوب کامل ترین اخلاق والے ہیں تمام لوگوں سے اور میرا ہیں

خِلَالِ الْكَمَالِ وَالْمُتَّصِفِ بِسَحَابِ سِنِ الْكَمَالِ اللَّهُمَّ

کمال میں (نفل) بری خصلتوں سے اور مقصد ہیں اچھی کامل خصلتوں کے ساتھ۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُسْتَجْمِعًا لِّأَنْوَاعِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو جمع کرنے والے ہیں

الْفَضْلِ وَالْإِفْضَالِ وَمُسْتَكْمِلًا لِجَمِيعِ أَوْصَافِ الْكَمَالِ اللَّهُمَّ

فضل و کمال اور انعام کے انواع کو اور کامل کرنے والے ہیں تمام اوصاف کمال کے۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَّفَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جن کی بدولت تو نے مشرف فرمایا

اللَّهُ بِهِ نَوْعَ الْإِنْسَانِ وَبَعَثَهُ فِي خَيْرِ الْأُمَمِ بِخَيْرِ الْأَدْيَانِ

نوع انسانی کو اور مبعوث فرمایا انہیں بہترین امت میں ساتھ بہترین دین کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ جن کے لیے

خَيْرَ لَهٗ مِنْ قَوْمِهِ وَصَحْبِهِ خَيْرٌ اَنْصَارٍ وَاَعْوَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اختیار کئے گئے اپنی قوم اور ساتھیوں سے بہترین معاون و مددگار۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَنَحَهُ مِنْ كُلِّ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کو عطا کیا ہر

خَيْرٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مُنْتَهَى مَا فِي الْاِمْكَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

خیر سے دنیا و آخرت میں امکان کی حد اخیر تک۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِلْمِ الْعِلْمِ وَخَيْرِ الْعِرْفَانِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو علم کے بند پہاڑ اور عرفان کے سمندر ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

بِحَرِّهِ الظَّاهِمِ الَّذِي جَرَتْ مِنْهُ اَنْهَارُ الرُّسُلِ وَالْاَنْبِيَاءِ اللَّهُمَّ

جو محبوب موجیں مارتا سمندر ہیں جس سے مرسلین و انبیاء والی نہریں جاری ہوئیں۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَشْرِقِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیرے انوار ظہور چمک

اَنْوَارِهِ وَكَشَافِ اسْرَارِهِ وَمَجْلَى مَضَارِعِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی جگہ ہیں اور اسرار کے کھولنے والے اور آگے رہنے والے ہیں اس کی طرف متابعت کے میدان میں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَعْلَمِ الْخَلْقِ بِاللَّهِ وَاَعْرَفِهِمْ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو سب سے زیادہ جانتے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور عارف ہیں

بِاَوْصَافِهِ الْحَسَانَ وَنَبَاَهُ اللهُ قَبْلَ اَدَمَ وَعَلَّمَهُ اللهُ الْاَسْمَاءَ

اس کے حسین اوصاف کے اور نبی بنایا انہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے اور سکھائے انہیں تمام اسماء



وَمُسَيِّبَاتِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور ان کے موسم و مدلولات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَشْهَدُكَ حَقَائِقَ الْخَلَائِقِ وَأَسْرَارِهَا وَصِفَاتِهَا

پر جنہیں مشاہدہ کرایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے حقائق اور اسرار و صفات کا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

الَّذِي عَرَفَهُ جَمِيعَ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ وَمَا حَوَتْهُ مِنْ بُدَائِئِهَا

جس محبوب کو پہچان کرائی تمام مکاؤں اور زمانوں کی اور جنہیں وہ محیط ہیں ابتداء سے

إِلَى نَهَائِئِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اے کر انتہاء تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ شِفَاءَ الْأَسْقَامِ وَطَيِّبِ الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَامِ وَأَطْلَعَهُ اللَّهُ

محمد پر جو محبوب بیماریوں کے لیے مجسم شفا ہیں اور ارواح و اجسام کے طیبیہ کامل اور مطلع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے

عَلَى كُلِّ دَاءٍ وَدَاءٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ سَبَقَ

انہیں ہر بیماری پر اور ہر دوا پر۔ اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں تجھ سے ہر اس گناہ سے کہ پہلے سے ہے

فِي عِلْمِكَ أَنْتَ اسْتَوْجِبُ بِهِ رَدَّ الدُّعَاءِ وَحِرْمَانَ الْإِجَابَةِ وَ

تیرے علم میں کہ یہ بندہ مستحق ہو اسباب اس کے دعاء کے رد ہونے کا اور محروم قبولیت کا اور

خِيْبَةَ الطَّمَعِ وَانْفِسَاخَ الرَّجَاءِ وَمِنْ كُلِّ ذَنْبٍ سَبَقَ فِي عِلْمِكَ

طمع میں ناکامی کا اور امید کے ٹوٹنے کا اور ہر اس گناہ سے کہ پہلے سے تیرے علم میں ہے

أَنِّي فَاعِلُهُ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَرْتَ بِهَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكُلِّ ذَنْبٍ

کہ میں اسے کرنے والا ہوں تیری اس قدرت کے ساتھ جس سے تو قادر ہے ہر شئی پر اور ہر گناہ سے

قَوِي عَلَيْهِ بَدَنِي بِعَافِيَتِكَ وَأَنْبَسَطْتَ إِلَيْهِ يَدِي بِسَعَةِ فَضْلِكَ

کہ قادر ہو اس پر میرا بدن تیری عافیت کی وجہ سے اور دراز ہو اس کی طرف میرا ہاتھ تیرے فضل کی وسعت کی وجہ سے



وَاحْتَجَبْتُ عَنِ النَّاسِ مِنْ سِتْرِكَ وَانْكَلْتُ عِنْدَ خَوْفِي مِنْكَ

اور پوشیدہ رہا میں لوگوں سے تیری پردہ داری کی وجہ سے اور بھروسہ کیا میں نے تیرے خوف کے وقت

عَلَى أَمَانِكَ وَوَثِقْتُ مِنْ سَطْوَتِكَ بِعَلْمِكَ وَعَوَّدْتُ عَلَى كَرَمِ

تیری امان پر اور وثوق و اعتماد کیا تیری شدید گرفت سے تیری بردباری پر اور اعتماد کیا تیری ذاتِ کرم پر اور

وَجْهِكَ وَعَفْوِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْفِرْ

تیری عفو پر پس درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بخش دے میرے لیے بہترین بخشش والے

لِي يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

ساتھ اپنی رحمت کے لیے سب سے زائد رحمت والے اور تمام تعریفیں اللہ

رَبِّ الْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

رب العالمین کے لیے ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ بَدْرَ الْهَدَايَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پر جو محبوب ماہتاب ہدایت ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْتَحَالَ بِكَيْمِيَاءِ نَظَرِهِ ظِلَامُ الشِّرْكِ بِخَوْفِ

آل محمد پر کہ جس محبوب کی نظرِ کیمیا اثر سے بدل گئی شرک کی تاریکی نور

الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ایمان کے ساتھ۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ مُسْتَجَابِ الدُّعَاءِ وَاجْتَمَعَتْ بِدُعَائِهِ لِأَوْلِيَائِهِ كَتُونِ

پر جو محبوب مستجاب الدعوات ہیں اور جمع ہو گئے ان کی دعا سے اولیاء کرام کے لیے نیکی کے

الْبِرِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نزلنے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

ذَوَاعِي الْفِتْنَةِ وَالنَّصْرِ وَأَسْبَابِ السَّرُورِ وَالْيُسْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو محبوب مجسم اسباب و وسائل ہیں فتح و نصرت کے اور ذرائع و اسباب ہی خوشی اور آسانی کے۔ لے اللہ صلوات و سلام



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُوجِبَاتِ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ

نازل فرماستینا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سراپا اسباب موجب ہیں حمد و شکر باری تعالیٰ کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَلِيفَةَ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب تیرے خلیفہ

اللَّهُ عَلَى الْبَرِّيَّةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ہیں تمام مخلوق پر ہر زمان اور ہر مکان میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَاقِيًا أَعْلَى مَرَاقِي الْعِبَادِيَّةِ

ستینا محمد پر اور آل محمد پر جو بلند ہونے والے ہیں عبودیت

الصَّدَاقِيَّةِ الصُّدُوقِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

صداقت اور کمال صدق کے اعلیٰ مدارج کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِلْأَنْبِيَاءِ سُلْطَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل محمد پر جو محبوب انبیاء کے سلطان ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الرَّأْيِ السَّيِّدِ وَالْبَطْشِ

ستینا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب پختہ رائے اور سخت گرفت

السَّيِّدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

والے ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ أَشْجَعِ النَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پر جو محبوب سب لوگوں سے زیادہ شجاع ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما ستینا محمد پر

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرُّوحِ الْأَعْظَمِ فِي صُورَةِ إِنْسَانٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آل محمد پر جو محبوب عظیم تر روح ہیں صورت انسانی میں۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَبَبِ وُجُودِ الْوُجُودِ

و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سبب ہیں وجود کے موجود ہونے کا۔



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَاق

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب نوقت

الْمُرْسَلِينَ بِكَثْرَةِ الْفَضَائِلِ وَالِدَّلَائِلِ وَالْأَتْبَاعِ وَالْأَعْوَانِ اللَّهُمَّ

اے گئے تمام مرسلین سے بسبب فضائل و دلائل اور متبعین و معاونین کی کثرت کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَشْمِسُ الْوُجُودِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب وجود کے آفتاب

بِالْبُرْهَانِ وَتَكْوِينِ الْأَكْوَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بسبب برہان و علیت کے اور سراپا ایجاد و تخلیق میں تمام مخلوقات و موجودات کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُوحَ كُلِّ الْمَوْجُودِ وَالْوُجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اور آل محمد پر جو محبوب روح مجم ہیں ہر موجود کی اور وجود ہستی کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَبَبِ السَّعَادَةِ لِكُلِّ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سبب سعادت ہیں واسطے ہر

مَسْعُودٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سعادتمند کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

قَبِيضَةِ النُّورِ الَّتِي تَفْرَعُ عَنْهَا مِنَ الْكَائِنَاتِ كُلِّ مَوْجُودٍ اللَّهُمَّ

جو محبوب نور قدس کی مٹھی ہیں کہ جس پر تنوع ہوا کائنات سے ہر موجود۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِلْعَالَمِ صِبَاءٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب جہان کے لیے جسم صیاد ہیں اور

وَقَوَامِ الثَّبَاتِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سبب قیام و ثبات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

شَمْسِ الْكَمَالِ وَبَدْرِ التَّمَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو محبوب آفتاب کمال ہیں اور بدر کامل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر



بیتنا محمد
وآلہ
و صحبہ
و تابعہ
و تابعہ

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ الْوُجُودِ وَثَوْرِ الْوُجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آپ کی آل پر جو محبوب پہلے موجود ہیں اور وجود کے ثور ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ اسْرَارِ الْوُجُودِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب اسرار وجود کا راز مخفی ہیں اور وجود کے

وَأَمِينِ الْوُجُودِ وَأَفْضَلِ الْوُجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

امین اور موجودات میں سے افضل ترین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ ذَاتِكَ الْعَلِيَّةِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب تیری بلند شان ذات کے عکس ثور ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

مَعْدِنِ الْحِكْمِ الرَّبَّانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

جو محبوب ربانی حکمتوں کے لیے معدن و کان ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَرَايِزِ الْمُلْكِ وَالْمَمْلُوكَاتِ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو محبوب عالم ظاہر اور عالم غیب کے نقش و نگار ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار

مُحَمَّدٍ الطُّوْدِ الْمَانِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

پر جو محبوب ناقابل تنزیہ پہاڑی قلعہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السِّرِّ الْمَكْنُونِ وَالْكَزْرِ

پر اور آل محمد پر جو محبوب پوشیدہ راز اور محفوظ خزانہ

الْمَصُونِ وَقَرَّةِ الْعِيُونِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَوَاءَ الْقُلُوبِ وَقُوَّةَ الرُّوحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر جو محبوب دلوں کی دوا اور ہر روح کی قوت و ترانہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِكْرَ الْأَشْبَاحِ الْعُلُويَّةِ وَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سراپا ذکر ہیں عالم بالا اور

السَّفَلِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اسفل کے اجسام کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

بَشَرًا كَالْبَشْرِ وَنَسَبَتَهُ مِنْ الْخَلْقِ نَسَبَةً يَأْتِيهَا بَيْنَ حَجَرِ اللَّهِ

جو محبوب بشر ہیں مگر نہیں مانند دیگر بشروں کے اور آپ کی نسبت مخلوق کے ساتھ مانند یا تو یہ ہے درمیان دوسرے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَضَاءَلَتْ

بشروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کے اور ان میں اقسام و قول

لَهُ الْفُهُومُ وَتَصَاغَرَتْ لَهُ الْأَكْوَانُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

ضعیف و ناتواں ہو گئے اور نسبت و حقیر ہو گئے موجودات عالم ان کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُنْزَ الْهُدَايَةِ وَغَايَةَ الْغَايَةِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب ہدایت کے خزانے اور غایت (کمال) کی بھی غایت ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْلَ الْبُجُودَاتِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب موجودات کی اصل

وَالْمَبْدَأِ وَالْمُنْتَهَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور ان کا مبدؤ اور منتہی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَوْهَرَةَ سَلَكِ النَّبِيِّينَ وَمَدَادِ الْمَلَائِكَةِ وَ

آل محمد پر جو محبوب انبیاء علیہم السلام کی لڑی کا قیمتی جوہر ہیں اور سرچشمہ امداد ہیں ملائکہ اور

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

انبیاء و مرسلین کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

آل محمد پر جو محبوب رؤف رحیم نبی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَرِ الْمُبْعُوْثِ مِنْ أَكْرَمِ الْأَرْوَاحِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سب مخلوق کی طرف مبعوث ہیں بزرگ تراصول

وَالْقَبَائِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اور قبائل سے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ عَيْنِ أَنْسَانٍ إِيجَادِكَ وَبَحْرِ جَمَالِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

پر جو محبوب تیری چشم ایجادتکون کی بتلی ہیں اور حسن و جمال کے سمندر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَخْرِنِ أَمْدَادِكَ وَمَعْدِنِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب تیری امداد و اعانت کے مخزن اور سعادت کے معدن

سَعَادَتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

دکان ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ بَابِ الْخَوَائِبِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آل پر جو تیری بارگاہ کی طرف حاجات اور مقاصد کا دروازہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْوَسَائِلِ لِبَيَانِ الْحَلَالِ وَالْحُرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر اور آل محمد پر جو وسائل و ذرائع ہیں حلال و حرام کے بیان کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَرِزِ الْحُلَّةِ الْعُرْفَانِيَّةِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب خلعت اور حلقہ عرفان کا نقش زیبا

وَنَاصِرِ الْهَلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ہیں اور ملت اسلامیہ کے ناصر و مددگار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّحْمَةِ الذَّائِتِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر جو محبوب سراپا رحمت نبی ہیں باغبان رزات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْعِنَايَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب مجسم عنایت ربانیہ ہیں اور

كُنْزِ الْهَدَايَةِ الْإِلَهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ہدایت الیہ کے خزانے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَهْبِطِ أَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَأَمِينِ الْمَمْلَكَةِ الْبَشَرِيَّةِ

آل محمد پر جو محبوب اسرار رحمانیہ کی جائے نزول ہیں اور مملکت بشریہ کے امین۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَجُودِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو سراسر وجود

كُلِّ سِرِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تحقق ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر

الذَّاتِ الْمُطَهَّرَةِ فِي عَالَمِ الْحَضْرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو محبوب مطہر و پاکیزہ ذات ہیں بارگاہ ربوبیت کے دیس میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْتَوْبِ السَّاطِعِ الذَّاتِ الْإِحْدَى اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سراسر لور غالب ہیں ذات احد جل وعلی کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّرِّ الْأَبْهَرِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب روشن ترین جوہر

وَالْيَا قُوتِ الْأَخْمَرِ وَالذَّرِّ الْأَزْهَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور یاقوت سرخ اور زردانی موتی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَسْرِ الْكَبِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب بہت بظرافت قدرت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِ ذَاتِكَ وَوَلِيِّ الْأَرْكَ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو تیری ذات کے حبیب اور تیرے نعمتوں کے مالک متصرف ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب رسول و مظلوم

أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ہیں تیرے اسماء و صفات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ هُوَيْتِي وَسِرِّ أُنْيَتِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر جو محبوب عین ہیں میری ماہیت و حقیقت کے اور میرا راز و جود و ہستی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُوحَ حَيَاتِي وَرُوحَ صِفَاتِي

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب میری روح حیات ہیں اور میری صفات کی روح اور تجنی ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ثَوْبًا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب ثوب ہیں

مَشْكُوتِي وَحَقِيقَةَ الْحَقَائِقِ لِدَاتِي وَصِفَاتِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

میرے طاق جسم کا اور حقیقتہ الحقائق ہیں میری ذات اور صفات کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكَزْبِ الْمَكْنُونِ اللَّهُمَّ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب مخفی خزانہ ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْإِمْنِ مِنَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب خود مومن ہیں

الْعَذَابِ وَالْأَمْنَةِ لِلصَّحَابِ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

گرفت و مؤاخذہ سے اور سامان امن و عصمت ہیں صحابہ کرام اور اہل ایمان کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْهَادِي مِنَ الشَّقَاقِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب ہدایت دینے والے ہیں مخاصمت

وَالْخِلَافِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور مخالفت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الدَّاعِيِ بِالْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ وَالْمَوْضِحِ لِلْبَيَانِ وَالتَّأْوِيلِ

محمد پر جو محبوب دعوت دینے والے ہیں ساتھ وحی اور قرآن کے اور وضاحت فرمانے والے ہیں بیان خداوندی اور تاویل کلام مجید کی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّافِعِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب نیست و نابود کرنے والے ہیں

لِلْبَاطِلِ جَبْرُوتِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

باطل چیزوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ الْمَحْجُوبِ بِهٖ الْكُفْرُ وَظُلَامَةُ اللَّهِ إِيَّيْ أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ

پر جس محبوب کے طفیل مٹایا گیا ہے کفر اور اس کی تاریخی۔ اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں ہر اس گناہ سے

فَهَيْتُهُ وَصَهَيْتُ عَنْهُ حَيَاءً مِنْكَ عِنْدَ ذِكْرِهِ أَوْ كَتَمْتُهُ فِي صَدْرِي

جسے میں نے سمجھا اور میں خاموش رہا اس سے تیری حیاء کی وجہ سے اس کے ذکر کے وقت یا میں نے اسے چھپایا یا اپنے سینہ میں

وَعَلِمْتُهُ مَبْرُئِي وَأَنْتَ تَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَلِكُلِّ ذَنْبٍ يَبْغِضُنِي

اور تو نے معلوم کیا اسے مجھ میں جبکہ تو جانتا ہے باطن اور مخفی امر کو اور میں بخشش طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کے لیے جو مجھے قابل بغض و نفرت بنائے

إِلَى عِبَادِكَ وَيُنْفِرْ عَنِّي أَوْ لِيَأْتِكَ أَوْ يُوْحِشَنِي مِنْ أَهْلِ

تیرے بندوں کے ہاں اور متنفر کر دے مجھ سے تیرے دوستوں کو یا مجھے وحشت میں ڈالے تیرے

طَاعَتِكَ بِوَحْشَةِ الْمَعَاصِي وَرُكُوبِ الْحُوبِ وَإِرْتِكَابِ

طاعت گزاروں سے بسبب گناہوں کی وحشت کے اور گناہوں کے ارتکاب کے اور اہتمام میں

الدُّنُوبِ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ يَدْعُو إِلَى الْكُفْرِ وَيُطِيلُ الْفِكْرَ وَ

ابتلاء کے اور طلبکار مغفرت ہوں واسطے ہر گناہ کے جو کفر کی طرف بلائے اور فکر و اندیشہ کو طول دے اور

يُورِثُ الْفَقْرَ وَيَجْدِبُ الْعُسْرَ وَيَصُدُّ عَنِ الْخَيْرِ وَبَهْتِكَ

فقر وفاق کا باعث ہو اور تنگدستی کا موجب ہو اور خیر سے روکے اور پردہ دری کرے

السُّرِّ وَيَمْنَعُ الْيُسْرَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ يَدُنِي الْأَجَالَ وَيَقْطَعُ الْأَمَالَ

اور سولت و خوشحالی کو روکے اور طالب مغفرت ہوں ہر اس گناہ سے جو موت اور اس کے اسباب کو قریب کرے اور امیدوں

وَيَشِينُ الْأَعْمَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کرم کرے اور اعمال کو عیب ناک کرے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَالَ فَضْلًا جَسِيْمًا وَشَرَّفَتْ بِهِ تَرْمِزًا وَ

محمد پر جس محبوب نے پالیا عظیم فضل و شرف کو اور مشرف فرمایا تو نے ان کے ذریعے ترمزم اور

حَطِيْمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حطیم کعبہ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

كَمَا أَثَرُ مَسْكِيْنًا عَدِيْمًا وَكَمَا رَحِمَ يَتِيْمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جس محبوب نے بہت تزیج دی بینوا مسکین کو اور رحم فرمایا یتیموں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَ بِالْقُرْآنِ

فرمایا سیدنا محمد پر اور آل پر جو محبوب لے آئے قرآن

الْمُبِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مبین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَبَعَثْتَهُ إِلَى كَافَّةِ

محمد پر جس محبوب کو تو نے بھیجا بطور رحمت جسم کے واسطے تمام جہانوں کے اور مبعوث فرمایا انہیں تمام انسانوں کو

الْبَشَرِ بِالدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ساتھ دین اسلام کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَلَجًا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل محمد پر جو تمام اہل ایمان کی جائے پناہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَوْلَاهُ لَبَاخِلَقَتِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب موجود نہ ہوتے تو موجودات کی

الْمَوْجُودَاتُ وَلَمَّا وَجَدَتْ الْكَائِنَاتُ وَمَا رَفَعَتْ الْعُلَى وَ

نخلیق نہ ہوتی اور نہ کائنات موجود ہوتی اور کائنات بالا کو رفعت ملتی اور

مَا بَسَطَتِ السُّفْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

نہ بجلی کائنات پھیلائی جاتی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَوْلَا مَا كَانَ السُّجُودُ لِأَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

آل محمد پر کہ جو محبوب موجود نہ ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام سجد ملا کر بھی نہ ہوتا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الَّذِي لَوْلَا مَا كَانَ الْإِمْدَادُ لِلْعَالَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو محبوب موجود نہ ہوتے تو عالم کو امداد و فیض میسر نہ ہوتا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَوْلَا لَمَّا يَعْبُدُ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ جو محبوب موجود نہ ہوتے تو نہ کوئی اللہ کی

اللَّهُ وَاحِدٌ وَلَمْ يُوجَدْ عَابِدٌ وَلَا زَاهِدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عبادت کرتا اور نہ کوئی عابد موجود ہوتا اور نہ زاہد۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَوْلَا مَا

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب موجود نہ ہوتے تو نہ کوئی

كَانَ شَاهِدٌ وَلَا مَشْهُودٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نظارہ کرنے والا ہوتا اور نہ کوئی قابل نظارہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَوْلَا مَا وَجَدَ الْعَهْدَ وَالْعَهْودُ

اور آل محمد پر کہ جو محبوب موجود نہ ہوتے تو کوئی عہد و پیمانہ ہوتا اور نہ عہد و پیمانہ والی مخلوق۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

الْقَائِمِ بِالْوَجِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جو محبوب قائم ہیں ساتھ واجب تعالیٰ کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَوْصُوفِ بِأَجْلِ الْمَنَاقِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آپ کی آل اطہار پر جو محبوب موصوف ہیں مناقب جلیلہ کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَالِغِ بِأَسْنَىٰ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب پہنچنے والے نورانی

الْمَرَاتِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

مراتب تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ النَّائِلِ بِأَعْلَى الْمَنَاقِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

پر جو محبوب پانے والے ہیں اعلیٰ مناقب کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَلَقَ مِنْ نُورِهِ جَمِيعَةَ

محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کے نور سے تمام موجودات

الْمَوْجُودَاتِ وَسَبَقَ سَائِرَ الْمَخْلُوقَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پیدا فرمائے اور سبقت لے گئے وہ تمام مخلوقات پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَّفَتْ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کے ساتھ تو نے مشرف فرمایا

بِهِ الْوُجُودَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

وجود کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَسَلَتْ بِهِ السُّعُودَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر جن کے ذریعے تو نے کامل فرمایا سعادتوں کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخَذَتْ لَهُ

فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جن کے لیے تو نے انبیاء علیہم السلام

عَلَىٰ أَنْبِيَائِكَ الْعُهُودَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سے عہد و پیمانے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ أَهْلِ الْكَرِيمِ وَالْجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آل محمد پر جو افضل ہیں تمام ارباب کرم اور اہل جود سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَهُ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کو

الْفَخَارُ السَّرْمَدُ وَالسُّلْطَانُ الْمَجِيدُ وَالْكَبَّارُ الْأَعْجَدُ اللَّهُمَّ صَلِّ

سرمدی دوامی فخر حاصل ہے اور جو بزرگ ترین بادشاہ اور صاحب مجد اور کبریائی والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَتَىٰ عَلَيْهِ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب پر نینا فرما

الْإِلَهَ الصَّمَدُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اللہ بے نیازنے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ أَوَّلِ الْإِبْدَاعِ وَبِدَايَةِ الْإِخْتِرَاعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر جو محبوب پہلی تخلیق اور آغاز ایجاد و تخوین ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَمَامَ الْفَوَائِدِ وَثَبَاتِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سراپا جمیل ہیں فوائد و منافع کی اور ثبات و دوام

الْعَقَائِدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

ہیں عقائد و نظریات کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ خُلَاصَةَ الْإِخْلَاصِ وَدُعَاءِ الْخَوَاصِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جو اخلاص و نیک نیتی کا خلاصہ و مغز ہیں اور خواص بارگاہ خداوندی کی مجسم دعائیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذَوَابَةِ الْفَخْرِ وَالشَّانِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب فخر و شان کی بلند چوٹی ہیں اور نعمتوں کے

وَلِبَابِ التَّعْمَاءِ وَمَعَانِي الْأَسْمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

مغز اور اسماء (آدم علیہ السلام) کے معانی و مصداق ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَحْمَةً الْمَلِكِ الْعَلَامِ ط وَ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب اللہ شہنشاہِ عالم کی رحمت مجتم ہیں اور

رَضِكَ الْمُبِهِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر شہیدہ و معنی محل نگاہ اور منظور نظر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زَيْنَةَ الْمَكُونَاتِ وَقُرْبَاتِ الْقُرْبَاتِ وَسِرِّ

محمد پر جو محبوب زینت ہیں مخلوقات کی اور عبادت کا سبب قرب و قبولیت ہیں اور

الْعِنَايَاتِ وَرَأْسِ سَيْرِ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

عنايات الملیہ کا راز سر بستہ ہیں اور تمام مخلوقات کے لیے اکبر اعظم ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَهَارَةَ الْقُلُوبِ وَنَهَايَةَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب سراپا طہارت ہیں قلوب کے لیے اور منتہی ہیں

الْمَطَالِبِ وَصَفَاءِ الْمَشَارِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

مطالب و مقاصد کا اور اسبب ہیں شرعی آب حیات کے گھاٹوں کی صفائی و پاکیزگی کا اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ظِلَالِ الْأَمَانِ وَيَنَابِيعِ الْإِمْتِنَانِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مجسم سائے ہیں امان و عافیت کے اور سرچشمے ہیں احسان خداوند تعالیٰ

وَمَوْصِلَةِ الرِّضَاءِ وَالرِّضْوَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

کے اور پہنچانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا و رضوان تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كِمَالِ الْكِمَالِ وَضِيَاءِ الْمَحَافِلِ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کمالات کا سبب تکمیل ہیں اور محافل و بارگاہ وصال کی

وَالْوَصَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

ضیاء ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ عُنْصُرِ الْأَسْرَارِ وَعِذَائِ الْبَصَرِ وَالْبَصَائِرِ وَشَرَفِ الْأَبْرَارِ

پر جو محبوب اصل جوہر ہیں اسرار خداوندی کا اور غذائے نورانی ہیں سر کی آنکھوں اور چشمان بصیرت کے لیے اور جم شرف ہیں نیک کاروں

وَهَذَا آيَةُ الْاٰخِيَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

کے لیے اور ہدایت ہیں بزرگوار حضرت کے لیے اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَضِيْلَةً الْفَرَجِ وَوَلَايَةَ الدُّهَى وَالْاِبْتِدَاءِ وَ

کی آل اطہار پر جو محبوب کائنات اور فراموشی کا موجب فضل اور سراپا ولایت و تصرف ہیں عقول میں اور ابتداء

الْاِنْتِهَاءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِفْتَاحِ الْعُلُوْمِ

انتہاء ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو محبوب علوم

الرَّبَّانِيَّةِ وَنُقْطَةِ الْبَاءِ الدِّيَوْمِيَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

ربانیہ کی کتب اور دوام و سرمدیت کی باد کا نقطہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَشْكُوْرَةَ اَشْعَةِ الظُّهُورَاتِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب طاق ہیں اللہ تعالیٰ کے ظہورات و تجلیات

الدَّائِيَّةِ اَبَدًا اَدْوَابًا وَاِمْرَانُوْرًا اَشْعَتْهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دائیہ کی شعاؤں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جب تک عالم ہیں ان شعاؤں کے انوار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِرَاةِ الْاِجْلَاءِ لَوَامِعِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب صاف و شفاف آئینہ ہیں اللہ تعالیٰ

الضِّيَااتِ الْاَسْمَائِيَّةِ وَالصَّفَاتِيَّةِ وَمِصْبَاحِ رُجَاةِ لَيْلِ الْاَزَلِ

کے اسماء و صفات کی روشن تجلیات کا اور شب اول کے شبیہ میں محفوظ چراغ ہیں

وَشَمْسِ صَبَاحِ الْاَبَدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اور صبح ابد کا آفتاب درخشاں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَقْفَالِ طَلْسِمِ الْغَيْبِ الَّذِي لَمْ يَطْلُعْ عَلَيْهِ اَحَدٌ

آل محمد پر جو محبوب اس غیب کے طلسمی تالے ہیں جس پر کوئی مطلع نہیں ہوا

وَطُوْرٍ تَجَلِّيَاتِ اَنْوَارِكَ الَّذِي لَا يَدْرِكُهُ اَحَدٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور تیری تجلیات کے انوار کا طور ہیں جنہیں کوئی پا نہیں سکتا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ضَمِيرٌ حَقَائِقُ اسرارِكَ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب تیرے اسرار کے حقائق کی ایسی ضمیر ہیں کہ اس کا

الَّذِي جَلَّ مَرْجِعُهُ أَنْ يُدْرِكَهُ أَحَدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مرجع و مصداق اس سے بلند تر ہے کہ اس کا کوئی احاطہ کرے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَظْهَرِ الْمُسْتَهَيِّ الْإِنْدِمَارِجِيِّ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو اجمال اور سمٹے سٹڑے مستہی کا مظہر اور

وَمَحَلِّ تَجَلِّيَاتِكَ وَمَظْهَرِ ذَاتِكَ وَأَمِينِ سِرِّكَ الْمَصُونِ فِي

تیری تجلیات کا مظہر اور تیری ذات کا مظہر ہیں اور امین ہیں تیرے اس راز کا جو پوشیدہ ہے

الْكَافِ وَالتُّونِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کاف و تون (کن) میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الظَّاهِرِ فِي الْعَوَالِمِ وَالْخَلِيفَةِ بِالْخِلَافَةِ الْعُظْمَى

محمد پر جو ظاہر ہیں تمام جہانوں میں اور تیرے نائب و خلیفہ ہیں حقیقت میں بطور خلافت عظمیٰ

عَلَى الْحَقِيقَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور نیابت کبریٰ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَاطِنِ فِي السِّرِّيَّاتِ الدَّائِيَّةِ فِي كُلِّ طَرِيقَةِ اللَّهِ

محمد پر جو محبوب مخفی و پوشیدہ ہیں ہر طریقہ کے ذاتی اسرار مخفیہ میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَدْرِ تَقْدِيرِكَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب تیری تقدیریں

وَتَوْحِيدِكَ وَسِرِّ تَنْزِيهِكَ وَتَفْرِيدِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

و توحید کا ماہ تمام ہیں اور راز مخفی ہیں تیری تنزیہ اور یتنائی کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَحَجَّتِكَ الْوَاضِحَةِ فِي الْجَمْعِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب تیرا واضح راستہ ہیں مقام جمع



وَالْفَرْقِ وَحُجَّتِكَ النَّاطِقَةِ بِلسَانِ الْحَقِّ وَالْخَلْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور فرق میں اور تیری ناطق وویل ہیں ساتھ حقّی زبان کے اور مخلوق کی زبان کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الَّذِي

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو تیرے حبیب

هُوَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْمَمْدُوحُ بِأَنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ

مؤمنین کے ساتھ رعون ورحیم ہیں اور مدح کئے ہوئے ہیں ساتھ اس قول کے کہ بیشک تم البتہ خلق عظیم

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ہو اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب

جَاءَنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَهَدَانَا إِلَىٰ صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَ

اے ائے ہمارے پاس قرآن عظیم اور ہمیں گامزن کیا صراط مستقیم پر اور

تَخَلَّصْنَا بِاتِّبَاعِهِ مِنَ النَّارِ الْجَحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

غلامی حاصل کی ہم نے ان کی اتباع کی بدولت دوزخ کی بھڑکتی آگ سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَعَجَّرُ الْأَلْسُنُ عَنْهُ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر کہ عا حیرت ہیں تمام زبانیں اس محبوب کا

بَيَانُ بَعْضِ كَمَالِهِ وَتَقْصُرُ الْعِبَارَةُ عَنْ إِحْاطَتِهِ بِأَقْلٍ خِصَالِهِ

کچھ کمال بیان کرنے سے اور قاصر ہیں عبارات ان کی کمترین خصلت کے احاطہ سے

وَتَقْتَنُ الْأَفْكَارُ بِلِجَّةٍ مَنْ لَمَحَاتِ جَمَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آزمائش میں پڑجاتے ہیں افکار ان کے جمال کے جلووں میں سے ایک جلمہ کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ فِي كُلِّ مَقَالٍ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب ہے ہیں اپنے ہر قول میں

وَفِي بَيَانِ الْهُدَىٰ وَالضَّلَالِ وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اور ہدایت و گمراہی کے بیان میں اور تمام احوال میں۔ اے اللہ صلوات و



سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ إِلَىٰ جَمِيعِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل محمد پر جو محبوب بھیجے گئے تمام

المَخْلُوقَاتِ وَالْمَوْئِدِ بِالْمُعْجَزَاتِ الْبَاهِرَاتِ وَبِالْبَلِغِ فِي كَمَالِهِ النَّهَائِيَاتِ

مخلوقات کی طرف اور تائید و تقویت دے گئے ہیں واضح معجزات کے ساتھ اور واصل ہونے والے ہیں اپنے کمال

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَطْرًا كَرَامًا

کی آخری صلوٰۃ کے لئے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو تیرے محیط اعزاز و اکرام کے

الشَّامِلِ وَعَقْوِكَ الْكَامِلِ وَعَيْتِ اِنْعَامِكَ الْهَامِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

اور عقوکامل کے منظر ہیں اور تیرے انعام کی موشلا دھار بارش ہیں۔ لئے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جُثْمَانِ هَذَا الْوَجُودِ وَظِلِّ عِنَايَتِكَ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو اس وجود کے مجسمہ ہیں اور تیری عنایت کا

الْمَمْدُودِ وَبَابِ كُلِّ تَجَلِّيٍّ وَنُورِ عِيُونِ الْاَكْوَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پھیلا ہوا سایہ ہیں اور ہر تجلی و مشاہدہ کا دروازہ ہیں اور موجودات کی آنکھوں کا نور ہیں۔ لئے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَمِيمِ الْفُؤَادِ وَسُوَيْدِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو مضبوط دل والے ہیں اور بہا در دل

الْاَكْبَادِ وَهُوَ بَيْكَلٌ خَيْرٌ مَّعْرُوفٌ وَبَيْكَلٌ كَمَا لَمْ مَوْصُوفٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

دگر وہ والے اور وہ ساتھ ہر خیر اور بھلائی کے معروف ہیں اور ساتھ ہر کمال کے موصوف ہیں۔ لئے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَلِيلِ كُلِّ تَائِبٍ وَخَائِرِ رَوْ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب دلیل و رہبر ہیں ہر حیران و سرگردان کے اور

قَدْ وَهَّ كَلِّ سَالِكٍ وَسَائِرٍ وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْهُ فَهُوَ إِلَى النَّارِ صَائِرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پیشوا ہیں ہر سالک اور راہرو کے اور جس نے ان کی اتباع نہ کی تو وہ آتش و دوزخ کی طرف جا میوالا ہے۔ لئے اللہ صلوٰۃ و

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنبِعِ كُلِّ فَضِيلَةٍ وَشِفَاءِ كُلِّ نَهْجَةٍ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب ہر فضیلت کا سرچشمہ ہیں اور سراسر شفا ہیں ہر بیمار روح کے لیے



وَعَلَيْكَ وَمُتَشَرِّفٍ كُلِّ حَيٍّ مِّنَ الْعَرَبِ وَقَبِيلَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

اور شرف بخشے والے ہیں عرب کے ہر گروہ اور قبیلہ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ مَوْجُودٍ وَأَفْضَلِ مَوْلُودٍ وَأَكْرَمِ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب بزرگتر موجود ہیں اور افضل ترین مولود اور معظم ترین

فَخْصُوصٍ وَفَحْمُودٍ وَرَامِدَادِ الْجُودِ وَسِرَاجِ كُلِّ مَوْجُودٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

و مخصوص اور محمد کئے ہوئے اور جود و نوال کا سبب تسلسل اور چراغ نور ہیں ہر موجود کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَدَلُهُ ظَاهِرٌ وَنُورُهُ بَاهِرٌ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس محبوب کا عدل ظاہر ہے اور نور غالب ہے

وَكَطْرِيقَةُ أَعْظَمُ مِنْهَا بِرِجْوَيْهِ وَسِرَاجِ نُورِهِ وَهَاجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

اور ان کا راستہ عظیم شاہراہ ہے اور ان کا نور بہت روشن چراغ ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَامُوسِي الْإِلَهِي وَالْكَمَالِ غَيْرِ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب اللہ تعالیٰ کے بہر وحدت کا معظم حصہ ہیں اور غیر محدود کمال مجسم

الْمُتَنَاهِي وَظِلِّ اللَّهِ فِي الْعَالَمِ وَنُحْبَةِ بَنِي آدَمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

اور اللہ تعالیٰ کا سایہ رحمت ہیں جہاں میں اور بنی آدم کے منتخب جوہر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَدَدِ السُّعُودِ وَمَا وِلْدَانِ قَطْمِ مِثْلَهُ

سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو سعادت مندوں کا سرچشمہ فیض ہیں اور نہیں پیدا ہوا ان کی مثل

مَوْلُودٍ وَلَا يُوَلَّدُ فِي الْوُجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

کوئی مولود اور نہ آئندہ پیدا ہوگا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ مَظْهَرِ الْأَحْدِيثِ وَمُحَلِّي بُتْجَلِيَّاتِ الْقُدْسِيَّةِ وَفَحْمُودِ

آل محمد پر جو محبوب سربستہ راز ہیں مظہر احديث کا اور آراستہ و پیراستہ ہیں ساتھ تجلیات قدسیہ کے اور مجموعہ

الْصِّفَاتِ الْكَلْبِيَّةِ وَالرَّحْمَوْتِيَّةِ وَكَمَالَاتِ اللَّاهُوتِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہیں صفات کلبیہ اور رحمانیہ کا اور کمالات لاهوتیہ تجردیہ کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَبْلَهُ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ وَبَرَزِيْنِ

فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو مرکز توجہ ہیں جہانوں کے لیے اور برزخ ہیں

الْعَالَمِينَ وَرُوحِ الْكُوْنِيْنَ وَسِرِّ الثَّقَلَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تمام جہانوں میں اور روح ہیں دونوں جہان کی اور راز ہیں نوع انس و جن کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْهَادِيْنَ وَالْمُهْدِيَّيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ

اور آل محمد پر جو محبوب آقا ہیں تمام ہادیوں اور ہدایت یافتہ لوگوں کے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے

تَوْفِيْقَ اَهْلِ الْهُدٰى وَاَعْمَالِ اَهْلِ الْيَقِيْنِ وَمُنَاصَحَةِ اَهْلِ التَّوْبَةِ وَ

اہل ہدایت کی توفیق کا اور اہل یقین کے اعمال کا اور اہل توبہ کے خلوص کا اور

عَزْمِ اَهْلِ الصَّبْرِ وَجِدِّ اَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلْبِ اَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدِ اَهْلِ

اہل صبر کے عزم کا اور اہل نوح کی سعی و کوشش کا اور اہل رغبت کی طلب کا اور پرہیزگاروں کی

الْوَرَعِ وَعِرْفَانِ اَهْلِ الْعِلْمِ حَتّٰى اَلْقَاكَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْهَادِيْ وَاَنَا الْمُسْتَحِيْرُ

عبادت کا اور اہل علم کے عرفان کا حتیٰ کہ میں تیری ملاقات کروں۔ اے اللہ تو ہی حقیقی ہادی ہے اور میں حیران و سرگردان

فَمَنْ يُّدْعُ الْمُسْتَحِيْرَ اِلَّا الْهَادِيْ يَا رَبُّ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الظَّاهِرُ وَاَنَا الْمَطْهُورُ

ہوں تو کس کو پکارے حیرت زدہ سوائے ہادی کے اے میرے رب۔ اے اللہ تو ظاہر ہے اور میں ظاہر کیا ہوا ہوں

فَمَنْ يُّدْعُ الْمَطْهُورَ اِلَّا الظَّاهِرِ يَا رَبُّ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَحْيِ وَاَنَا الْمَيِّتُ

تو کس کو پکارے (پروردہ عدم سے) ظاہر کیا ہوا سوائے ظاہر بالذات کے اے رب۔ اے اللہ تو ہی زندہ کرنے والا ہے اور میں میت

فَمَنْ يُّدْعُ الْمَيِّتَ اِلَّا الْمَحْيِ يَا رَبُّ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْجَبَّارُ وَاَنَا الْمُسْتَجَبِّرُ

ہوں تو کس کو پکارے مردہ سوائے زندہ کرنے والے کے اے رب۔ اے اللہ تو جبار ہے اور میں تیرے تصرف میں ہوں

فَمَنْ يُّدْعُ الْمُسْتَجَبِّرَ اِلَّا الْجَبَّارِ يَا رَبُّ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الشَّاهِدُ وَاَنَا

تو کس کو پکارے ماتحت سوائے جبار و متصرف غالب کے اے رب۔ اے اللہ تو دیکھنے والا ہے اور میں

الْمَشْهُودُ فَمَنْ يُّدْعُ الْمَشْهُودَ اِلَّا الشَّاهِدِ يَا رَبُّ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ

تیری نگاہ الوہیت کا مشاہدہ کیا ہوا تو کس کو پکارے مشہود سوائے شاہد کے اے رب۔ اے اللہ تو ہی

الْخَالِصُ وَأَنَا الْمَخْلُوصُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَخْلُوصَ إِلَّا الْخَالِصَ يَا رَبُّ

خالص ہے بذات خود اور میں خالص کیا ہوا ہوں تو کسے پکارے مخلوص سوائے خالص کے اے رب

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَاكِمُ وَأَنَا الْمَحْكُومُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَحْكُومَ إِلَّا الْحَاكِمَ يَا رَبُّ

اے رب تو ہی حاکم ہے اور میں محکوم ہوں تو کسے پکارے محکوم سوائے حاکم کے اے رب

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْجَامِعُ وَأَنَا الْمُفْرَقُ فَمَنْ يَدْعُ الْمُفْرَقَ إِلَّا الْجَامِعَ

اے اللہ تو جمع کرنے والا ہے اور میں تفرق انداز ہوں تو کسے پکارے متفرق کر نیا الا سوائے جمع کرنے والے کے

يَا رَبُّ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّيِّدُ وَأَنَا الْمُهْتَدِي فَمَنْ يَدْعُ الْمُهْتَدِي

اے رب۔ اے اللہ تو ہی سید و آقا ہے اور میں ہدایت پانے والا تو کس کو پکارے ہدایت پانے والا

إِلَّا السَّيِّدَ يَا رَبُّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْبَاقِي وَأَنَا الْفَانِي فَمَنْ يَدْعُ الْفَانِي

سوائے باقی کے اے رب۔ اے اللہ تو ہی باقی ہے اور میں فانی ہوں تو کسے پکارے فانی

إِلَّا الْبَاقِي يَا رَبُّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْكَرِيمُ وَأَنَا اللَّعِيمُ فَمَنْ يَدْعُ اللَّعِيمَ

سوائے باقی کے اے رب۔ اے اللہ تو کریم و بزرگ تر ہے اور میں کمینہ و کمتر ہوں تو کسے پکارے کمتر و کمتر

إِلَّا الْكَرِيمَ يَا رَبُّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْكَاشِفُ وَأَنَا الْمُضْطَرُّ فَمَنْ يَدْعُ

سوائے کریم و بزرگتر کے اے رب۔ اے اللہ تو مصائب دور کرنے والا ہے اور میں مجبور و بے بس ہوں تو کسے پکارے

الْمُضْطَرَّ إِلَّا الْكَاشِفَ يَا رَبُّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الشَّافِي وَأَنَا الْعَلِيلُ

مجبور و بے بس سوائے مشکل کشا کے اے رب۔ اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے اور میں بیمار ہوں

فَمَنْ يَدْعُ الْعَلِيلَ إِلَّا الشَّافِي يَا رَبُّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَمِنُ وَأَنَا

تو کسے پکارے بیمار سوائے شفا دینے والے کے اے رب۔ اے اللہ تو ہی امن دینے والا ہے اور میں

الْخَائِفُ فَمَنْ يَدْعُ الْخَائِفَ إِلَّا الْأَمِنَ يَا رَبُّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الرَّزَّاقُ

خوفزدہ ہوں تو کسے پکارے خوفزدہ ماسوائے امن دینے والے کے اے رب۔ اے اللہ تو ہی رزق دینے والا ہے

وَأَنَا الْمَرْتُوقُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَرْتُوقَ إِلَّا الرَّزَّاقَ يَا رَبُّ اللَّهُمَّ

اور میں رزق دیا ہوا تو کسے پکارے محتاج رزق سوائے رزاق کے اے رب۔ اے اللہ

أَنْتَ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَاعْفِرْ ذُنُوبِي وَاعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ يَا قُدُّوسُ

تو میرا آقا و مولا ہے میرے گناہ بخش اور مجھے آتش ووزخ سے آزاد فرما۔ اے قدوس

يَا سُبُّوحُ أَنْتَ الْمُنَزَّاهُ عَنِ النَّقَائِصِ وَالْمَعَارِبِ وَالْمَرَاتِبِ وَأَنْتَ

اے سبح تو پاک ہے تمام نقائص اور عیوب سے اور ترتیبوں سے اور تو ہی

الْمُعْظَمُ فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ يَا عَلِيُّ يَا مُتَعَالَى لَكَ الْعُلَى وَالشَّانُ مِنْكَ

لائیق تعظیم ہے (حقیقت میں) تمام مشرقی اور مغربی علاقوں میں۔ اے بلند شان۔ اے بند درجات والے تیرے لیے ہی ہے

وَالْيَكُ مُنْتَهَى الْأَمَلِ وَإِنْ تَهَاءُ الْأَمْرِ وَالرَّجَاءِ يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ لَا بَدَايَةَ

بلندی اور نینا اور تجھی سے اور تجھی تک ہے انتہاء ہر امید و آرزو کی اور انتہاء ہر امر اور رجا و امید کی۔ اے اول۔ اے آخر نہیں ابتداء

لَكَ وَلَا انْتِهَاءَ لَكَ يَا قَادِرُ يَا قَدِيرُ يَا مُقْتَدِرُ لَا قُدْرَةَ إِلَّا لَكَ لَا حَوْلَ

تیری اور نہ ہی انتہاء تیرے لیے، اے قادر۔ اے قدیر۔ اے مقتدر نہیں قدرت مگر تیرے لیے۔ نہیں طاقت

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَا وَاحِدٌ لَا وُجُودَ وَلَا غِنَاءَ لِأَحَدٍ قُنْ غَيْرِكَ يَا سَمِيعُ

اور قوت مگر ساتھ اللہ تعالیٰ کے۔ اے واحد نہیں وجود اور نہ غنا کسی کے لیے سوائے تیری عطا کے۔ اے سمیع

يَا بَصِيرُ يَا عَلِيمُ تَسْمَعُ التَّجْوِيَّ وَتَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى يَا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ

اے بصیر۔ اے علیم تو سنا ہے سرگوشیوں کو اور جانتا ہے علانیہ کو اور جو مخفی ہے۔ اے پیدا کرنے والے آسمانوں

وَالْأَرْضِ فَطَرْتَ فِطْرَةَ فَا بَدَعْتَ وَصَنَعْتَ فَاحْسَنْتَ وَخَلَقْتَ

اور زمینوں کے تو نے پیدا فرمایا پس عمدہ انداز میں پیدا کیا اور ڈھالا پس اچھی طرح ڈھالا اور موجود کیا

يَا مَالِكُ يَا مَلِيكَ أَنْتَ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ وَالسُّلْطَانُ الْعَظِيمُ تُوْتِي الْمَلِكَ

اے مالک۔ اے شہنشاہ تو ہی قدیم بادشاہ اور عظیم سلطان ہے عطا کرتا ہے ملک جس کو چاہے

مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِّمُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

اور چھین لیتا ہے جس سے چاہے اور عزت دیتا ہے جس کو چاہے اور ذلت دیتا ہے جس سے چاہے

بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْهَنَافُ خَذُ بَنُو صَيْبِنَا إِلَى مَا هُوَ

تیری ہی دست قدرت میں ہے خیر و بھلائی تو ہر چیز پر کامل دسترس والا ہے۔ اے ہمارے الٰہ پس ہماری بیشانیوں کو کھڑکھڑات اس کے جو

أَحْسَنَهُ وَأَتَمَّهُ وَخَصَّنَا مِنْكَ بِمَا هُوَ أَوْسَعُ وَأَخْصَهُ وَأَتَمَّهُ

تو بہتر اور کامل تر ہے اور مخصوص بظہر ہیں اپنی طرف وسیع تر اور مخصوص ترین اور کامل وسائل تر

وَأَعْمَهُ فَإِنَّ الْأَكْفَّ لَا تَبْسُطُ إِلَّا لِلْغَنِيِّ الْكَرِيمِ وَلَا تَطْلُبُ

انعام کے ساتھ کیونکہ ہتھیاریاں نہیں پھیلائی جائیں مگر غنی و کریم کے حضور اور رحمت نہیں طلب کی جاتی

الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ وَأَنْتَ الْمَقْصِدُ الَّذِي لَا

مگر غفور رحیم سے اور تو ہی مقصد حقیقی ہے جس سے تجاوز نہیں

يَتَعَدَّاهُ مُرَادٌ وَالْكَفْرُ الَّذِي لَا حُدَّ لَهُ وَلَا نَفَادَ اللَّهُ الْوَلِيُّ

کرتا کسی کا ارادہ اور ایسا خزانہ کہ جس کی حد نہیں ہے اور نہ خاتمہ و زوال۔ اللہ ہی مالک

الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي يُسَبِّحُهُ الظُّلَالُ وَالْفِيءُ مَا نِعَ لَا يُدْرِكُهُ

بادشاہ، دائمی حیات والا ہے کہ جس کی تسبیح کرتے ہیں سائے صبح کے اور زوال کے مانع ہے جہنم سرور

الْعَيْنُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ

دیکھنے سے نہیں اس کی مانند کوئی شئی اور وہی سنانے دیکھنے

الْبَصِيرُ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا

والا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے " نہ بناؤ

الْهَيْئِينَ اثْنَيْنِ اسْمَاهُ

دو الہ - معبود برحق

إِلَهٍ وَاحِدٌ

صرف ایک ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ

فرمادیں بچے وہ عظیم الشان والا اللہ یگانہ و یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے جنا اور نہ

يُولَدُ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

وہ جنا گیا اور نہیں اس کے لیے ہمسرہ و مماثل کوئی ایک۔

